

# مشہور عالم جنتری

۱۹۳۶ء

رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۲

ایڈیشن ۸۵۰۰۰

کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے شائع کیا

سول ایجنٹس [illegible] تاجران کتب لاہور

کوہ ہمالیہ جہاں سونے چاندی اور لوہے کی کانیں ہوتی ہیں وہاں انکا ست لیکر

عنایت پروردگار سے سلاجیت پیدا ہوتا ہے ہم اپنے دشوار گذار مقامات سے عرصہ ۴۸ سال سے منگا کر طب ویدک کے طریقہ سے صاف کرتے ہیں جو کہ ہر موسم میں استعمال کیا جاسکتا ہے جس کے ہزارہا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں ۔

قوت بڑھانے والی طاقت دینے والی منی ضعف دور کرنیوالی تمام اقسام کے جریانوں سلسل البول کی بیماری دور کرنیوالی ڈاکٹری اور حکما کی پسندیدہ

# اصلی سلاجیت

اکسیر اعظم

اکسیر اعظم

حکیم ویدوں ڈاکٹروں نے متفق ہو کر تجربہ کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ دنیا بھر کی ادویات میں شدھ سلاجیت کی برابر ہر قسم کے جریانوں کو دفع کرنیوالی کوئی دوا نہیں جس کے استعمال سے بوڑھے جوان اور جوان طاقتور بنجاتے ہیں دو چار خوراک ہی فائدہ نظر آتا ہے ان کی سستی کمزوری ایکا ایک غائب ہو جاتی ہے کچھ دن استعمال کرنے سے ہر قسم کی بات جریان و کمزوری اب میں احتلام ہونا قطرہ پیشاب کے ساتھ دھات کا آنا پیشاب کا بار بار آنا مثانہ کی کمزوری نامردی ناطاقتی ہر قسم کا درد تھکاوٹ دماغی کمزوریاں سر کا درد چکر آنا پاگل پن مرگی وغیرہ ہمیشہ کیلئے دور ہو جاتے ہیں اور رقیق و پتلی دھات کو گاڑھا کر دیتا ہے اس کے استعمال سے نیا خون پیدا ہوتا ہے دل و دماغ اور جسم میں طاقت اور آنکھوں میں روشنی بدن میں پھرتی اور چستی چہرے پر رونق آجاتی ہے ایک ہی خوراک میں پیشاب کی جلن کرکری پیلی رنگت دور ہو جاتی ہے سات روز استعمال کرنے سے پرانے سوزاک کو آرام ہو جاتا ہے ایسے ہی خونی و بادی بواسیر کو دور کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے ریاحی درد ہاتھ پاؤں کمر اور پسلی کا درد جسم کی ہر تکلیف کو اور ورم جوڑوں کا درد مدت سے بدن میں طاقت پیٹ اور نفس کی بیماری کو دور کرنیکی خاص طاقت اور اثر اس سلاجیت میں موجود ہے ۔ ہر سال کم سے کم جو شخص ہماری سلاجیت کو ایک وزن میں پانچ تولہ کھاتا رہے اور بچوں کو بھی کھلاتا رہے تو ہر قسم کی بیماریوں سے بچ کر موٹا تازہ اور تندرست رہیگا اور عمر بھی زیادہ ہوگی ترکیب استعمال ہمراہ نسخہ کے چھپی ہوئی ہے جو قیمت بھیجی جاتی ہے اور قیمت بھی بغرض فائدہ عام و خاص بہت کم رکھی گئی ہے ۔

پانچ تولہ کی قیمت سوا دو روپے دس تولہ کی قیمت سوا چار روپے بیس تولہ کی قیمت آٹھ روپے محصول ڈاک پانچ آنے ۵
چالیس تولہ کی قیمت ساڑھے پندرہ روپے اسی تولہ یا سیر بھر کی قیمت تیس روپے - علاوہ محصول ڈاک

ملنے کا پتہ:- مالک ہمالیہ ڈپو ہردوار یوپی
*Proprietor Himalaya Depo*
*P.O. Hardwar U.P.*

تصدیق (۱) ہماری سلاجیت کا استعمال [illegible] جناب حکیم سید محمد قاسم علی صاحب [illegible] صدر انجمن طلبا مراد آباد تحریر فرماتے ہیں [illegible] استعمال کرایا بڑی مسرت کے ساتھ مالک ہمالیہ ڈپو ہردوار یوپی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپکا صاف شدہ سلاجیت [illegible] (۲) آل انڈیا آیورویدک مہامنڈل اور [illegible] کی تعریف بیان کی طاقت سے باہر ہے ۔

پنڈت گردھاری لعل
منجّم وجفّار سیالکوٹی لاہور کی

# ۱۹۳۶
# مشہور عالم جنتری

رجسٹرڈ نمبر ۱۰۰۳

جسے

**پنڈت رگھناتھ داس جوتشی خلف**
**پنڈت گردھاری لعل منجّم وجفّار سیالکوٹی**
مالک کارخانہ مشہور عالم جنتری
و
مشہور عالم پریس لاہور
نے

امرت الیکٹرک پریس بیلیے روڈ لاہور میں باہتمام بابو دھرم چند بہار گوپی ۔ ایس ۔ سی چھپوا کر
کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور
سے شائع کیا

M.A.LIBRARY, A.M.U.
U23555
URDU STACKS
۲۳۵۵۵
۵۲۹۶۳

# علم جادو کی بے نظیر کتابیں

علم جادوگری کے شائقین آئیں۔ اور ان کتابوں کا مطالعہ کرکے دیکھیں۔ کہ اس علم کے متعلق ان کتابوں میں کیسے کیسے سربستہ راز کھول کر رکھ دیے گئے ہیں۔ ہر شخص بلا مدد استاد ان کتابوں کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے

## جادوگروں کا گورو گھنٹال

### دنیا بھر کے جادوگروں کا بادشاہ

### ملک تبت کا زندہ جادو

ناظرین! آپ نے آج تک سینکڑوں جادو کی کتابیں دیکھی ہونگی لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں۔ کہ ہماری اس کتاب کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ اس کے لائق مصنف نے صدہا قلمی اور بوسیدہ کتابوں کے مطالعہ کے بعد اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اس میں صدہا قسم کے جنتر منتر تنتر وغیرہ ایسے ایسے درج کئے ہیں۔ جو اپنی عملی تاثیر میں بے مثال ہیں۔ اور جن کی ہر فرد بشر کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ تراکیب نہایت آسان اور عام فہم ہیں کہ ہر شخص بلا کسی مشکل کے عمل کر سکتا ہے مفصل فہرست مضامین تو درج کرنے کی یہاں گنجائش نہیں البتہ مختصر طور پر آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ کہ اس کتاب میں ہمزاد کو قابو کرنے کے بے نظیر طریقے۔ ہمزاد کے خفیہ راز۔ ہمزاد سے کام لینا۔ دور دراز کی خبریں چشم زدن میں منگوانا۔ بھوت پریت کو قابو کرنا۔ کسی کو مسخر کرکے اس سے حسب منشا کام لینا۔ دور دراز ملک کے تحائف گھر بیٹھے حاصل کرنا۔ ہزاروں کوسوں کی خبر ایک منٹ میں منگوا لینا۔ خلقت کی نظر سے غائب ہوکر سب حالات دیکھنا۔ ایک رات میں معشوق کی ملاقات کرنا۔ معشوق کو بذریعہ جنتر منتر تنتر کے زیر کرنا۔ مسمریزم کے مفصل بیان۔ بذریعہ مسمریزم امراض کا علاج۔ سر درد دور کرنے کا منتر۔ دشمنوں کو زیر کرنے کا طریقہ۔ گھر بیٹھے تمام دنیا کی سیر کرنا۔ علم سیارگان۔ علم کاشف سحر۔ علم قیافہ وغیرہ وغیرہ غرضیکہ صدہا اس قسم کے مضامین درج ہیں۔ کتاب کی خوبی دیکھنے سے معلوم ہوگی۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے اس کی قیمت مجلد صرف دو روپیہ (عار)

## دیوتاؤں اور بھوت پریت جنات کو بس میں کرنا

اس کتاب میں تمام دیوتاؤں مثلاً ہنومان۔ بھیروں کالی دیوی۔ اندر وغیرہ تمام قسم کے دیوتاؤں کو بس میں کرنا اور بھوت پریت جنات وغیرہ کو قابو کرکے ان سے ہر قسم کا کام اپنی مرضی سے لینا۔ ان سب کے مفصل طریقے۔ اور منتر درج ہیں۔ تھوڑی سی محنت سے ہر شخص عامل بن کر ہزاروں روپیہ اس علم سے پیدا کر سکتا ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

## بنگال کا جادو

ہر قسم کے جنتر منتر۔ سحر طلسمات درج ہیں۔ جو کہ نہایت پر تاثیر ہیں قیمت صرف آٹھ آنے (۸ر)

## سلیمانی جادو

جس میں ہر قسم کے تعویذ ہر مطلب کیلئے منتر۔ گنڈے جادو وغیرہ جو کبھی خطا نہ کریں۔ درج کئے گئے ہیں۔ قیمت صرف چھ آنے (۶ر)

## رسالہ خواب

خواب کا نیک و بد نتیجہ ہر قسم کا درج ہے۔ قیمت آٹھ آنے (۸ر)

## مردہ روحوں سے بات چیت

مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو عالم ارواح سے بلا کر ان سے بات چیت و ملاقات کرنے کے خواہشمند اس رسالہ کو منگوا کر پڑھیں۔ قیمت ۱۲ر

## ملک مصر کا قدیمی جادو

مصر کا ملک جادوگری میں قدیم سے مشہور ہے۔ اس لئے ہم نے بڑی محنت سے بڑی بڑی پرانی کتابوں کو حاصل کرکے ان میں سے یہ کتاب تیار کی ہے جس میں ہر مطلب کے جادو جنتر منتر درج کئے ہیں۔ جو کبھی خطا نہیں کرتے۔ غرضیکہ آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں چھپی جیسی پہلی مرتبہ ہم نے چھاپی ہے۔ اسکو ضرور منگوا کر فائدہ اٹھاؤ۔ قیمت صرف ۸ر

## تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے



اس کو جاننے کا طریقہ ہم سے سیکھو۔ انسانی ہاتھ میں جو ریکھا یعنی خط و خال ہوتے ہیں۔ وہ بے فائدہ نہیں ہوتے۔ ماہران علم پامسٹری کی اپنی مدت سے یکجا ہر ایک شخص کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی تمام عمر کے حالات مثلاً عمر کتنے سال کی ہے۔ کس کس عمر میں بیماری یا تکلیف ہوگی؟ شادی کب ہوگی؟ عورت کیسی ملیگی؟ شادی ایک ہوگی یا زیادہ؟ اولاد ہوگی یا نہ؟ لڑکے لڑکیوں کی تعداد۔ روزگار۔ ترقی و تنزل کا زمانہ۔ بد قسمتی کا حال۔ نیک و بد چال چلن وغیرہ وغیرہ ایک نظر میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے جاننے کا طریقہ سنسکرت کے پراچین گرنتھوں۔ اور زمانہ حال کی نئی امریکن و انگریزی تحقیقات کی مدد سے ہم نے اس رسالہ راز تقدیر میں درج کر دیا ہے۔ اور اس میں ہر قسم کے ہاتھوں کے نقشہ جات درج کرکے ان کا مفصل حال لکھا ہے۔ اس کتاب کو ایک مرتبہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے سے آپ پورے نجومی بن کر دوسروں کے تمام عمر کے حالات معلوم کر لینگے۔ اس فن والوں نے لاکھوں روپیہ اسی کام کے ذریعہ پیدا کر لیا۔ آپ بھی محروم نہ رہیں ✦ جلد نہایت خوبصورت کپڑے کی بنی ہوئی ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنے (عہ ۴ر) محصولڈاک علاوہ

**ملنے کا پتہ۔ مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ۔ لاہور**

# جو چاہو گے وہی ہو جائیگا

## منتر سدھی

زمانہ قدیم میں یوگی مہاتما منتروں کے ذریعہ تمام دنیاوی مشکلات کو حل کر دیتے تھے۔ تمام امراض کا دفعیہ۔ دشمنوں پر فتحیابی۔ نظر بد۔ سایہ۔ آسیب۔ جن۔ بھوت کا دور کرنا وغیرہ وغیرہ منتروں کے ذریعہ ہی ہوتا تھا۔ افسوس کہ انقلاب زمانہ کے ساتھ ہی یہ علوم نیست و نابود ہو گئے۔ ہم نے بڑی محنت و کوشش اور جنگلوں و پہاڑوں کی چھان بین سے بڑے بزرگ سن رسیدہ مہاتماؤں کی خدمت میں رہ کر بصد مشکل ان سے سینہ بسینہ رازوں کو حاصل کیا ہے۔ اور اب بغرض فائدہ رفاہ عام اس کتابی شکل میں چھاپ دیا ہے۔ ان کی سدھی کے لئے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ کسی جنگل۔ قبرستان یا شمشان میں جانا پڑے گا۔ بلکہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر ایک گھنٹہ روزانہ عمل کرنے سے چند یوم میں منتر سدھ ہو گا۔ منتر کے سدھ ہونے پر آپ تمام دنیاوی مشکلات کو چشم زدن میں حل کر لیں گے۔ سایہ جن و بھوت۔ نظر بد وغیرہ کو پھونک مار کر آزاد کر دیا کریں گے۔ ایک نظر سے بے روزگاروں کے لئے روزگار اور ترقی کاروبار کا ظہور ہوگا۔ دشمن۔ دوست اور دوست فرمانبردار ہو جائیں گے۔ بچھڑے ہوئے محبوب خود بخود قدموں پر گریں گے +

قیمت صرف ایک روپیہ بمعہ محصول ڈاک (عہ)

## ہمزاد سدھی

ہمزاد سدھی ایک ایسی چیز ہے جس کو قابو میں کر کے انسان اس سے ہر قسم کا کام لے سکتا ہے۔ اس کتاب میں ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی نہایت آسان ترکیبیں لکھی گئی ہیں۔ اس کو منگوا کر پڑھیئے۔ اور بلا خوف ہمزاد کو اپنے قبضے میں کر لیجئے۔ چشم زدن میں مشکل کام سر انجام دیجئے۔ ہزاروں کوسوں کی اشیاء میوے پھل ہمزاد کے ذریعے منگوا لیجئے۔ دوسروں کے دلوں کے خفیہ بھید معلوم کر لیجئے۔ جن کو آپ چاہیں۔ اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیجئے۔ تمام دنیا کا حال گھر بیٹھے بذریعہ ہمزاد سن لیجئے۔ غرضیکہ جو کام آپ چاہیں۔ اس غلام بے دام یعنی ہمزاد سے لیجئے۔ جلد منگوا لیں۔ ورنہ ختم ہونے پر دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قیمت معہ محصول ڈاک صرف ۱۲؍

## کرامات

وہ جادو۔ منتر۔ تنتر وغیرہ جنکو آجکل کے لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں ان کو سائنس کے ذریعہ ثابت کر کے دکھلایا گیا ہے۔ جو چاہے آزما کر دیکھ لے۔ یوگ ابھیاس پرانا یام کے اصول۔ قوت خیالی کے کرشمے۔ دوسروں پر اثر ڈالنا۔ فاصلہ پر خبر پہنچانا۔ دشمن تسخیری۔ نظر بندی۔ مخفی اور دور کی چیزوں کو دیکھنا۔ تسخیر ارواح۔ روحوں سے کام لینا۔ خزانہ تلاش کرنا۔ جادو کے راز۔ علاج روحانی۔ بلا دوا بیمار کو تندرست کرنا۔ مسمریزم کے قواعد علاج۔ بسی کرن کے طریقے۔ عملیات تسخیر ہمزاد۔ اسم اعظم۔ سانپ بچھو کا زہر منتر سے دور کرنا اس کے علاوہ سینکڑوں کارآمد باتیں درج ہیں۔ قیمت صرف (۲؍)

پتہ ملنے کا
مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس
بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

# مسمریزم کے ۴ نایاب نسخے

## پہلا نسخہ یعنی بے جان منشی



تجربہ بتلا رہا ہے کہ زمانہ حال کے عالمان مسمریزم نے اپنی عجیب ایجادوں سے ایک عالم حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ باتیں جن کے وجود سے ہی کسی وقت انکار تھا یا جن کو لوگ بھوت۔ پریت کی کرامات سحر و افسوں کی ترکیبیں خیال کرتے تھے آج وہ تمام باتیں علم مسمریزم کی بدولت آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ آلہ جس کو پلانچٹ کہتے ہیں۔ اس پر حسب ترکیب کچھ عرصہ مشق کرنے کے بعد اس پر ہاتھ رکھنے سے عامل دل کی مخفی باتیں اور ان کے نیک و بد انجام معلوم کر سکتا ہے۔ یہ آلہ مسمریزم کی ایک عجیب و غریب ایجاد ہے۔ اس کو منگوا کر اور کچھ دیر تک مشق رکھ کر قدرت کے عجائبات دیکھیں۔ قیمت معہ محصول ڈاک ایک روپیہ آٹھ آنہ (۱؍۸)

## سلیمانی انگوٹھی ۱۴؍

علوم نادرہ کے شائقینو! یہ انگوٹھی علم مسمریزم کے اصول پر تیار ہوتی ہے۔ جس کی زیادہ تعریف فضول ہے۔ صرف اس قدر بتلا دینا ضروری ہے کہ حسب ہدایت اس پر عمل کرنے سے عامل بذریعہ سہولت مردہ روحوں سے ملاقات۔ گمشدہ چیزوں کا پتہ نشان۔ چوری گئی ہوئی چیز کے ملنے نہ ملنے کا حال۔ بیمار کی حیات و ممات کا پتہ معلوم کر سکتا ہے وہ [illegible] دوستوں کی ملاقات [illegible] متبرک مقاموں کی زیارت۔ بچھڑے ہوؤں کو ملانے اور خفیہ رازوں کا پردہ اٹھانے کیلئے یہ انگوٹھی بہت کام دیتی ہے [illegible] مقصد ہو سکے۔ قیمت صرف معہ محصول ڈاک [illegible] ۱۴؍

## قوت جاذبہ پیدا کرنیکا مقناطیسی آلہ

قیمت ۴؍



علم مسمریزم کے شائقینو! اپنے خیالات کو ایک نقطہ پر جمع کرنے کی مشق کے واسطے یہ آلہ منگوا کر چند روز تک حسب ہدایت خلوت میں بیٹھ کر اس پر مشق کرنے سے عامل کے اندر کشش مقناطیسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ انسان مسمریزم کا عامل بن کر حیرت انگیز کرشمات و معجزات دکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ قیمت ۲؍ دو روپیہ

## کراماتی آئینہ



شائقینو! یہ وہ کراماتی آئینہ ہے جس پر ہر شخص حسب قاعدہ مشق کر کے ہر امر کی عقدہ کشائی کر سکتا ہے۔ مفقود الخبروں کا پتہ اور گمشدوں کا نشان بتلا سکتا ہے۔ عالم ارواح کی سیر اور پیغمبروں کی روحوں سے شرف نیاز حاصل کر سکتا ہے۔ اس آئینہ میں کوئی بھوت پریت بند نہیں۔ بلکہ علم مسمریزم کے نادر اصولوں اور یوگ فلاسفی کی ترکیبوں کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے۔ جو اپنی مقناطیسی طاقت سے ہر شخص کو روشن ضمیر بنا کر مایوس المرادوں کو بامراد بنا دیتا ہے۔

قیمت معہ محصول ڈاک ایک روپیہ دس آنہ (۱؍۱۰)

پتہ ملنے کا:- دی مسمریزم اپریٹس کمپنی ماڈل ٹاؤن لاہور

# صنعت و حرفت کی بے نظیر کتابیں!

جن کے مطالعہ سے ہزاروں بیروزگار لوگ کاروبار میں لگ گئے اور ہزاروں روپیہ پیدا کیا

## ہر قسم کے صابن بنانا

ہمارا اس کتاب میں روزمرہ کے استعمال کے انگریزی صابن۔ کپڑا دھونے کے مختلف اقسام کے انگریزی صابن۔ ادویات کے صابن۔ بازیچہ اطفال اور دوسرے سینکڑوں طرح کے صابن تیار کرنے کے نہایت سہل اور آسان نسخے درج کئے گئے ہیں۔ ہر شخص خود بخود دیکھ کر ہر طرح کا صابن تیار کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس میں تھوڑے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ سو دو سو روپیہ ماہوار کمانا معمولی بات ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے (۸)

## سونے کی چڑیا

یعنی صنعت، حرفت کے [illegible]

کتاب ہذا میں ہر قسم کے [illegible]

## ہر قسم کی سیاہیاں بنانا

یعنی

ماسٹر آف انک

اس رسالہ میں ہر قسم و ہر رنگ کی سیاہیاں بنانے کی ترکیبیں تفصیل سے درج کئے گئے ہیں۔ لکھنے کی سیاہیوں کے علاوہ ہر قسم کی سیاہیاں مثلاً پرنٹنگ انک، فونٹین پن کی سیاہی، سٹیمپ کی، ربڑ کی سیاہی، چھاپنے کی سیاہیاں، خفیہ تحریر کیلئے جادو کی سیاہی جس کا نام و نشان [illegible] پنسل کی سیاہی وغیرہ سینکڑوں نسخے آزمودہ درج ہیں۔ ہزاروں روپیہ کما سکتا ہے۔ قیمت ۱۲

## جڑی بوٹیوں کے خواص

اس کتاب میں ہر قسم کی جنگلی جڑی بوٹیوں کی تصویریں۔ ان کے خواص۔ بوٹیوں کی شناخت کرنے کے لئے ان کے رنگ، بو، پھل، پھول کا بیان۔ مختلف زبانوں میں ان کے نام۔ پیدا ہونے کی جگہ۔ جس جس مرض کیلئے وہ کارآمد ہے اس کا بیان اور جو دوائیں ان کے ذریعہ تیار ہو سکتی ہیں ان کا مفصل حال درج ہے۔ ہر ایک حکیم و طبیب کیلئے اس کتاب کا پاس رکھنا لازمی ہے۔ قیمت صرف بارہ آنے (۱۲)

## رفیق بے روزگاری یعنی لاکھوں روپیہ پیدا کرنے کا راز

اس کتاب میں لائق مصنف نے صدہا ہنروں کے آزمودہ اور مجرب نسخہ جات اس خوبی سے درج کئے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ اگر آپ ان میں سے ایک دو ہنر بھی مکمل سیکھ کر کام شروع کر دیں تو دنوں میں لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں۔ کتاب کیا ہے صنعت و حرفت کا ذخیرہ ہے۔ اس میں فوٹوگرافی، گھڑی سازی، گلٹ سازی، دندان سازی، رنگ ریزی، صابن بنانا، ہر قسم کی سیاہیاں تیار کرنا، ہر قسم کا انگریزی و دیسی صابن بنانا، بسکٹ کی بیکری کا کام، کاغذ سازی، نقاشی، انگریزی مٹھائیاں تیار کرنا، ہر قسم کے عطر، تیل، عرق، شربت، معجون، اچار، چٹنی، مربے بنانا، [illegible] کا کام، چھوٹے سامان تیار کرنے کے طریقے، [illegible] پارے سے [illegible] بنانا، پچاس بیماریوں کی ایک ہی دوائی کا مکمل نسخہ، ایسے پانچ سو سے زیادہ ہنر اس کتاب میں درج ہیں۔ جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیمت صرف دو روپے (عہ)

## بجلی ماسٹر با تصویر

آج کل ہندوستان میں بجلی کا عام رواج ہو رہا ہے۔ اس کام کے جاننے والے ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں۔ اس لئے عام لوگوں کے فائدہ کیلئے بجلی کے کام کے متعلق یہ کتاب نہایت محنت سے تیار کی گئی ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہر ایک شخص بجلی کے ہر قسم کے کام مثلاً مکانوں میں بجلی لگانا، بجلی کے پنکھے ٹھیک کرنا، بجلی کے پنکھوں کی مرمت کرنا، بجلی کی روشنی سے لطف حاصل کرنا، بیاہ شادی کے موقعہ پر بجلی کی روشنی کرنا، بجلی کے ذریعہ کمروں کو سردی کے موسم میں گرم کرنا، موٹر کار کی بجلی درست کرنا، بجلی کے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا [illegible] وغیرہ وغیرہ آدمی خود بخود بلا امداد استاد کامل مہارت حاصل کر کے مکمل بجلی ماسٹر بن سکتا ہے۔ قیمت صرف دو روپیہ (عہ)

## رہنمائے عطاراں

اس کتاب میں ہر قسم کے عرق، شربت، معجون، گلقند، مفرح، یاقوتی اور دیگر ادویات کے تیار کرنے کی ترکیبیں درج ہیں۔ قیمت بارہ آنے (۱۲)

## کامل حکیم

اس کتاب میں ہر ایک مرض کے نہایت پرتاثیر خاص خاص پیٹنٹ نسخہ جات بڑی محنت و کوشش سے بڑے بڑے لائق حکما اور ڈاکٹر صاحبان سے حاصل کر کے درج کئے گئے ہیں۔ ہزاروں مریضوں پر آزمائش شدہ نسخے جو کبھی خطا نہیں کرتے۔ آپ کو اس کتاب پر [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

## عطر سازی

اس رسالہ میں ہر قسم کے خوشبودار تیل، لیونڈر، فیس کریم، ویزلین تیار کرنے کی ترکیبیں درج ہیں۔ قیمت صرف (۸)

## حلوائی کا کام

اس میں دیسی مٹھائی ہر قسم کی بنانے کی ترکیبیں درج ہیں۔ جن کے مطالعہ سے آدمی لائق حلوائی بن سکتا ہے۔ قیمت آٹھ آنے (۸)

## انگریزی مٹھائیاں بنانا

اس کتاب میں ہر قسم کی انگریزی مٹھائیاں بنانے کے اصول مفصل طور پر درج ہیں۔ قیمت ایک روپیہ (عہ)

## دستاویز نویسی کا استاد

اس کتاب میں ہر قسم کی دستاویزات۔ اشٹام، ہنڈی، رہن نامہ، بیعنامہ، وصیت نامہ، رسید، پرونوٹ، رسوم اسٹامپ کے متعلق وغیرہ وغیرہ اس خوبی سے درج کئے گئے ہیں کہ جن کے مطالعہ سے ایک معمولی لکھا پڑھا آدمی بھی کامل وثیقہ نویس بن جاتا ہے۔ تمام کاروباری لوگ، زمیندار، سیٹھ، ساہوکار، تعلقدار وغیرہ اس کتاب کی ایک جلد ضرور اپنے پاس رکھیں۔ صدہا لوگ اس کتاب کی مدد سے اول درجہ کے عرضی نویس بن کر سینکڑوں روپیہ ماہوار کما رہے ہیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

## موٹر ڈرائیوری کا استاد

اس رسالہ میں ہر قسم کی موٹروں کا مفصل بیان۔ ان کے نقشے۔ پرزوں کے نام، موٹر مرمت کرنے کے طریقے، موٹر کو چلانے کا طریقہ، موٹر کو اوور ہال کرنا وغیرہ وغیرہ موٹر ڈرائیوری کے متعلق نہایت کارآمد ضروری باتیں درج ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہر ایک شخص موٹر ڈرائیور بن سکتا ہے۔ اور موٹر مرمت کر سکتا ہے۔ غرضیکہ یہ رسالہ اس فن کا مکمل استاد ہے۔ قیمت صرف دو روپے (عہ)

## فوٹوگرافی

اس کتاب میں فن فوٹوگرافی کا مفصل بیان ہے۔ تصویر اتارنے کے طریقے، پلیٹ اور فلم کو دھونا، پھر تصویر کو کاغذ پر لانا۔ تصویر دلکش کو چمک دینا، ماؤنٹ کرنا، کیمرے کا مفصل حال، کیمرے کے نقص درست کرنا، ہر قسم کے ہینڈ و سٹینڈ کیمرہ سے کام لینا۔ فوٹوگرافی میں کارآمد ادویات کے نام، ان کو ملا کر کام میں لانے کے طریقے وغیرہ مفصل درج ہیں۔ اس کے مطالعہ سے آدمی مکمل فوٹوگرافر بن کر ہزاروں روپے کما سکتا ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

ملنے کا پتہ:- مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

دوا منگانے کا پتہ :- بابو شیام لعل جی رسیتن پریم بٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔ پی)

گورنمنٹ سے رجسٹری کی ہوئی

# اپنے جیون کی پریم بٹی

آجکل ہمارے بہت سے بھائی ٹھیک دوا نہ ملنے کی وجہ سے خوفناک مرض کے شکار بن جاتے ہیں۔ بیچاروں کے پاس اتنی دولت کہاں؟ جو ڈاکٹروں کو فیس دیکر اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں، بیچارے اجنبی سینکڑوں تعریفوں سے بھری ہوئی اشتہار بازی میں پھنسکر اپنی تندرستی و دولت دونوں کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی خیال سے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کا خیال کرکے آپکو جلد از جلد جادو اثر دکھانے والا نسخہ بتاتا ہوں جس سے کہ میں خود صحتیاب ہوا ہوں ہمارے امیر و غریب سبھی بھائی بنا کر فائدہ اٹھاویں اور میری محنت کو کامیاب بنا دیں۔ یہ نسخہ لیٹے ادبہی تجربہ ہونے پر حاصل ہوا تھا۔ میں ایک زمیندار کا لڑکا ہوں بری صحبت کی وجہ سے جریان و احتلام کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پہلے تو میں نے ایک دو سال تک کوئی فکر نہ کی اور شرم کی وجہ سے کسی سے اپنا حال نہیں بتایا، تھوڑے عرصہ بعد اس جریان و احتلام کی بیماری نے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ اب تو مجھے ہوش آیا، اور علاج کرانا شروع کیا، کہاں تک لکھوں ویدوں، ڈاکٹروں حکیموں و نیم حکیمے نامی دوا خانوں سے دوائیاں منگا کر استعمال کیں یہاں تک کہ جس نے جو دوا بتائی وہی میں نے کھائی مگر مرض پیچھا چھوڑنے کی بجائے بڑھتا ہی گیا۔ اور میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مجھے اپنی اس حالت پر بڑا ہی رنج معلوم ہوتا تھا۔ یہی سوچا کرتا کہ میں شروع ہی میں اپنا علاج کراتا یا دوستوں سے بتاتا تو مجھے یہ تکلیف نہ برداشت کرنا پڑتی ہمارے یہاں ایک میل کے فاصلے پر کالینیو کا اونچا بھاری کھیڑا ہے، اسی کھیڑے پر کبھی کبھی سادھو مہاتما آکر رہتے ہیں۔ اتفاق سے اسی کھیڑے پر کاٹھیاواڑ کے ایک پہنچے مہاتما جی آکر رہے اور ایک جھاڑی میں آسن لگائے ایشور کی یاد میں مست بیٹھے رہتے۔ کچھ لڑکوں نے وہاں دیکھ کر گاؤں میں شہرت پھیلا دی کہ ایک پہنچے ہوئے مہاتما جی کھیڑے پر آئے ہیں۔ یہ سن کر گاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں کے بھی لوگ انکے درشن کو جانے لگے۔ ایک دن میں بھی ان کے درشن کے لئے وہاں گیا۔ درشن ہونے پر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹا اتنے زیادہ کمزور دکھائی کیوں دکھائی پڑتے ہو؟ تب میں نے اپنی بیماری کا کل حال بتایا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا اور مجھے ایک نسخہ بتایا جو کہ یہ تھا:

دوا منگانے کا پتہ:- بابو شیام لعل جی ریس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔ پی)

اصلی تازہ ترپھلا کا چھدت پانچ (۵) تولہ اصلی شہد پتلی شلاجیت ڈھائی ۲½ تولہ اصلی بنگ بھسم چھ ماشے اصلی سور چھاپ کیسر چھ ماشے، اصلی اکرقرحا چھ ۶ ماشے، اصلی نیپالی کستوری نو ۹ رتی سب دوائیں کوٹ چھین کر کپڑے سے چھان کر کھرل میں ڈال کر اوپر سے آمیل کو ویو اشٹیل سیپی کا تیل ۲۰ بوند آنل کچے واد ہیروزہ کا تیل ۲۰ بوند آنل صندل (چندن) کا تیل ۲۰ بوند ڈال کر برہمی بوٹی کے عرق میں ۱۲ گھنٹے گھوٹ کر جھربیری کے بیر کے برابر گولی بنا کر سایہ میں سکھا کر رکھ لے ایک گولی صبح ایک گولی شام کو گائے یا بکری کے پاؤ بھر دودھ میں ۲ دو تولہ شکر ڈال کر پی لے میں ۴۰ روز میں ایشور کی کرپا سے اسی دوا سے صحتیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ اتنا عرصہ گذرا مجھے ذرا بھی شکایت نہیں ہوئی۔ اور اسی پرم پتا کی کرپا سے تین بچے بھی ہیں۔ جو کہ بالکل تندرست ہیں۔ اس وقت سے میں یہی نسخہ لوگوں کو تیار کرکے دام کے دام پر اپنے آس پاس کے گاؤں میں دیتا رہا۔ جس سے سینکڑوں بھائیوں کو فائدہ پہنچا۔ اور مرادیں پوری ہوئیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بھائیوں نے کہا بابو جی اسے ملک کی بہتری کے لئے اخباروں میں چھپوا دیجئے۔ تب میں نے جواب دیا کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں۔ وئیدوں حکیموں نے اسی احتلام و جریان کے مرض پر سینکڑوں اشتہار چھپوائے مگر لوگ ان کو جھوٹا سمجھ کر کچھ خیال نہیں کرتے تو میں ہی کیا کر سکتا ہوں لیکن اپنے سینکڑوں فائدہ پائے ہوئے بھائیوں اور میں نے بھی اپنی زندگی پا جانے کی خوشی میں ملک کی بہتری سمجھ کر اس چھوٹے سے پرچے کو چھپوا کر اور اپنے آدمیوں کو کرایہ دیکر ہندوستان کے ہر شہر قصبے دیہاتوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دوا منی کے پتلا پن۔ بیسوں قسم کے جریان۔ پیشاب کے ساتھ چونے کی طرح منی کا خارج ہونا۔ پاخانے کے وقت منی کا گرنا۔ خواب ہو جانا سوزاک۔ کمزوری۔ جوانی میں بڑھاپے کی سی حالت، اصلی طاقت کی کمی معلوم ہوتا۔ سوچنے کی طاقت کا کم ہو جانا وغیرہ نامردی کو دور کرکے بدن میں انتہائی طاقت پیدا کر جوانی کا مزہ جسم کی رگ رگ میں بھر دیتی ہے۔ جو بھائی بنانا چاہیں اوپر کے لکھے نسخے کے مطابق تیار کر لیویں۔ جو چیز آپ کے یہاں نہ مل سکے، تو بابو شیام لعل جی ریس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ یو پی سے منگا لیں کیونکہ ان دوائیوں کی سخت ضرورت سمجھ کر اور بھائیوں کو پاک و تازہ دوائی ٹھیک وقت پر نہ ملنے سے ہم نے ان سبھی دوائیوں کا تھوک مال رکھنے کا انتظام کر لیا ہے، ہمارے یہاں سبھی دوائیاں کیسر کستوری شلاجیت، بنگ بھسم وغیرہ پاک اور تازی ہر وقت تیار ملتی ہیں۔ جن بھائیوں کو بنانے میں تکلیف ہو وہ ہمارے یہاں سے بنی بنائی منگا لیں۔ چالیس گولیوں کا خوبصورت پیکٹ جس کی قیمت ۱۰ کے دام پر صرف دو روپیہ (۲) تین پیکٹ کی پانچ روپیہ (۵) چھ پیکٹ کی قیمت نو روپیہ

ڈاک خرچ معاف منی آرڈر فیس ۲ر اوپر سے لکھے ہوئے پتے سے منگائیے۔

دوا منگانے کا پتہ

بابو شیام لعل جی ریس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔ پی)

گورنمنٹ سے رجسٹری کی ہوئی

# کام سندری بٹی

**کام سندری بٹی** ایک تعجب خیز جنگلی بوٹیوں کی جلد از جلد فائدہ دکھانے والی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ گولیوں کو استعمال کرنے کے لئے بتلائی ہے، جو لوگ بچپن میں بری عادتوں یا کبھی بری صحبت میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کر کے بنیادی خشکیوں سے ناامید ہو چکے ہیں۔ اس سے پھر لطیف پوری زندگی بسر کرنے والوں کے جسم میں نئی زندگی پیدا کر کے نامردوں کو مرد بناتی ہے، پوشیدہ مقام کی کمزوری، مردانہ رگیں طاقت کے جوش میں بھڑک اٹھتی ہیں۔ بارہ برس کی ہوئی بہت اور برسوں کی مرجھائی ہوئی طبیعت کھلا کر انسان کے جسم میں نوجوانی کی طاقت بھر جاتی ہے۔ اس کی گولی کھا کر آپ جس عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ...... وہ آپ کی خادم بن جائے گی۔ حقیقت میں عورتوں کے لئے یہ ایک دوا بشی کرن منتر ہے، آپ جب تک نہیں چاہیں گے انزال نہیں ہو سکے گا اور نہ آپ کو کسی قسم کی سستی یا تھکاوٹ ہی معلوم ہوگی، اس دوا سے ہزاروں آدمیوں کو جو بنیادی مشکل سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے پھر سے ایک مرتبہ جوانی کے نئے رنگ میں رنگ دیا۔ سینکڑوں جوانوں کے آئے ہوئے شکریہ و تعریفوں سے بھرے ہوئے خطوط اس دوا کی سچائی کے ثبوت ہیں۔ اس دوا کے استعمال کرنے سے پرانے سے پرانا پوشیدہ کمزوری، خواب کا ہو جانا، سستی، منی کا گرنا، کمزوری کی وجہ سے مرضی کے موافق کام ٹھیک ٹھیک نہ ہونا۔ بدن میں ڈھیلا پن، ناطاقتی، پاخانہ ہوتے وقت گرد دھتی کا گرنا، نامردی، جلد انزال ہو جانا وغیرہ کی وجہ سے مایوسانہ زندگی بسر کرتے ہوں ایسے مریضوں کو **کام سندری بٹی** ہر شٹ پشٹ کر کے سارا جسم دنگل کی طرح چمکنے لگتا اور ہر ایک نس میں بجلی کی طرح طاقت پیدا کر کے جوانی کی لہریں بدن کی نس نس میں پیدا کر دیتا ہے۔ خوبصورت اولاد پیدا کرتی ہے۔ عورتوں کی ہر قسم کی بیماری، حمل گرنا، ماہواری کم یا زیادہ ہونا وغیرہ دور کر کے حمل قرار پانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ قیمت ایک پیکٹ ۲؎ دو روپے، تین پیکٹ کی قیمت پانچ روپیہ، چھ پیکٹ کی قیمت (للعہ) نو روپیہ، ڈاک خرچ چھ پیکٹ تک (۲) دو آنہ۔ نقالوں سے ہوشیار، زیادہ بکری دیکھ کر لوگوں نے نقل کی ہے۔

**دوا منگانے کا پتہ:- ویدرتن شری ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبر ایجنسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)**

نامردوں کو مرد بنانے والا

## طلاء مستانہ

بچپن کی جہالت سے خلاف قدرت بری عادتوں میں پڑ کر جلق میں مبتلا ہو جانے سے یا شہوت کی کثرت سے اعضاء تناسل کمزور ہو گئے ہوں، آگے یا پیچھے کا حصہ موٹا، جسم پتلا پڑ گئی ہو، قوت مردمی زائل ہو کر مردی جاتی رہی ہو اور زندگی بیکار معلوم ہوتی ہو، عضو تناسل کے ٹیڑھا ہونے سے بچہ دانی تک منی کے نہ پہنچنے پر حمل قائم ہونے و اولاد ہونے میں خلل پڑتا ہو، تو طلاء مستانہ لگانے سے ہر قسم کی کمزوری دور ہو کر رگوں میں قوت دیگر بدستور طاقت کو بڑھا کر اصلی نوجوانی کا لطف عطا کر کے مستانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ قیمت فی شیشی (عہ) دو روپیہ آٹھ آنہ۔ ڈاک محصول معاف۔

چہرے کو خوبصورت بنانے والا

## روپ بلاس

دنیا میں مشہور ہے کہ جس کے لگانے سے چہرے کے کالے داغ، مہاسے، چھائیاں، پھنسی، خشکی، بدرونقی، جھریاں وغیرہ جلد آرام ہو جاتی ہیں، چند روز کے استعمال سے کملایا ہوا چہرہ چاند کی طرح چمکدار و گورا ہو جاتا ہے۔ چہرہ پر چھائی ہوئی کیسی ہی بدصورتی، بدرونقی اور جھائیں کیوں نہ ہو، اس کے لگانے سے ہی چہرہ کنول کے پھول کی مانند کھل اٹھے گا۔ اگر آپ اپنا چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہوں تو روپ بلاس خرید کر آزمائیں۔ یہ "روپ بلاس" مرد، عورت دونوں کو خوش کرنے والا ہے۔ اس کی خوشبو بھی بہت پیاری ہے۔ کہ طبیعت مست کر دیتی ہے۔ قیمت فی ڈبیہ (عہ) ایک روپیہ دس آنے۔ ڈاک محصول معاف۔

دوا ملنے کا پتہ

**ویدرتن شری ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبر ایجنسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)**

دوا منگانے کا پتہ: سوئیدرتن شری ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبرا کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

## منموہنی تیل

اس تیل کو سر میں لگاتے ہی آپ کی طبیعت مست ہو کر خوشبو سے بھر جاویگی اور مدھر منوہر بہت بھینی بھینی خوشبو سے خوش ہو کر پاس کے بیٹھے ہوئے دوستوں کا دل لوٹ پوٹ ہو جاویگا۔ تیل لگا کر جس سمت سے آپ نکل جاوینگے۔ وہاں کے بیٹھنے والوں کو تعجب ہوگا۔ کہ یہ عجیب بہار اور دلکش خوشبو کس باغیچہ سے آرہی ہے، اس کے استعمال سے سر گھومنا، دماغ کی کمزوری، درد سر، بال جھڑنا، کم عمری میں بال پکنا، سر میں خشکی رہنا۔ وغیرہ فوراً اچھا ہوتا ہے۔ وہ سر کے بالوں کو کالا پیچ دار رکھتا ہے۔ اور مغز کو برف کی طرح ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ تیل کئی باغ کے بہت بڑھیا تازے پھولوں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس لئے سب لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ چار شیشی منگانے سے ایک شیشی انعام۔ ڈاک خرچ بذمہ خریدار ۔

## کنٹھ پپیہا

اس کے کھانے سے کوئل کے موافق رس بھری مدھر منوہر سریلی رنگیلی اور منموہنی آواز ہوتی ہے۔ کھاتے ہی جلد گلا صاف کر کھانسی دور کرتی ہے۔ گانے والے، اپدیشک، کتھا بانچنے والے، پنڈت، ناٹک منڈلی، رام لیلا، راس لیلا، رامائن پڑھنے والوں کو ہمیشہ پاس رکھنی چاہئے جن گانے والے شوقینوں کو اپنی رنگیلی، رسیلی، سریلی اور میٹھی آواز کرنا ہو ان کو "کنٹھ پپیہا" منگا کر ضرور استعمال کرنا چاہئے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ ۸ آنہ عہ ڈاک خرچ معاف ۔

## سوزاک بندو

یہ ہزاروں بار کی آزمودہ اصلی دوا ہے۔ کھاتے ہی فوراً آرام کرتی ہے۔ کیسا ہی پیپ، مواد آتا ہو یا کپڑے میں داغ پڑ جاتا ہو پیشاب کرنے میں سخت جلن اور درد ہوتا ہو۔ کبھی کبھی خون ملا پیشاب ہوتا ہو۔ پیشاب بوند بوند اترتا ہو۔ بدن پیلا اور کمزور ہو گیا ہو۔ تھوڑا تھوڑا پیشاب کر کے اور جلن کے ساتھ اترتا ہو جس سے جھنجھلاہٹ سی رہتی ہو۔ برسوں کا پرانا یا نیا سوزاک کیوں نہ ہو پہلی ہی خوراک کھانے سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ اور زندگی بھر آرام ملتا ہے۔ قیمت فی شیشی عہ ڈاک محصول معاف ۔

## ناری سنجیون

یہ دوا خاص عورتوں کیلئے تیار کی گئی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے جریان، دھات چھین، پردر، پیچھا چھٹنے سے اولاد ہی نہیں ہوتی اور ہمیشہ سفید یا لال و پیلا پانی کا فساد بنا رہتا ہے، مہینہ ٹھیک وقت پر نہ ہونے سے سر درد، بھوک کم لگنا، کلیجہ میں جلن، بدن دبلا پتلا، کمر اور ریڑھ میں درد، ہتھیلی اور پیر کے تلوؤں میں جھنجھناہٹ، دل میں اداسی بنی رہتی ہے اور اولاد ہونے پر بھی کمزور اور تھوڑے روز زندہ رہتی ہے یا ہو کر مر جاتی ہے جس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ہم نے بہت دنوں کے تجربہ سے اس دوا کو ایجاد کیا ہے اس دوا کے استعمال سے عورتوں کا جریان، پردر، دھات چھین آرام ہو کر مہینہ ٹھیک وقت پر ہوتا ہے اور بدن میں بخوبی طاقت آتی ہے۔ دوسرے اولاد تندرست پیدا ہوتی ہے۔ قیمت فی شیشی ۲ روپیہ ۸ آنہ عہ ڈاک خرچ معاف ۔

## چندر پرکاش سُرمہ

یہ سُرمہ ترپھلے کے عرق میں بجھا کر دو مہینہ کیلا کے درخت میں دو تین مہینہ نیب کے درخت میں گاڑ کر بسایا گیا ہے، اس کے بعد اصلی گلاب کے عرق میں اصلی موتی ہیرا وغیرہ بہت قسم کے مصالحہ اور جنگلی جڑی بوٹیوں اور پتیوں کے عرق میں ڈال کر ایک مہینہ برابر گھوٹا گیا ہے۔ اس کے لگانے سے آنکھوں میں طاقت اور نئی روشنی پیدا ہوتی ہے ایک سلائی لگاتے ہی آنکھوں کی تھکاوٹ دور کرتا ہے۔ اور تراوٹ لاتا ہے۔ جن صاحبوں کو دن رات میں آنکھوں سے زیادہ کام لینا پڑتا ہو۔ انکو "چندر پرکاش سرمہ" ضرور لگانا چاہئے۔ یہ آنکھوں کی کل بیماریوں کو دور کرتا ہے جیسے لالی، دھند، ڈھلکا بہنا، کیچڑ نکلنا، زیادہ دیکھنے سے آنکھوں میں جھلاہٹ اور پانی بھر آنا، روشنی کم ہونا، کھجلاہٹ، نزلہ وغیرہ کو آرام کرتا ہے۔ اس سرمہ کا نسخہ بادشاہی زمانے کے بہت بڑے تجربہ کار نامی حکیم سے میرے بابا کو ملا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سرمہ پانچسو روپیہ تولہ فروخت کیا جائے تو بھی کم قیمت ہے۔ قیمت فی شیشی عہ ڈاک خرچ معاف ۔

## بال صفا سُندری صابون

اس کو بالوں پر لگاتے ہی فوراً بال صاف ہو جاتے ہیں اور وہ جگہ بالکل صاف چکنی ملائم نکل آتی ہے۔ گویا بال کبھی جمتے ہی نہ تھے، اگر تیز استرے سے بھی صاف کیا جائے تو ایسی صفائی نہیں ہوتی۔ اس سے نہ چمڑا پھٹتا ہے نہ جلن ہوتی ہے۔ چاروں طرف صفائی نظر آتی ہے قیمت فی ٹکیہ چار آنے ہے چھ ٹکیہ ایک روپیہ ڈاک محصول ذمہ خریدار ۔

دوا منگانے کا پتہ

ویدرتن ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبرا کنجوسی بازار اٹاوہ (یو۔پی)

## فہرست عام تعطیلات صوبہ پنجاب بابت سنہ ۱۹۳۶ء

| نام تہوار | تاریخ انگریزی | نام یوم | تعداد تعطیل | کیفیت |
|---|---|---|---|---|
| نیو ایرس ڈے | یکم جنوری | بدھوار | ۱ یوم | عدالت ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی |
| [illegible] | یکم جنوری | بدھوار | ۱ یوم | |
| چاند گرہن | ۹ جنوری | جمعرات | ۱ یوم | |
| لوہڑی | ۱۳ جنوری | سوموار | ۱ یوم | |
| بسنت پنچمی | ۲۸ جنوری | منگلوار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| شیوراتری | ۲۱ فروری | شکروار | ۱ یوم | عدالت میں تعطیل ہوگی |
| عید الضحٰے | ۵ مارچ | ویروار | ۱ یوم | عدالت ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی |
| ہولی | ۶ تا ۸ مارچ | شکر تا اتوار | ۳ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| سوماوتی اماوس | ۲۳ مارچ | سوموار | ۱ یوم | |
| درگا اشٹمی | ۳۰ مارچ | سوموار | ۱ یوم | |
| محرم | یکم تا ۳ اپریل | بدھ تا شکر | ۳ یوم | عدالت ۳ یوم ڈاکخانہ ۱ یوم |
| بیساکھی | ۱۲ اپریل | اتوار | ۱ یوم | عدالت ڈاکخانہ میں تعطیل ہوگی |
| ایسٹر کی تعطیل | بموجب گزٹ | شکر تا سوم | ۴ یوم | عدالت ۴ یوم ڈاکخانہ ۱ یوم |
| آخری چہار شنبہ | ۲۰ مئی | بدھوار | ۱ یوم | |
| امپائر ڈے | ۲۴ مئی | اتوار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| نرجلا ایکادشی | ۳۱ مئی | اتوار | ۱ یوم | |
| سالگرہ شہنشاہ ہند | ۳ جون | بدھوار | ۱ یوم | عدالت ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی |
| بارہ وفات | ۳ جون | بدھوار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| سورج گرہن | ۱۹ جون | شکروار | ۱ یوم | |
| بنک ہالیڈے | ۳۰ جون | منگلوار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| بیاس پوجا | ۴ جولائی | سنیچروار | ۱ یوم | |
| چاند گرہن | ۵ جولائی | اتوار | ۱ یوم | |
| رکھڑی | ۳ اگست | سوموار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| جنم اشٹمی | ۱۰ اگست | سوموار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| سوماوتی اماوس | ۱۷ اگست | سوموار | ۱ یوم | |
| تعطیلات موسم گرما | یکم ستمبر تا ۳۰ ستمبر | منگلوار تا بدھوار | ایک ماہ | عدالتیں بند رہیں گی |
| درگا اشٹمی | ۲۳ اکتوبر | شکروار | ۱ یوم | |
| دسہرہ | ۲۵ اکتوبر | اتوار | ۱ یوم | عدالت ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی |
| شب برات | ۳۱ اکتوبر | سنیچروار | ۱ یوم | |
| دیوالی | ۱۳ نومبر | شکروار | ۱ یوم | عدالت ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی |
| بھیا دوج ٹکا | ۱۶ نومبر | سوموار | ۱ یوم | |
| [illegible] | ۲۸ نومبر | سنیچروار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| جمعۃ الوداع | ۱۱ دسمبر | شکروار | ۱ یوم | |
| عید الفطر | ۱۶ دسمبر | بدھوار | ۱ یوم | عدالت ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی |
| کرسمس ڈے | ۲۵ تا ۳۱ دسمبر | شکر تا ویروار | ۷ یوم | [illegible] |

### مقامی تعطیلات در لاہور

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ہولا | ۹ مارچ | سوموار | ۱ یوم | |
| عرس داتا گنج بخش | ۱۳ مئی | بدھوار | ۱ یوم | |
| میلہ [illegible] | ۱۷ مئی | اتوار | ۱ یوم | |
| میلہ [illegible] | ۲۴ مئی | اتوار | ۱ یوم | |

(نوٹ) (۱) ہر اتوار کو عام تعطیل ہوتی ہے (۲) ہر ماہ کے آخری سنیچروار کو سول کورٹ بند رہتی ہیں بشرطیکہ کام کی زیادتی نہ ہو ورنہ حکام [illegible] (۳) عدالتہائے دیوانی [illegible] میں بند رہتی ہیں مگر فوجداری حکام [illegible] پیش و پس ہو سکتا ہے (۴) پنجاب ہائیکورٹ موسم گرما کی تعطیلات کیلئے وسط جولائی سے آخر ستمبر تک بند رہتا ہے اور باقی حکام کی مرضی سے مقرر ہوتی ہیں (۵) ہر ضلع میں لوکل تعطیلات حاکم صاحب ڈسٹرکٹ تجویز کرتے ہوں گے لیکن ان کی تعداد ۶ سے زائد نہ ہوگی (۶) عدالت ڈاکخانہ کی تعطیلات کیفیت کے خانہ میں نوٹ کر دی گئی ہیں [illegible] حکام [illegible] (۷) اہل اسلام کی تعطیلات بوجہ کمی بیشی رویت ہلال ایک یوم پیش و پس ہو سکتی ہیں۔

## فہرست تعطیلات عدالتہائے ممالک متحدہ آگرہ و اودھ سنہ ۱۹۳۶ء

| نام تہوار | تاریخ انگریزی | نام یوم | تعداد تعطیل |
|---|---|---|---|
| نیو ایرس ڈے | یکم جنوری | چہارشنبہ | ۱ یوم |
| چاند گرہن | ۹ جنوری | پنجشنبہ | ۱ یوم |
| سنکرانت مکر | ۱۳ جنوری | دوشنبہ | ۱ یوم |
| مونی اماوس | ۲۵ جنوری | شنبہ | ۱ یوم |
| بسنت پنچمی | ۲۸ جنوری | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| شیوراتری | ۲۱ فروری | جمعہ | ۱ یوم |
| عید الضحٰے | ۵ مارچ | پنجشنبہ | ۱ یوم |
| ہولی | ۶ تا ۸ مارچ | جمعہ تا یکشنبہ | ۳ یوم |
| [illegible] کا میلہ | ۱۶ مارچ | دوشنبہ | ۱ یوم |
| سوماوتی اماوس | ۲۳ مارچ | دوشنبہ | ۱ یوم |
| رام نومی | ۳۱ مارچ | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| محرم | ۲۵ مارچ تا ۳ اپریل | چہارشنبہ تا جمعہ | ۱۰ یوم |
| ایسٹر ہالیڈیز | بموجب گزٹ | جمعہ تا دوشنبہ | ۴ یوم |
| [illegible] | ۱۰ مئی | یکشنبہ | ۱ یوم |
| چہلم | ۱۳ مئی | چہارشنبہ | ۱ یوم |
| آخری چہار شنبہ | ۲۰ مئی | چہارشنبہ | ۱ یوم |
| امپائر ڈے | ۲۴ مئی | یکشنبہ | ۱ یوم |
| بارہ وفات | ۳ جون | چہارشنبہ | ۱ یوم |
| سالگرہ شہنشاہ معظم | ۳ جون | چہارشنبہ | ۱ یوم |
| سورج گرہن | ۱۹ جون | جمعہ | ۱ یوم |
| بنک ہالیڈے | ۳۰ جون | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| گیارہویں شریف | یکم جولائی | چہارشنبہ | ۱ یوم |
| بیاس پوجا | ۴ جولائی | شنبہ | ۱ یوم |
| چاند گرہن | ۵ جولائی | یکشنبہ | ۱ یوم |
| ناگ پنچمی | ۲۳ جولائی | پنجشنبہ | ۱ یوم |
| سلونو | ۳ اگست | دوشنبہ | ۱ یوم |
| کرشن جنم اشٹمی | ۱۰ اگست | دوشنبہ | ۱ یوم |
| سوماوتی اماوس | ۱۷ اگست | دوشنبہ | ۱ یوم |
| اننت چودس | ۳۱ اگست | دوشنبہ | ۱ یوم |
| تعطیل کلاں | [illegible] | [illegible] | ایک ماہ |
| تعطیل کلاں | [illegible] | [illegible] | ایک ماہ |
| مہالیہ اماوس | ۱۵ ستمبر | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| ولادت علی مرتضیٰ | ۲۹ ستمبر | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| شب معراج | ۱۳ اکتوبر | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| دسہرہ | ۲۵ اکتوبر | دوشنبہ | ۱ یوم |
| شب برات | ۳۱ اکتوبر | شنبہ | ۱ یوم |
| دیوالی | ۱۳ نومبر | جمعہ | ۱ یوم |
| دیو اٹھانی | ۲۵ نومبر | چہارشنبہ | ۱ یوم |
| کاتکی اشنان | ۲۸ نومبر | شنبہ | ۱ یوم |
| جمعۃ الوداع | ۱۱ دسمبر | جمعہ | ۱ یوم |
| عید الفطر | ۱۶ دسمبر | چہارشنبہ | ۱ یوم |
| کرسمس ڈے | ۲۵ تا ۳۱ دسمبر | جمعہ تا پنجشنبہ | ۷ یوم |

(نوٹ) (۱) ہر یکشنبہ کو عام طور پر تعطیل ہوتی ہے (۲) ہر ماہ کے آخری شنبہ کو بھی عدالت دیوانی بند رہتی ہے۔ (۳) اہل اسلام کے تہواروں کی تعطیلیں بحساب رویت قمر ایک یوم پیش و پس ہو جاتی ہیں۔ (۴) چونکہ جنتری چھپتے وقت سرکاری گزٹ کی تعطیلات شائع نہیں ہوئیں۔ اس لیے بلحاظ تہواروں کے تعطیلات فہرست میں درج کی جاتی ہیں۔ (۵) لوکل تعطیلات بمرضی حکام ہو سکتی ہیں۔

## کوڑیوں کے مول موتی

مندرجہ ذیل چیزیں ہم نے شائقین کی صدہا فرمائشوں اور ان کے بار بار اصرار پر خاص اوقات میں بذریعہ علم جفر و تعویذ بار رقم کر کے آپ کی سہولت کو مدنظر رکھ کر بہت تھوڑی سی تعداد میں تیار کی ہیں اس لئے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو فوراً منگا لیں۔

### ۱۔ حب کا کاجل

یہ کاجل تنتر ودیا کے قواعد ساروں کی رفتار کو مدنظر رکھ کر خاص ساعت پر تیار کیا گیا ہے جس کے شائقینوں کے لئے عجیب تحفہ ہے۔ اس کو ڈالنے سے آنکھوں میں ایسی کشش مقناطیسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس شخص کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھا وہ فوراً دام محبت میں گرفتار ہوگیا۔ دشمنوں کی طرف دیکھنے سے وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ ہر دیکھنے والے کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ رعب داب قائم رہتا ہے پس اس کاجل کو حسب ہدایت استعمال کر کے جس کو چاہو بس میں کر لو۔ نہایت عجیب چیز ہے۔ قیمت فی شیشی دو روپے ... (عہ)

### ۲۔ شیر خوار بچوں کا محافظ تعویذ

یہ تعویذ علم جفر کے قاعدے سے خاص وقت چاندی کے پترہ پر نقش کیا گیا ہے۔ اس کو بچہ کے گلے میں پہنانا۔ بچہ ہر قسم کی نظر بد سایہ آسیب جن بھوت سے محفوظ رہیگا۔ جسکے زیادہ بچے فوت ہوں۔ اسکی تاثیر سے ہر وقت ہنستے خوشی کھیلتے رہیں گے۔ غرضیکہ یہ تعویذ شیر خوار بچوں کا پورا محافظ ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

### ۳۔ طلسمی تعویذ برائے حاملہ مستورات

ایک کامل بزرگ کا عطا کردہ تعویذ حسب ہدایت تیار کر کے چاندی کے تعویذ کے اندر محفوظ کیا گیا ہے اس کے گلے میں ڈالنے سے حاملہ مستورات ہر قسم کے خطرات۔ سایہ۔ آسیب۔ جن۔ بھوت۔ چڑیل سے محفوظ رہینگی۔ جن عورتوں کو اسقاط حمل یا مرض اٹھرا کا عارضہ ہو۔ ان کے گلے میں ڈالنے سے بفضل پروردگار ان امراض سے نجات پا کر گود ہری بھری ہوگی۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

### ۴۔ طلسم رفع نحوست زحل یعنی سنیچر

چونکہ جن لوگوں کے نام کی راس مکر، کنبھ، میں ہے ان کو سنیچر خراب ہے۔ جو کہ نہایت نحس نحوست ظاہر کریگا۔ اس لئے ہم نے ان لوگوں کے لئے رفع نحوست زحل طلسم تیار کیا ہے۔ جس کے پاس رکھنے سے بفضل پروردگار زحل کی نحوست رفع ہوگی۔ پس اگر آپ کو ضرورت ہو تو یہ طلسم ہم سے منگوائیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

ملنے کا پتہ: مہتمم کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

## مشہور عالم جنتری سنہ ۱۹۳۶ء

مشہور پرتاما [illegible] کی کرپا و دیا سے مشہور عالم جنتری کے چھپنے کا یہ [illegible] سال ہے۔ اس کے نادر مضامین کی مقبولیت نے ہندوستان اور ممالک غیر میں جہاں جہاں اہل ہنود و اہل اسلام احباب موجود ہیں۔ وہ مقبولیت اور عالمگیر شہرت حاصل کی ہے۔ جو اس سے پیشتر شاید ہی کسی جنتری کو نصیب ہوئی ہو۔ ہر ایک [illegible] اس کی قدر دانی اس کی تعداد اشاعت سے بخوبی ظاہر ہے۔ باوجود ایک لاکھ شائع ہونے کے ہزاروں شائقین اس کی خریداری سے ہر سال محروم رہ جاتے ہیں۔ اس قدر دانی کے لئے ناچیز مصنف پبلک کا تہ دل سے شکر گزار ہے ۔

## مشہور عالم جنتری کے مار آستین دوست

مشہور عالم جنتری کی اس ترقی ہوئی قدر دانی اور اس کے دن دونی رات چوگنی ترقی کو دیکھ کر بعض لوگوں کو اس کی یہ ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اور مارے حسد کے جل بھن کر کباب ہوئے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس تاک میں رہتے ہیں۔ کہ کسی نہ کسی طرح ہم کو نقصان پہنچاویں۔ کچھ عرصہ سے مشہور عالم جنتری کی ترتیب اور ڈھنگ پر بعض جنتریاں چھاپ کر اور مشہور عالم جنتری کے ساتھ ملتے جلتے نام رکھ کر پبلک کے پیش کیں۔ پبلک ان کی اس چالاکی کو جلد ہی تاڑ گئی۔ اور ان بیچاروں نے منہ کی کھائی۔ اور دم دبا کر بیٹھ گئے ۔

## مشہور عالم جنتری کے حاسدوں کی نئی چالاکیاں

مشہور عالم جنتری کے برخلاف ایک اور نئی پارٹی نے جنم لیا ہے۔ اس پارٹی نے مشہور عالم جنتری کے موجد شریمان پنڈت گردھاری لعل جی جوتشی کے مقبول عام اور عالمگیر شہرت پانے سے [illegible] کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی ہے۔ ہم کو ان بیچاروں کی حالت پر ترس آتا ہے۔ کیونکہ بیچاروں میں اتنی لیاقت تو ہے نہیں۔ کہ خود کوئی علمی مضامین سے لبریز جنتری پبلک میں پیش کر سکیں۔ اور فائدہ اٹھاویں۔ لیکن ان کے دل میں یہ ہوس ضرور ہے۔ کہ ہم بھی مصنف مشہور عالم جنتری کی طرح شہرت پاویں۔ اور فائدہ اٹھاویں۔ پس اس خواہش کی تکمیل کے لئے انہوں نے چند مضامین ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے جنتری کی شکل میں چھاپنے شروع کر دئے ہیں۔ اور شرارت چالاکی سے اپنی جنتری کے سرورق پر پنڈت گردھاری لعل جی کا نام کسی طرح درج کر دیا ہے تاکہ بھولے بھالے خریدار اس نقلی جنتری کو اصلی جنتری پنڈت گردھاری لعل والی سمجھ کر خرید لیں۔ اس اخلاق سے گری ہوئی حرکت سے ان کا منشا مشہور عالم جنتری کو نقصان پہنچانا اور خود ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ پس

## مشہور عالم جنتری کے قدر دانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ جنتری خریدتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں

(۱) سرورق پر نام مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۲ (۲) پشت جنتری پر پنڈت گردھاری لعل جی کی تصویر ہوگی کہ ہمارا تجارتی نشان ہے۔ (۳) سرورق پر مصنف کا نام پنڈت گردھاری لعل [illegible] سیالکوٹی کے لڑکے پنڈت رگھناتھ داس جوتشی کی شائع ہوگی۔ (۴) سرورق پر مشہور عالم پریس کا نام ہوگا۔ اگر آپ ان چار باتوں کو مد نظر رکھ کر جنتری خریدیں گے تو آپ ان دھوکہ بازوں کے مکر و فریب کے پھندے سے بچ جاویں گے ۔

## اے ہمارے مہربان حاسد دوستو!

آپ سے ہم صرف اسی قدر کہنا چاہتے ہیں۔ کہ قدرت کے اٹل قانون سے ڈرو۔ اور راہ راست پر چلو۔ کیونکہ [illegible] ہم کو مجبور نہ کرو۔ کہ ہم تمہارے برخلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ دل میں خوب یاد رکھو کہ تمہاری یہ چالاکیاں ایک نہ ایک دن ضرور بے نقاب ہوں گی۔ اور تم پشیمان ہوگے۔ شری گورو نانک دیو جی [illegible]

## خبردار! دھوکے سے بچو!

ہمارے پاس بہت سے خطوط [illegible] سے موصول ہوئے ہیں۔ کہ بعض دھوکہ باز لوگ جنہوں نے جوتشی اور پنڈت کا جامہ پہنا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو پنڈت گردھاری لعل جی کا لڑکا یا بھائی یا شاگرد ظاہر کر کے پبلک کو لوٹ رہے ہیں۔ اس لئے پبلک کی آگاہی کے لئے ہم اعلان کرتے ہیں۔ کہ پنڈت گردھاری لعل جی کا سوائے میرے کوئی اور لڑکا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حقیقی بھائی یا شاگرد موجود ہے۔ جو شخص ایسا بیان کرتا ہے وہ دھوکہ باز ہے۔ پبلک ایسے لوگوں سے بچے۔ پنڈت رگھناتھ داس

## مشہور عالم جنتری کے مضامین کا حل

سب سے اول بلحاظ تیوہاروں کے فہرست تفصیلات درج ہیں۔ مگر بعض اوقات بمرضی حکام تعطیل پس و پیش ہو جاتی ہیں۔ دوم اوقات نوروز اور [illegible] کے بعد نایاب کیلنڈر اور سال کا بارش پھل وغیرہ اور اس کے بعد بارہ مہینوں کی جدولیں اور ہر ایک تاریخ [illegible] کی تاریخیں اور ہر تاریخ کے سامنے [illegible] یوگ کی ابتدائی گھڑی پل درج ہیں۔ جو طلوع آفتاب سے شمار کرنی چاہئیں۔ اور بعد ازاں چندرماں کی راسی تبدیل کرنے کا انتہائی وقت گھڑی پل درج ہیں۔ بعد ازاں نقص گھڑیوں کی ابتدا اور انتہا درج ہیں۔ [illegible] لاہور [illegible] گھڑی پل درج کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو مطابق گھڑی کے دیکھنا چاہیں۔ تو طلوع و غروب مندرجہ جنتری کے ساتھ ۲۳ منٹ اضافہ اور کریں۔ تو مطابق جیب گھڑی ہوگا۔ چاندنی اور اندھیرے کی جدولیں سفید روشنی اور سیاہ اندھیرے کی علامت ہے۔ طلوع و غروب [illegible] اور [illegible] کی گھڑی پل اہل ہنود و اہل اسلام کے تہوار درج ہیں۔ بعد ازاں اس صفحہ کے مقابل [illegible] کواکب [illegible] و تقویم سیارگان مع اوقات اور درجہ و دقیقہ درج کئے گئے ہیں۔ باقی مضامین جنتری صفحہ [illegible] تک عام فہم ہیں۔ جو درج نہیں کئے گئے۔ اس کے بعد اشتہارات درج ہیں۔ اور ہر ایک اشتہار کے نیچے مشتہر کا نام درج ہے۔ بوقت طلبی اشیاء مشتہران اشتہارات سے خط و کتابت کریں۔ اگر ان اشیاء کی نسبت کسی قسم کی شکایت ہو تو اسی کارخانہ سے خط و کتابت کریں۔ کیونکہ ہم اشتہارات میں درج شدہ سامان کے غلط یا درست ہونے کے ذمہ دار نہیں ہیں ۔

## بیاہ شادی کے سہالگ بابت سال سنہ ۱۹۳۶ء

اہل ہنود بیاہ میں دس دوشوں کا بچار کرتے ہیں۔ مگر [illegible] وید۔ بدھ [illegible] کرانتی۔ وغیرہ پانچ دوش زیادہ [illegible] سایا ان دوشوں کا درج نہیں کیا گیا۔ جو لوگ دوشوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور صرف سایا کے [illegible] اکتفا کرنا چاہیں۔ وہ ہمارے مشہور عالم جنتری کا سمت ۱۹۹۳ بکرم کو دیکھیں۔ جس میں تمام سال کے شدھ و اشدھ سایا [illegible] درج کئے گئے ہیں۔ اس جگہ صرف شدھ سایا درج کئے ہیں۔ شدھ کے نشان (۱) اور دوش کے نشان (۲) درج ہیں ۔

| تاریخ ہندی | تاریخ انگریزی | نام دن | نچھتر | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | لگن | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | دس دوشوں کے نام و ان کے نشان | | | | | | | | | | | |
| ۲ ماگھ | ۱۵ جنوری | بدھوار | ہست | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | مین | |
| ۸ ماگھ | ۲۱ جنوری | منگلوار | مولا | ۱ | ۱ | شک | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | کنیا و تلا | |
| ۹ ماگھ | ۲۲ جنوری | بدھوار | مولا | ۱ | ۱ | شک | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | مین | |
| ۱۶ ماگھ | ۲۹ جنوری | بدھوار | ریوتی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | کنیا و برچھک | |
| ۳ پھاگن | ۱۵ فروری | سنیچروار | اترا پھالگنی | شک | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | تلا | |
| ۴ پھاگن | ۱۶ فروری | اتوار | اترا پھالگنی | شک | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | برکھ | |
| ۳ بیساکھ | ۱۴ اپریل | منگلوار | اترا کھاڑا | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | مین | [illegible] |
| ۴ بیساکھ | ۱۵ اپریل | بدھوار | اترا کھاڑا | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | کرک | |
| ۲۳ ساون | ۶ اگست | ویروار | اترا [illegible] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | برکھ | چندرمان |
| ۲۴ ساون | ۷ اگست | شکروار | اترا [illegible] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | کنیا | چندرمان |
| ۲۲ مگھر | ۶ دسمبر | اتوار | اترا بھادرپد | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | تلا | سنیچر |
| ۲۳ مگھر | ۷ دسمبر | سوموار | اترا بھادرپد | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | مکر | |

**ضروری نوٹ** ۔ جنتری ہذا میں طلوع و غروب آفتاب کے گھنٹہ منٹ رفتار سورج کے حساب سے درج کئے گئے ہیں سٹینڈرڈ جیب گھڑی کے مطابق کرنے کیلئے ۲۳ منٹ کا اضافہ کریں۔

# نوروز عالم افروز افق لاہور ۲۰ مارچ ۱۹۳۶ء بروز شکروار بوقت ۵۲ گھڑی ۴۸ پل بعد طلوع آفتاب

وقت بمطابق دھوپ گھڑی ۳ بجکے [illegible] منٹ
وقت بمطابق ریلوے سٹینڈرڈ ۳ بجکر [illegible] منٹ

## تحویل آفتاب در برج حمل بحساب اہل یونان

نوروز کے معنے شروع سال کے پہلے دن کے ہیں جس کو مختلف مذاہب والوں نے اپنے اپنے مذہبی آئین کے مطابق قائم کیا ہوا ہے۔ مثلاً اہل یورپ کا نوروز یکم جنوری کو اہل اسلام کا نوروز یکم محرم کو اہل ہنود کا نوروز بحساب قمری چیت شدی ایکم کو اور بحساب شمسی یکم بیساکھ کو واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل یونان کا نوروز اس وقت واقع ہوتا ہے۔ جب کہ آفتاب عالمتاب تمام کرۂ فلک کا دورہ پورا کرکے خط استوا کے عین مشرق میں فلک ثوابت کی پہلی شکل برج حمل کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ اس وقت دن رات برابر ہو جاتا ہے۔ اور فصل ربیع کی ابتدا ہوتی ہے۔ بنزد منجمان یہ وقت نہایت مبارک ہوتا ہے۔ اس وقت پر زائچہ تولد سال بنایا جاتا ہے اور رفتار فلکی کی سعادت و نحوست کو مد نظر رکھ کر تمام عالم کے نیک و بد حالات قلم بند کئے جاتے ہیں۔ پس اس سال بفضل پروردگار بروز ۲۰ مارچ ۱۹۳۶ء بروز شکروار یعنی جمعۃ المبارک بمطابق چیت بدی دوادشی ۸ چیت سمت ۱۹۹۲ بکرم ۲۵ ذی الحجہ ۱۳۵۴ ہجری بوقت ۵۲ گھڑی ۴۸ پل بعد طلوع آفتاب یعنی وقت بمطابق جیب گھڑی ریلوے سٹینڈرڈ ٹائم ۳ بجکر ۴۰ منٹ بعد نصف شب طالع وقت بحساب اہل یونان برج دلو میں بساعت زہرہ تحویل آفتاب برج حمل میں ہوگی۔ بادشاہ سال زہرہ یعنی شکر رقاصہ فلک مالک فلک سوم کاسہ اور بلانشر ہے۔ جو کہ چوپایہ پر سوار ہاتھ میں کتار لئے پوشاک اطلس نقرئی پہنے کاندھے پر سفید دوشالہ ریشمی ڈالے سر پر جڑاؤ موتیوں کی کلغی اور گلے میں سفید پھولوں کا ہار ڈالے تخت حکومت فلکی پر جلوہ افروز ہوگا۔ خوراک اس کی میوہ تر و مٹھائی بہ رنگ سفید لڈو پیڑے برفی وغیرہ ہے ✻

زائچہ ولادت بحساب اہل یونان



## احکام نوروز

وقت طالع میں قمر پڑا ہے جس کی بادشاہ سال زہرہ سے دشمنی ہے اور وقت طالع کا مالک بخانہ ہشتم ہمراہ شمس پڑا ہے اس لئے اس سال میں آفات ارضی و سماوی زیادہ نمودار ہونگی۔ ٹڈی دل، کیڑے، ژالہ وغیرہ سے فصلوں کو نقصان پہنچیگا برفباری زیادہ ہوگی پہاڑ سے آسمان سے زیادہ ٹوٹیں گے اور کسی نئی آسمانی شے کا نظارہ بھی ہوگا پہاڑوں میں آتش بادہ برہ جائیگا جس سے نقصان کا اندیشہ ہے ملک کے اکثر حصوں میں امراض مہلکہ کا دورہ ہوگا۔ لوگوں کے خیالات عیاشی کی طرف زیادہ رہینگے۔ مستورات آزادی میں ترقی کرینگی۔ عمدتی غالب و مغلوب رہینگے۔ بہت لوگ زیر عتاب شاہی ہونگے سرحدوں کی مضبوطی اور جنگی طاقتوں کے استحکام پر زیادہ توجہ دی جائیگی ترکستان، عرب، یمن اور خراسان کے علاقوں میں فتنہ و فساد کی آگ سلگتی رہیگی ہندوستان کے لوگ تجارت میں ترقی کرینگے۔ یورپ میں تیل کی مانگ زیادہ رہیگی۔ غلہ سے بڑی فائدہ میں رہینگے جاپانی لوگ ہندوستان میں ترقی کرینگے تبت کے لوگ پریشان حال ہیں جائیں [illegible] سکے۔ علاقہ کشمیر میں آفات کا ظہور ہوگا۔ شاہان یورپ کی اندرونی رقابتیں اور چالبازیاں خطرناک حیثیت پکڑینگی۔ اہل امریکہ سیاسیات کی تحریکوں میں زیادہ کامیابی حاصل کرینگے۔ علاقہ مدراس کو کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تیز طبع اہل پیدا ہونگے [illegible] دنیا [illegible] سال کے زائچہ [illegible] اور آخر سال کی پیدائش [illegible] دنگل [illegible]

## ہندوستان کے مختلف شہروں میں تحویل آفتاب کا وقت

کیونکہ بوجہ رفتار آفتاب ہر ایک شہر کے تعین میں تفاوت ہے اس لئے ہم چند ایک شہروں کا وقت تحویل درج کرتے ہیں۔ لاہور میں تحویل کا وقت ۳ بجکر ۔ منٹ ۔ ہے۔

| نام شہر | وقت |  |  | نام شہر | وقت |  |  | نام شہر | وقت |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | گھنٹہ | منٹ | سیکنڈ |  | گھنٹہ | منٹ | سیکنڈ |  | گھنٹہ | منٹ | سیکنڈ |
| اجمیر | ۳ | ۷ | ۳۸ | قنوج | ۳ | ۲۸ | ۵۶ | پٹنہ | ۳ | ۳۹ | ۵۲ |
| امرتسر | ۳ | ۷ | ۵۶ | مدراس | ۳ | ۳۱ | ۳۰ | بردوان | ۴ | ۰۰ | ۳۰ |
| سہارنپور | ۳ | ۱۲ | ۳۶ | باندہ | ۳ | ۳۰ | ۲۸ | مرشدآباد | ۴ | ۲ | ۴ |
| انبالہ | ۳ | ۱۶ | ۱۲ | کانپور | ۳ | ۳۰ | ۳۶ | کلکتہ | ۴ | ۲ | ۴۳ |
| بھوپال | ۳ | ۱۷ | ۲۸ | سیتاپور | ۳ | ۳۱ | ۵۲ | ڈھاکہ | ۴ | ۱۰ | ۴۸ |
| دہلی | ۳ | ۱۸ | ۸ | ہمیرپور | ۳ | ۳۲ | ۲ | آسام | ۴ | ۲۵ | ۸ |
| آگرہ | ۳ | ۲۱ | ۱۲ | لکھنؤ | ۳ | ۳۷ | ۴۸ | رنگون | ۴ | ۳۲ | ۵۶ |
| حیدرآباد دکن | ۳ | ۲۳ | ۴ | بارہ بنکی | ۳ | ۳۳ | ۱۶ | ملتان | ۲ | ۵۳ | ۵۶ |
| اٹاوہ | ۳ | ۲۵ | ۱۲ | فیض آباد | ۳ | ۳۳ | ۳۶ | بمبئی | ۳ | ۰ | ۲۴ |
| رامپور | ۳ | ۲۵ | ۱۶ | ہردوئی | ۳ | ۳۳ | ۴ | کابل | ۲ | ۴۴ | ۵۶ |
| ناگپور | ۳ | ۲۵ | ۳۶ | جونپور | ۳ | ۳۵ | ۸ | بڑودہ | ۲ | ۱ | ۵۷ |
| بانس بریلی | ۳ | ۲۶ | ۴۸ | الہ آباد | ۳ | ۳۵ | ۳۴ | کراچی | ۲ | ۳۴ | ۴ |
| نینی تال | ۳ | ۲۷ | ۵۶ | مرزاپور | ۳ | ۳۹ | ۲۰ | بصرہ | ۱ | ۱۹ | ۲۸ |
| فرخ آباد | ۳ | ۲۷ | ۳۶ | بنارس | ۳ | ۴۱ | ۱۲ | بخارا | ۲ | ۲۷ | ۳۶ |
| جبل پور | ۳ | ۲۸ | ۴۲ | نیپال | ۳ | ۴۸ | ۵۶ | بغداد | ۱ | ۹ | ۳۶ |

## شناخت اوقات تحویل آفتاب

جو احباب تحویل کا عملی وقت دیکھنا چاہیں۔ ان کو چاہئے کہ وقت مقررہ سے ایک گھنٹہ پیشتر ایک جگہ کو صاف کرکے خوشبویات مثل صندل و لوبان کا بخور کرکے ایک گھڑا یا تانبے کا گلاس کے نیچے درمیان میں سوئی کے برابر سوراخ کریں اور اس کو پانی سے بھر کر معلق باندھ دیں۔ تاکہ پانی کی دھار اس سوراخ سے جاری رہے اور جس قدر آدمی اس جگہ موجود ہوں سب صاف لباس پہنے اور خاموش ہوکر یاد الہی میں مشغول ہوں۔ جس وقت تحویل ہوگی چلتی ہوئی پانی کی دھار بند ہو جائیگی چونکہ یہ اشارہ غیبی ہوتا ہے۔ اس لئے خوب غور اور توجہ سے اس کو دیکھنا چاہئے



## عمل بروقت تحویل آفتاب

عاملان علم جفر کے نزدیک یہ وقت نہایت مبارک ہے۔ اس وقت پر عملیات و تعویذات کا تیار کرنا نہایت متبرک و پر تاثیر مانا گیا ہے۔ پس اس سال بلحاظ رفتار فلکی مندرجہ ذیل طلسم کا تیار کرکے پاس رکھنا کشائش کاروبار ترقی روزگار اور مہم کاموں میں کامیابی الغرض ہر ایک کام کے لئے نہایت پُر تاثیر ہے۔ پس بوقت تحویل پاک و صاف ہوکر لباس نو پہنکر ایک علیحدہ جگہ خلوت میں بیٹھیں۔ اور بخور عود و لوبان کا روشن کریں۔ اور نیلے رنگ کی سیاہی سے کاغذ سفید پر مندرجہ ذیل طلسم کو لکھیں۔ اور منہ جانب مشرق رکھیں۔ اور یکسوئی قلب سے یاد الہی میں مشغول ہوں۔ پھر اس طلسم کو پارچہ برنگ نیلا میں محفوظ کرکے تمام سال پاس رکھیں اور اسکی عجیب و غریب تاثیر کو دیکھیں۔

صورت طلسم یہ ہے

دافع مشکلات

(نوٹ) جو صاحب خود اس طلسم کو تیار نہ کر سکیں۔ ہم سے تیار شدہ طلسم منگوالیں۔ قیمت ۱ روپیہ

[illegible] ۱۹ مارچ سے پہلے پہلے گھر کا [illegible] مشہور عالم جنتری کے نام آنی چاہئے

# نقشہ جات ہیئت منجمہ یعنی پانچ سیارے جو اپنے محور پر سیدھی و اُلٹی رفتار سے گردش کرینگے بابت سنہ ۱۹۳۶ء

واضح ہے کہ سورج و چاند ہمیشہ اپنے محور پر سیدھی رفتار سے گردش کرتے ہیں۔ مگر پانچ سیارے یعنی منگل۔ بدھ۔ برہسپت۔ شکر اور سنیچر یہ پانچوں کبھی سیدھی اور کبھی اُلٹی رفتار سے چلتے ہیں۔ اہل ہنود سیدھی رفتار کو مارگی اور اُلٹی رفتار کو بکری بولتے ہیں۔ جن کی اوقات جنتری میں درج ہے۔ ذیل میں ان پانچوں سیاروں کی سیدھی و اُلٹی چال کے نقشے دکھلائے گئے ہیں۔ جس صاحب کو بکری و مارگی ہونے کا ٹھیک وقت دیکھنا ہو وہ جنتری میں دیکھ لیں۔



(نوٹ) اس سال میں منگل اور شکر ہر دو سیارے بکری نہیں ہونگے

# ملماس سمت ۱۹۹۳ بکرم میں اختلاف

مہربانو! اس سال میں ملماس کے مہینہ میں پھر کچھ گڑبڑ ہے۔ گنت کی ریتی سے اسوج کا مہینہ ملماس ہوتا ہے۔ اور چندر راس سنکرانتی مت کی ریتی سے بھادوں کا مہینہ ملماس کا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ہمیشہ سے گنت کی ریتی کو ہی مانتے چلے آتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ماہ اسوج کو ملماس لگایا ہے اس فرق کی وجہ سے اس سال بھادوں اور دوسرے پکش والوں کا پتر پکش یعنی شرادھوں میں ایک ماہ کا فرق پڑیگا یعنی اسوج ملماس ماننے سے شرادھ ۱۷ بھادوں سے ۳۱ بھادوں تک ہونگے۔ اور بھادوں ملماس ماننے سے شرادھ ۱۵ اسوج سے ۳۰ اسوج تک ہونگے یہی فرق پڑیگا۔ ہم نے دونوں پکش آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم تو گنت کی ریتی کو ہی درست مانتے ہیں۔ اس لئے اسوج کو ملماس مانا ہے۔

پنڈت رگھناتھ داس جوتشی

رسالہ تاثیرات اجتماع سیارگان

شائقین علم جوتش کی خاطر ہم نے نہایت محنت و کوشش سے بڑے بڑے پراچین جوتش کے گرنتھوں کی مدد سے یہ رسالہ تیار کیا ہے جس میں تمام سیارگان کے باہم ایک جگہ اکٹھے ہونے کا پھل نہایت بالتشریح درج کیا گیا ہے۔ اس رسالہ کے مطالعہ کر لینے کے بعد آپ رفتار سیارگان کو دیکھ کر خود بخود ہر قسم کی پیشگوئی بابت ارزانی و گرانی غلہ۔ قحط۔ طوفان۔ بارش۔ آندھی۔ زلزلہ۔ جنگ و جدل وغیرہ وغیرہ کی نسبت کر سکیں گے علم جوتش کے شائقین کو اس رسالہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت آٹھ آنہ ۸ر ملنے کا پتہ:- مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

# نادر و نایاب دائمی کیلنڈر

## جس سے سنہ عیسوی کے ہر ایک مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے

مشہور عالم جنتری کے ناظرین! اگر آپ کو سنہ عیسوی کے کسی مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کرنا ہو۔ تو اس آسان طریقہ سے معلوم کر لیں۔ کہ حسب مطلوبہ جس سنہ کے جس مہینہ کی پہلی تاریخ معلوم کرنی ہو۔ اس کو ۲۸ پر تقسیم کرو۔ جو باقی رہے۔ اس میں سے ایک عدد کم کر کے باقی کو نقشہ میں دیکھو جس جگہ باقی اعداد ملیں۔ اس کے زیریں جو یوم لکھا ہے۔ اس کے مقابل جو مہینہ لکھا ہے۔ اس مہینہ کی پہلی تاریخ کو وہی یوم ہے۔ چونکہ ہم نے ہندی زبان میں یوموں کے نام لکھے ہیں۔ اس لئے بتلایا جاتا ہے۔ کہ اتوار کو یکشنبہ اور سوموار کو دوشنبہ اور منگلوار کو سہ شنبہ اور بدھوار کو چہار شنبہ اور ویروار کو پنجشنبہ یا جمعرات اور شکر وار کو جمعہ اور سنیچر وار کو شنبہ فارسی زبان میں کہتے ہیں۔ پس اس نقشہ سے آپ ہر ایک سنہ عیسوی خواہ ماضی ہو یا مستقبل یا حال۔ اس کے ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس مہینہ کی جس تاریخ کا یوم معلوم کرنا چاہو۔ پھیلاوٹ سے کر لو۔

**احتیاط۔** چونکہ ماہران علم ہیئت نے ہر سال کی کسرات کے لحاظ سے سنہ ۱۹۰۰ء والی صدی میں جبکہ حساب سے فروری ۲۹ یوم کا ہونا چاہئے تھا۔ جو کسرات کو پورا کرنے کے لئے ۲۸ یوم کا قرار دیا تھا۔ اس لئے اس نقشہ سے سنہ ۱۸۹۹ء تک تو مندرجہ بالا طریق پر یوم درست نکلیں گے۔ مگر سنہ ۱۹۰۰ء اور اس کے بعد یہ خیال رہے۔ کہ جو اعداد حسب قاعدہ مذکورہ بالا باقی رہیں۔ ان میں سے دو عدد کم کر کے باقی کو نقشہ میں دیکھو تو یوم درست نکلے گا۔

**مثال** سنہ ۱۸۹۸ء میں جنوری کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کرنا ہے۔ پس سنہ ۱۸۹۸ء کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ تو باقی ۲۲ رہے۔ ان میں سے ایک کو کم کیا۔ تو باقی ۲۱ نقشہ میں دیکھا۔ تو ۲۱ کے زیریں جنوری کے مقابل سنیچر وار لکھا ہے جو درست ہے۔ دوسری مثال سنہ ۱۹۱۴ء میں مارچ کی پہلی تاریخ کا یوم دیکھنا ہے۔ اس سنہ ۱۹۱۴ء کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ تو باقی ۱۰۔ چونکہ یہ انیس سو سے زیادہ ہے۔ پس لئے اس میں سے ۲ کم کئے۔ تو باقی رہے آٹھ۔ نقشہ میں ۸ کے زیریں ماہ مارچ کے مقابلہ پر اتوار لکھا ہے۔ مثال کر دیکھو۔ درست ہے۔

| نام مہینہ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنوری | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار |
| فروری | شکر | منگل | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار |
| مارچ | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار |
| اپریل | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار |
| مئی | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل |
| جون | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر |
| جولائی | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار |
| اگست | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ |
| ستمبر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر |
| اکتوبر | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار |
| نومبر | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار |
| دسمبر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر |

## قاعدہ سنہ نامعلوم کو معلوم کرنا

رائج الوقت سمت بکرم سے ۵۷ کم کرنے پر سنہ عیسوی نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۱۳۵ کم کرنے پر سمت شاکا فوراً نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۴۲ کو کم کرنے پر سنہ ہجری معلوم ہوتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۴۹ کم کرنے پر سمت فصلی نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۵۰ کم کرنے پر سنہ بنگلہ معلوم ہوتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۴۴ کم کرنے پر سنہ الٰہی نکل آتا ہے چونکہ رائج الوقت سنین میں سے سمت بکرم شکلا پکش چیت سے اور سمت شاکا بھی حمل سے اور سنہ ہجری بھی محرم سے اور سمت فصلی اسوج سے اور سنہ بنگلہ بھی بیساکھ سے سنہ الٰہی بھی کنوار سے شروع ہوتے ہیں۔ اور سمت بکرم پر ۳۰۴۴ عدد زیادہ کریں۔ تو سمت کلجگ نکل آئیگا۔ اگر سمت بکرم پر ۲۸۹۱ عدد زیادہ کریں۔ تو پیدائش نوح کے سال نکل آئینگے۔ اگر سمت بکرم پر ۵۰۰ عدد زیادہ کریں۔ تو سمت بدھ کا معلوم ہوگا۔ اگر سمت بکرم پر ۲۹۷ عدد زیادہ کریں۔ تو اس سے سمت سکندری معلوم ہوتا ہے۔ **نوٹ**۔ لیپ کے سال کے سوا ہر ایک سال کے یوم درست معلوم ہونگے۔ لیکن لیپ کے سال میں جنوری اور فروری کے یوم تو درست ہونگے۔ مگر اس کے بعد مارچ سے لیکر اگلے سال کی فروری تک ہر ماہ کی پہلی تاریخ میں ایک یوم کا فرق پڑیگا۔ پس ناظرین لیپ کے سال میں اس بات کا خیال رکھیں۔ کہ جو یوم نقشہ سے معلوم ہو اس سے اگلا دن جانو۔ مثال سنہ ۱۹۱۶ء جو لیپ کا سال ہے۔ اس کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ باقی ۱۲ رہے۔ ۲ کم کئے تو دس رہے۔ نقشہ میں اس کے زیریں جنوری اور فروری کا پہلا یوم تو درست ہے۔ لیکن مارچ کے مقابل میں منگل لکھا ہے۔ لیکن اس سے اگلے دن بدھ کی پہلی ہوگی۔ اور فروری سنہ ۱۹۱۷ء تک اسی طرح ایک یوم کا فرق پڑیگا۔ اسی طرح ہر لیپ کے سال میں دیکھ لو۔

# پرکھ پھل یعنی ثمرہ سال بحساب اہل ہند سمت ۱۹۹۳ بکرم و شکہ ۱۸۵۸ شالباہن مطابق سنہ ۱۹۳۶ء و سنہ ۱۳۵۵ ہجری

پیارے ناظرین! یہ دنیا انادی ہے۔ اس میں کسی چیز کو قیام نہیں۔ انقلاب کا سلسلہ ہر لمحہ جاری ہے۔ آبادیاں ویران اور بیابان آباد ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے سنہ یا شاستر گرنتھوں میں اس سرشٹی کا ایک دور چار ارب بتیس کروڑ سال کا مانا گیا ہے جس کو کلپ یا برہما کا دن کہتے ہیں۔ چنانچہ علم جوتش کے جاننے والے پنڈت سورج سدھانت میں اس کا حساب اس طرح پر بتاتے ہیں۔ ایک کلپ کے ۱۴ حصے ہیں جن کو منو کہتے ہیں۔ ایک منو میں ۷۱ چترجگی گذرتی ہیں۔ اور ایک چترجگی چار یگوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ ان چار یگوں کا نام معہ تعداد حسب ذیل ہے۔ اول ست یگ ۱۷۲۸۰۰۰ سال۔ دوم ترتا یگ ۱۲۹۶۰۰۰ سال۔ سوم دواپر یگ ۸۶۴۰۰۰ سال۔ چہارم کلیگ ۴۳۲۰۰۰ سال۔ جب ان چار یگوں کے سالوں کو جمع کیا۔ تو ۴۳۲۰۰۰۰ سال ہوتے ہیں کہ ایک چترجگی یا مہایگ کہتے ہیں ہر ایک منو کے شروع میں ایک سندھی ہوتی ہے جس کی میعاد ۱۷۲۸۰۰۰ برس کی ہوتی ہے۔ بموجب سورج سدھانت اس وقت ۶ منو گذر کر ساتواں منو گذر رہا ہے۔ اور ساتویں منو کی ۲۷ چترجگی گذر کر اٹھائیسویں چترجگی گذر رہی ہے جس کے تین یگ گذر کر چوتھا یگ گذر رہا ہے۔ جس کا نام کلیگ ہے۔ اور سمت ۱۹۹۳ بکرم کے آخر تک اس کی عمر کے ۵۰۳۷ برس گذر جائیں گے۔ پس بموجب حساب مذکورہ بالا ایک چترجگی کی میعاد ۴۳۲۰۰۰۰ کو ۷۱ سے ضرب دیا۔ تو ۳۰۶۷۲۰۰۰۰ برس ہوئے یہ ایک منو ہوا۔ چونکہ ۶ منو گذر چکے ہیں۔ اس لئے اس کو ۶ سے ضرب دیا۔ تو چھ منوؤں کی میعاد ۱۸۴۰۳۲۰۰۰۰ برس ہوئی۔ ۶ منوؤں کے درمیان ۷ سندھیاں گذر چکی ہیں۔ ایک ایک سندھی کی میعاد ۱۷۲۸۰۰۰ کو ۷ سے ضرب دیا تو ۱۲۰۹۶۰۰۰ برس ہوئے۔ ان ہر دو کو جمع کرنے سے ۶ منوؤں کی گذشتہ ۱۸۵۲۴۱۶۰۰۰ برس ہوئی۔ اب جو ساتواں منو گذر رہا ہے اس کی ۲۷ چترجگی گذر چکی ہیں۔ اور اٹھائیسویں گذر رہی ہے۔ پس ایک چترجگی کی مدت کو ۲۷ میں ضرب دیا تو ۴۳۲۰۰۰۰ × ۲۷ = ۱۱۶۶۴۰۰۰۰ برس ہوئے۔ اب جو اٹھائیسویں چترجگی گذر رہی ہے۔ اس کے ۳۸۹۳۰۳۷ برس اس میں جمع کئے۔ تو ۱۲۰۵۳۳۰۳۷ برس ہوئے۔ اس مجموعہ کو ۶ منوؤں کی مدت ۱۸۵۲۴۱۶۰۰۰ میں جمع کیا تو ۱۹۷۲۹۴۹۰۳۷ سال ہوئے۔ اس میں سے سرشٹی کے ۱۷۰۶۴۰۰۰ برس تفریق کئے۔ تو باقی ۱۹۵۵۸۸۵۰۳۷ برس سرشٹی کی پیدائش کے ہوئے۔ چونکہ سرشٹی کی کل عمر ایک کلپ یعنی ۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰ سال ہے۔ اس لئے سرشٹی کی پیدائش کے برسوں کو اس میں سے تفریق کیا۔ تو باقی اس سرشٹی کی عمر ۲۳۶۴۱۱۴۹۶۳ برس رہی جس کے گذرنے پر یہ سرشٹی فنا ہو کر پھر از سر نو پیدا ہوگی۔ اور یہ انادی چکر اسی طرح چلتا رہیگا۔ سمت ۱۹۹۳ بکرم میں دیگر سموت حسب ذیل ہونگے۔

| نام سمت | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد برس | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## اس برس کے ادھکاری یہ ہیں

(۱) برس کا راجہ منگل ہے۔ بارش کم بادل کی گرج اور بجلی کی چمک زیادہ ہو۔ ژالہ باری سے فصل کو نقصان پہنچے۔ حادثات ارضی و سماوی بہت ہوں۔ آتشزدگی چوری و راہزنی کی وارداتوں کی کثرت۔ امراض قتل و خون پھوڑا پھنسی چیچک وغیرہ سے لوگوں کو سخت تکلیف پہنچے۔ خشک سالی۔ سانپ بچھو وغیرہ کی پیدائش زیادہ۔ زہریلے جانوروں کی آفات زیادہ ہو۔ پہاڑوں میں آتش زیادہ بڑھ جاوے اور نقصان کرے۔

(۲) وزیر سورج ہے۔ گرمی زیادہ پڑے۔ غلہ کا نرخ گراں۔ وبائی امراض سے لوگ تنگ ہوں۔ باہمی نفاق۔ حسد و عداوت کا مادہ بہت پیدا ہو۔

(۳) بارش کا مالک سورج ہے۔ بارش کم۔ ندی نالوں میں پانی خشک ہو جاتے۔ گنا اور چاول کی پیداوار کم ہو۔ لوگوں کو تکلیف رہے۔

(۴) زراعت کا مالک بدھ ہے۔ زراعت کی پیداوار تو اچھی ہوگی۔ لیکن نقصان زیادہ ہو جاویگا۔ کیونکہ راجہ اور وزیر دونوں ظالم گرہ ہیں۔

(۵) سپہ سالار منگل ہے۔ شاہان وقت کے مرتبہ میں بلندی۔ لوگ آرام سے رہیں۔

(۶) دولت کا مالک بدھ ہے۔ دولت کی ترقی ہو۔ شاہی عہدہ اور وزرا میں اتحاد رہے۔

(۷) رسوں کا مالک شکر ہے۔ رسدار اشیاء کی پیداوار اچھی ہو۔ نیک کاموں میں لوگوں کا خیال زیادہ رہے۔

(۸) غلہ کا مالک زحل ہے۔ غلہ کا نرخ گراں۔ بیماری زیادہ۔ تیل سستا۔ گڑ شکر وغیرہ گراں رہے۔

(۹) دھاتوں کا مالک بدھ ہے۔ سب طرح کی دھاتوں کی بڑھتی ہو۔

(۱۰) پھلوں کا مالک مشتری ہے۔ پھل پھول نشٹ ہو جاویں۔ سردی زیادہ پڑے۔ پہاڑوں پر برف باری زیادہ ہو۔

رہنی کا نواس تٹ پر۔ برس کا واس دھوبی کے گھر ہے۔

ثمرہ۔ بارش درمیانہ۔ ندی نالوں میں پانی کم۔ غلہ کا نرخ گراں رہے۔

[illegible] – ۳ [illegible] ۴ [illegible] ہے۔

سمت سمیہ۔ اس سال میں سربدھاری نام سمت کا پرویش ہوگا جس کا سوامی سورج ہے۔ غلہ کا نرخ گراں۔ ساون بھادوں میں بارش کی قلت۔ لوگوں میں خوف و ہراس۔ بیماری پھیلے۔

شکر انیتی۔ [illegible]

آمدنی۔ اس سمت میں [illegible]

## کنڈلی ہائے برکھ پرویش

کنڈلی برکھ پرویش [illegible]



کنڈلی [illegible]



کنڈلی [illegible]



## گرہن ہائے در ۱۹۳۶ء

(۱) چاند گرہن۔ پوہ شدی پورنماشی بدھ وار ۲۰ پوہ سمت ۱۹۹۲ بکرم مطابق ۸ جنوری ۱۹۳۶ء کو چاند گرہن ہوگا [illegible] گھڑی پل پر شروع ہو کر [illegible] گھڑی پل پر ختم ہو جاویگا۔ وقت [illegible] گھڑی ۹ بجکر [illegible] منٹ پر شروع اور [illegible] منٹ پر ختم ہوگا۔



(۲) سورج گرہن۔ اساڑھ بدی اماوس شکر وار ۶ اساڑھ ۱۹۹۳ بکرم مطابق ۱۹ جون ۱۹۳۶ء کو سورج گرہن ہوگا۔ [illegible] گھڑی [illegible] پل پر شروع ہو کر [illegible] گھڑی [illegible] پل پر ختم ہو جاویگا۔ وقت [illegible] گھڑی ۹ بجکر [illegible] منٹ پر شروع اور ۱۱ بجکر ۲۲ منٹ پر ختم ہو جاویگا۔



(۳) چاند گرہن۔ اساڑھ شدی پورنماشی [illegible] ۳۱ اساڑھ سمت ۱۹۹۳ بکرم مطابق ۴ جولائی ۱۹۳۶ء کو چاند گرہن ہوگا۔ [illegible] گھڑی [illegible] پل پر شروع اور [illegible] گھڑی [illegible] پل پر ختم ہوگا۔ وقت [illegible] گھڑی ۹ بجکر [illegible] منٹ پر شروع اور [illegible] منٹ پر ختم ہو جاویگا۔



نوٹ۔ ایک ماہ میں دو گرہن ہیں جن کا ثمرہ اچھا نہیں ہوگا۔

## سرب ارتھ سدھ یوگ در سنہ ۱۹۳۶ء

بعض اوقات ایسے ضروری کام درپیش آجاتے ہیں جن کیلئے مہورت کی انتظاری بے سود معلوم ہوتی ہے جس کے واسطے بعض پنڈتوں نے سرب ارتھ سدھ یوگ کو مقدم رکھا ہے۔ پس ناظرین مشہور عالم جنتری کی آسانی کیلئے سنہ ۱۹۳۶ء کے ہر ماہ کے سرب ارتھ سدھ یوگ کی تاریخیں نکال کر درج کی گئی ہیں۔ مگر اس بات کا خیال کرنا چاہئے کہ جو تاریخ لکھی گئی ہے اس روز کا [illegible] جنتری میں درج ہے۔ اس کے اندر ہی کام کرنا چاہئے۔ جو کہ ہر طرح سے بخیر و خوبی سرانجام ہوگا۔

جنوری کی ۲-۳-۶-۹-۱۰-۱۱-۲۰-۲۵-۲۸ فروری کی ۳-۷-۱۲-۲۱-۲۵-۲۶-۲۷ مارچ کی ۸-۱۰-۲۸ اپریل کی ۵-۱۲-۲۱-۲۹ مئی کی ۳-۸-۱۰-۱۷-۱۹-۲۷-۳۱ جون کی ۴-۱۷-۲۲-۲۴ جولائی کی ۲-۴-۱۳-۱۴-۱۹-۲۹-۱۰ اگست کی ۲-۷-۹-۱۱-۱۲-۱۳ ستمبر کی ۴-۹-۱۱-۱۹-۲۱ اکتوبر کی ۵-۱۳-۱۷-۱۹-۲۲-۲۹-۳۰ نومبر کی ۲-۵-۱۱-۲۰-۲۵-۳۰ دسمبر کی ۳-۱۸-۲۲-۲۶ تاریخ کو یوگ ہے۔

## سنیچر کا پایہ معلوم کرنے کا طریقہ

اکثر معتقدان علم جوتش بروقت تبدیلی راس سنیچر کا پایہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو سنیچر کس پایہ میں آیا ہے۔ پس ناظرین کی رفع تکلیف کے لئے ہم اس کا قاعدہ ذیل میں درج کر دیتے ہیں۔ تاکہ دیکھنے میں آسانی رہے۔ بوقت تبدیلی سنیچر جنتری میں دیکھو۔ کہ اس روز چندرماں کس راشی پر ہے۔ پھر اپنے نام کی راشی سے چندرماں کی راشی تک شمار کرو۔ اگر شمار میں پہلی۔ چھٹی۔ گیارھویں ہو تو سونا کا پایہ۔ اگر دوسری۔ پانچویں۔ نانویں ہو۔ تو چاندی کا پایا۔ اگر ساتویں۔ تیسری۔ دسویں ہو۔ تو تانبہ کا پایہ۔ اگر چوتھی۔ آٹھویں۔ بارھویں ہو۔ تو لوہا کا پایہ جانو۔ سونا کا پایہ سعد اصغر جانو۔ چاندی کا پایہ سعد اکبر۔ تانبہ کا پایہ معمولی اور لوہا کا پایہ نحس منحوس ہوتا ہے۔

## بارہ راشیوں کو سمت ۱۹۹۳ بکرم میں سنیچر کا پایا

۳۔ اپریل ۱۹۳۵ء مطابق ۲۰ چیت سمت ۱۹۹۱ کو ۲ بجکر [illegible] منٹ پر سنیچر کنبھ راشی میں داخل ہوا تھا اور اس سال بھی بدستور اسی راشی میں رہیگا۔ اس لئے بارہ راشیوں کو مندرجہ ذیل پایہ پر رہیگا +

| نام راس | متھن، برچھک، مکر | کرک، تلا، مین | برکھ، کنیا، کنبھ | میکھ، سنگھ، دھن |
|---|---|---|---|---|
| پایہ | سونا | چاندی | تانبہ | لوہا |
| ثمرہ | دولت کم ہو | لابھ۔ ترقی رتبہ | آمدن کم خرچ زیادہ | فکر تکلیف حیرانی ہو |

## انسان کے اعضاؤں پر سنیچر آنے کا ثمرہ

اکثر معتقدان علم جوتش ہر سال اس بات کو بڑے شوق سے دریافت کرتے ہیں کہ سنیچر اس سال ان کو کس اعضا پر آیا ہے۔ اور کیا پھل کرے گا۔ لہذا ان کی آسانی کی خاطر نقشہ بابت سال ۱۹۳۶ء ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اپنے نام کا پچھتر اس نقشہ میں دیکھیں۔ جہاں پر وہ پچھتر لکھا ہے۔ اس کے اوپر اعضاء کا نام اور نیچے اس کا ثمرہ درج ہے۔

| اعضاء | چھاتی | منہ | دست راست | پائے راست | پائے چپ | دست چپ | سینہ | چشم | مقعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پچھتر | پوروا بھادرپد | اترا بھادرپد | ریوتی۔ اشونی۔ بھرنی۔ کرتکا | روہنی۔ مرگشرا۔ آردرا | پنرپس۔ پکھ۔ اشلیکھا | مگھا۔ پوروا پھالگنی۔ اترا پھالگنی۔ ہست | چترا۔ سواتی۔ بشاکھا۔ انرادھا۔ جیشٹا | مولا۔ پورواکھاڑ۔ اتراکھاڑ۔ شرون | دھنشٹا۔ ست بھکھا |
| ثمرہ | گھر و مترلابھ | بیماری و فکر | فائدہ نقد و مال | نقل و حرکت | سفر جانا پڑے | فضول خرچ | بلندی مرتبہ | ہر دلعزیز ہو | بدنامی اسہال |

## کسی جوتشی سے مت پوچھو کہ ہمارا آج کا دن کس طرح گذریگا

اگر آپ کو روزمرہ کے رنج و راحت دیکھنے کا شوق ہے۔ تو آپ کسی جوتشی سے مستفید نہ ہوں۔ بلکہ ہر روز بوقت صبح اٹھ کر مشہور عالم جنتری میں اس روز کے پچھتر کو دیکھ لیں۔ اور پھر مندرجہ ذیل شکل کا چکر بنا کر جہاں نمبر ۱ کا ہندسہ لکھا ہے۔ وہاں وہ پچھتر لکھ کر اس سے آئندہ کے پچھتر بالترتیب دوم سوم پر کرکے ۲۸ پچھتروں کا دور پورا کر دو۔ اور پھر دیکھو۔ کہ آپ کے نام کا پچھتر کس مقام پر پڑتا ہے۔ پس جس مقام پر پڑتا ہے۔ اس کا ثمرہ دیکھ کر تجربہ کرکے دیکھ لو۔ کہ آیا وہ یوم کس طرح گذر رہا ہے +



ثمرہ۔ اگر آپ کے نام کا پچھتر دائرہ کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اس روز طبیعت میں فرحت اور سب طرح سے آرام ملیگا جو کام کریں گے۔ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر دائرے کے باہر پڑے تو نصف یوم خوشی سے گذرے۔ مگر آخر روز دل کو فکر اور تشویش غم و غصہ پیدا ہو۔ جسم میں تکلیف ہو۔ اور اگر ترشول کے اوپر پڑے۔ تو تمام دن دل گھبرائے اور دھن مال کا نقصان ہو۔ لوگوں سے مخالفت۔ دشمن سے دہشت جسم میں روگ پیدا ہو۔ اور اگنی اور چوٹ لگنے کا ڈر ہو۔

## لڑائی جھگڑے صحت بیمار اور سفر کے لئے

اگر سفر جانا ہو یا کسی بیمار کی بیماری کا حال دیکھنا ہو یا لڑائی جھگڑے اور مقدمات کا نتیجہ دیکھنا ہو۔ کہ کیا ہوگا۔ تو چاہیئے۔ کہ جس روز سفر کو جانا ہو یا جس وقت کوئی شخص بیمار ہو۔ یا دشمن کے مقابلہ میں جانا ہو۔ تو اس وقت دیکھو۔ کہ سورج کس پچھتر پر ہے۔ جس پر اس وقت سورج جس پچھتر پر ہو۔ اس کو یاد رکھو۔ اور ایک چکر حسب نقشہ ذیل بنا کر جن پچھتروں میں سورج ہو۔ جہاں ایک کا ہندسہ لکھا ہے۔ وہاں اس پچھتر کو لکھ کر باقی پچھتروں کو بالترتیب دوم و سوم نمبر پر لکھو اور دیکھو کہ سائل کے نام کا پچھتر کس جگہ پر آیا ہے۔



ثمرہ۔ پس اگر نمبر ۱ یا ۲ یا ۸ پر نام پچھتر پڑے۔ تو سفر میں تکلیف اور دشمن کے مقابلہ میں شکست اور حیرانی و پریشانی ہو۔ اگر نمبر ۳ یا ۴ یا ۵ یا ۹ یا ۱۰ یا ۲۲ یا ۲۶ یا ۲۷ پر آئے۔ تو فکر و تشویش۔ دشمن سے خوف اور بیمار کی بیماری گھٹے۔ اگر نمبر ۱۱ سے نمبر ۲۱ تک پڑ جائے۔ تو سفر میں ناکامیابی اور بیمار کو سخت تکلیف بلکہ قریب المرگ ہو۔ دشمنوں سے نقصان پہنچے۔ اور دھن کا نقصان ہو۔ اگر نمبر ۵ یا ۶ یا ۲۳ یا ۲۴ یا ۲۵ پر پڑے سے سفر کریں۔ تو کامیابی اور صحت جسم اگر بیمار ہو تو جلد صحت پاوے۔ مقدموں اور لڑائی جھگڑوں میں کامیابی ہو۔ اور زر و مال کا مفاد ہو +

یہ بھی خیال رکھو۔ اگر نام کے پچھتر سے بوقت سفر سورج کا پچھتر اٹھارہواں یا بارھواں ہوگا۔ تو سفر میں حیرانی و پریشانی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں بیمار ہوگا تو بڑی مشکل سے صحت پائیگا۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ تو ہر طرح سے کامیابی اور فتح پائیگا۔



| ایام ہفتہ | انگریزی جنوری | شوال | [illegible] | [illegible] | [illegible] | تتھی | گھڑی پل | نچھتر | گھڑی پل | جوگ | گھڑی پل | چندرما راس | گھڑی پل | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدھ | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۲۲ | ۱۸ | ستمی | ۱۰<br>۱ | پوربھادرپد<br>اترا | ۳۵<br>۳۵ | وریان | ۳۰<br>۴۵ | | | ۱۰<br>۱ | ۳۷<br>۱ | ۲۳<br>۵۵ | ۴<br>۱ | ۳<br>۵۹ | |
| برہسپت | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۲۳ | ۱۹ | اشٹمی | ۳<br>۵۵ | ریوتی | ۳۱<br>۱ | پریگھ | ۱۲<br>۵۴ | میکھ | ۳۱<br>۳۱ | | | ۲۲<br>۵۴ | ۴<br>۱ | ۳<br>۵۹ | پنچک ختم ۳۱-۳۱ |
| شکر | ۳ | ۷ | ۱۳ | ۲۴ | ۲۰ | نومی | ۵۳<br>۵ | اشونی | ۲۷<br>۴۳ | شو<br>سدھ | ۴۰<br>۵۹ | | | | | ۲۴<br>۵۸ | ۴<br>۱ | ۳<br>۵۹ | |
| سنیچر | ۴ | ۸ | ۱۴ | ۲۵ | ۲۱ | ایکادشی | ۴۸<br>۲۹ | بھرنی | ۲۴<br>۲۸ | سادھیہ | ۵۱<br>۳ | برکھ | ۳۹<br>۱۰ | ۲۰<br>۲۷ | ۴۸<br>۳۹ | ۲۵<br>۰ | ۴<br>۰ | ۵<br>۰ | پترد ۱۱ ایکادشی |
| اتوار | ۵ | ۹ | ۱۵ | ۲۶ | ۲۲ | دوادشی | ۴۴<br>۳۴ | کرتکا | ۲۳<br>۱۴ | شبھ | ۳۴<br>۵۴ | | | | | ۲۵<br>۱ | ۴<br>۰ | ۵<br>۰ | |
| سوموار | ۶ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۷ | ۲۳ | ترودشی | ۴۱<br>۴۱ | روہنی | ۳۰<br>۱۴ | شکل | ۳۹<br>۲۸ | متھن | ۴۹<br>۴۱ | | | ۲۵<br>۳ | ۴<br>۰ | ۵<br>۰ | منگل کنبھ میں ۳۲-۳۰ پر آیا |
| منگلوار | ۷ | ۱۱ | ۱۷ | ۲۸ | ۲۴ | چتردشی | ۳۹<br>۵۱ | مرگشر | ۱۹<br>۳۰ | برہم | ۳۴<br>۵۱ | | | ۳۹<br>۵۱ | | ۲۵<br>۵ | ۴<br>۵۹ | ۵<br>۱ | |
| بدھوار | ۸ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۹ | ۲۵ | پورنماشی | ۳۹<br>۱۳ | آردرا | ۱۹<br>۵۱ | اندر | ۳۱<br>۱۳ | | | | ۹<br>۳۳ | ۲۵<br>۷ | ۴<br>۵۹ | ۵<br>۱ | چاند گرہن - پورنماشی برت |
| برہسپت | ۹ | ۱۳ | ۱۹ | ماگھ | ۲۶ | ایکم | ۳۹<br>۵۹ | پنربس | ۲۱<br>۴۲ | ویدھرت | ۲۸<br>۳۷ | کرک | ۹<br>۱۶ | | | ۲۵<br>۹ | ۴<br>۵۸ | ۵<br>۲ | ماگھ اشنان شروع |
| شکروار | ۱۰ | ۱۴ | ۲۰ | ۲ | ۲۷ | دوج | ۴۱<br>۵۸ | پکھ | ۴۳<br>۴۲ | وشکنبھ | ۲۶<br>۰ | | | | | ۲۵<br>۱۰ | ۴<br>۵۸ | ۵<br>۳ | |
| سنیچر | ۱۱ | ۱۵ | ۲۱ | ۳ | ۲۸ | تیج | ۴۵<br>۱۳ | اشلیکھا | ۲۸<br>۴۸ | پریت | ۲۶<br>۱۷ | سنگھ | ۲۸<br>۴۸ | ۱۳<br>۳۹ | ۳۵<br>۱۳ | ۲۵<br>۱۲ | ۴<br>۵۸ | ۵<br>۲ | |
| اتوار | ۱۲ | ۱۶ | ۲۲ | ۴ | ۲۹ | چوتھ | ۳۹<br>۳۰ | مگھا | ۳۴<br>۴ | آیوشمان | ۲۹<br>۴۲ | | | | | ۲۵<br>۱۴ | ۴<br>۵۷ | ۵<br>۳ | گنیش چوتھ و سنکٹ چوتھ |
| سوموار | ۱۳ | ۱۷ | ۲۳ | ۵ | ۳۰ | پنچمی | ۴۳<br>۲۸ | پوربا پھالگنی | ۴۰<br>۳ | سوبھاگ | ۲۷<br>۱۲ | کنیا | ۵۶<br>۵۵ | | | ۲۵<br>۱۶ | ۴<br>۵۷ | ۵<br>۳ | لوہڑی |
| منگلوار | ۱۴ | ۱۸ | ۲۴ | ۶ | ماگھ | چھٹ | ۵۹<br>۴۸ | اترا پھالگنی | ۴۷<br>۳۴ | شوبھن | ۲۸<br>۲۲ | | | ۵۹<br>۴۵ | | ۲۵<br>۱۸ | ۴<br>۵۷ | ۵<br>۳ | سورج مکر میں ۱۶-۰۰ |
| بدھوار | ۱۵ | ۱۹ | ۲۵ | ۷ | ۲ | ستمی | ۶۰<br>۰۰ | ہست | ۵۳<br>۵ | اتیگنڈ | ۲۹<br>۴۵ | | | | ۳۲<br>۳۱ | ۲۵<br>۲۱ | ۴<br>۵۶ | ۵<br>۴ | |
| برہسپت | ۱۶ | ۲۰ | ۲۶ | ۸ | ۳ | اشٹمی | ۵<br>۱۴ | چترا | ۵۹<br>۱۳ | سوکرما | ۳۰<br>۵۲ | تلا | ۲۶<br>۹ | | | ۲۵<br>۲۳ | ۴<br>۵۶ | ۵<br>۴ | |
| شکروار | ۱۷ | ۲۱ | ۲۷ | ۹ | ۴ | اشٹمی | ۱۰<br>۳ | سواتی | [illegible] | دھرت | ۳۱<br>۳۰ | | | | | ۲۵<br>۲۷ | ۴<br>۵۵ | ۵<br>۵ | |
| سنیچر | ۱۸ | ۲۲ | ۲۸ | ۱۰ | ۵ | نومی | ۱۳<br>۲۰ | سواتی | [illegible] | شول | ۳۱<br>۳۱ | برچھک | ۵۳<br>۳ | | ۴۵<br>۴۸ | ۲۵<br>۳۰ | ۴<br>۵۳ | ۵<br>۶ | قرد و عقرب ۵۴-۳ |
| اتوار | ۱۹ | ۲۳ | ۲۹ | ۱۱ | ۶ | دسمی | ۱۶<br>۱۸ | وشاکھا | ۹<br>۱۰ | گنڈ | ۳۰<br>۵۱ | | | ۱۴<br>۱۵ | | ۲۵<br>۳۲ | ۴<br>۵۴ | ۵<br>۶ | بدھ بکری ۵۶-۵۰<br>شکر دھن میں ۲۴-۲ پر آیا |
| سوموار | ۲۰ | ۲۴ | ۳۰ | ۱۲ | ۷ | ایکادشی | ۱۹<br>۱۲ | انورادھا | ۱۲<br>۲۹ | بردھ | ۲۹<br>۸ | | | | | ۲۵<br>۳۴ | ۴<br>۵۳ | ۵<br>۷ | شٹ تلا ایکادشی |
| منگلوار | ۲۱ | ۲۵ | دلو | ۱۳ | ۸ | دوادشی | ۱۹<br>۳۱ | جیشٹھا | ۱۴<br>۳۷ | دھرو | ۳۶<br>۴۴ | دھن | ۱۴<br>۳۲ | | | ۲۵<br>۳۷ | ۴<br>۵۳ | ۵<br>۷ | |
| بدھوار | ۲۲ | ۲۶ | ۲ | ۱۴ | ۹ | ترودشی | ۱۸<br>۵۶ | مولا | ۱۵<br>۱۹ | بیاگھات | ۴۲<br>۴۹ | | | ۱۸<br>۵۶ | ۴۷<br>۵۶ | ۲۵<br>۴۰ | ۴<br>۵۳ | ۵<br>۸ | |
| برہسپت | ۲۳ | ۲۷ | ۳ | ۱۵ | ۱۰ | چتردشی | ۱۶<br>۵۴ | پوربا کھاڑا | ۱۳<br>۵۵ | ہرکھن | ۱۸<br>۹ | مکر | ۳۹<br>۳۲ | | | ۲۵<br>۴۲ | ۴<br>۵۲ | ۵<br>۸ | بدھ مغرب میں غروب ۲۸-۱۴ |
| شکروار | ۲۴ | ۲۸ | ۴ | ۱۶ | ۱۱ | اماوس | ۱۳<br>۵۳ | اترا کھاڑا | ۱۳<br>۲۴ | وجر | ۱۲<br>۳۷ | | | | | ۲۵<br>۴۵ | ۴<br>۵۱ | ۵<br>۹ | مونی اماوس |
| سنیچر | ۲۵ | ۲۹ | ۵ | ۱۷ | ۱۲ | [illegible] | ۹<br>۸ | شرون | ۱۱<br>۱۰ | سدھی<br>ویتی پات | [illegible] | کنبھ | ۳۹<br>۳۵ | | | ۲۵<br>۴۸ | ۴<br>۵۱ | ۵<br>۹ | چاند نظر آئیگا - پنچک شروع ۹-۳۰ |
| اتوار | ۲۶ | ذیقعد | ۶ | ۱۸ | ۱۳ | [illegible] | ۵<br>۴۹ | دھنشٹا | ۶<br>۱ | وریان | ۵۴<br>۹ | | | | | ۲۵<br>۵۱ | ۴<br>۵۰ | ۵<br>۱۰ | |
| سوموار | ۲۷ | ۲ | ۷ | ۱۹ | ۱۴ | چوتھ | ۵۳<br>۵ | شت بھکھا<br>پوربا بھادرپد | [illegible] | پریگھ | ۴۴<br>۲۷ | مین | ۴۸<br>۵۵ | ۲۷<br>۰۰ | ۵۳<br>۵ | ۲۵<br>۵۴ | ۴<br>۴۹ | ۵<br>۱۱ | |
| منگلوار | ۲۸ | ۳ | ۸ | ۲۰ | ۱۵ | پنچمی | ۴۸<br>۱۸ | اترا بھادرپد | ۵۲<br>۲۱ | شو | ۳۶<br>۳۸ | | | | | ۲۵<br>۵۷ | ۴<br>۴۹ | ۵<br>۱۱ | بسنت پنچمی |
| بدھوار | ۲۹ | ۴ | ۹ | ۲۱ | ۱۶ | چھٹ | ۴۲<br>۳۰ | ریوتی | ۵۲<br>۵ | سدھ | ۳۸<br>۵۳ | میکھ | ۵۲<br>۵ | | | ۲۶<br>۰۰ | ۴<br>۴۸ | ۵<br>۱۲ | پنچک ختم ۵۲-۵ |
| برہسپت | ۳۰ | ۵ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۷ | ستمی | ۳۶<br>۵۱ | اشونی | ۴۶<br>۱۳ | سادھیہ | ۲۱<br>۱۰ | | | ۳۶<br>۵۱ | | ۲۶<br>۳ | ۴<br>۴۷ | ۵<br>۱۳ | اچلا ستمی |
| شکروار | ۳۱ | ۶ | ۱۱ | ۲۳ | ۱۸ | اشٹمی | ۳۱<br>۳۰ | بھرنی | ۴۷<br>۴۹ | شبھ | ۱۳<br>۳۰ | | | | ۴<br>۱۰ | ۲۶<br>۸ | ۴<br>۴۷ | ۵<br>۱۴ | بھیشم اشٹمی |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ جنوری کو بادل ہوئے تو بارش جلد ہونے کی علامت ہے۔ اگر ۸ جنوری کو آسمان ابر چھایا رہا۔ تو ماہ ہاڑ کی اماوس کو بارش ضرور ہوگی۔ اگر ۱۹ جنوری کو بادل گرجا اور بارش ہوئی۔ تو ماہ ساون و اسوج میں بارش کی سخت قلت ہوگی۔ اگر ۲۰ جنوری کو بجلی چمکے ہوا چلے۔ تو آئندہ بارش خوب ہو۔ اگر ۲۳ جنوری کو بادل ہوئے۔ تو ماہ بھادوں میں بارش اچھی ہوگی۔ اگر ۲۵ جنوری کو گھنے بادل ہوئے تو تمام سوگندھی والی چیزیں گراں ہونگی۔ اگر ۲۶ جنوری کو مطلع صاف رہا۔ تو ایک ماہ تک غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۷ جنوری کو بادل گرجا تو پان۔ ناریل وغیرہ گراں ہونگے۔ اگر ۳۰ جنوری کو مطلع صاف رہا۔ تو تمام سال گرانی غلہ کی علامت ہے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کرمہوتی ۵ بجے وقت ۱۴/۱۲



پن کال سنکرانت ۱۶/۱۲ سے ۳۳/۲۴ تک

## پیشینگوئی بابت ماہ ماگھ

ابتدائے ۱۴ جنوری لغایت ۱۱ فروری



## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز منگلوار بہ ہیبت ماگھی بھجنتر میں پردیش ہوگی۔ چونکہ ۵ مہوتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں کمی بیشی ہوتی رہیگی۔ لیکن اوسط نرخ گرانی پر رہیگا۔ غلہ تور۔ موٹھ۔ ماش۔ جوار۔ باجرہ وغیرہ کا نرخ بھی ایک حال پر رہیگا۔ چاول۔ کھانڈ۔ دودھ۔ دہی۔ گھی۔ سن۔ سوت۔ نوار۔ روئی۔ کپاس کا نرخ گراں رہیگا۔ تل تیل۔ السی۔ سرسوں۔ تورہیہ تارا میرا کا بھاؤ بھی تیز ہوگا۔ گڑ۔ شکر۔ شہد لال مرچ۔ [illegible]۔ چندن۔ لاکھ۔ مسور وغیرہ گراں رہینگے۔ سونا۔ تانبہ۔ پیتل کا نرخ گراں قلعی۔ [illegible]۔ چاندی وغیرہ کا بھاؤ تیز رہیگا لکڑی۔ اوپلے۔ تمباکو۔ چارہ۔ بھوسہ۔ کوڑی۔ گھاس گراں ہونگے۔ پنساری کا سامان۔ زیرہ مرچ سیاہ۔ ہلدی۔ دھنیہ۔ اجوائن۔ انار دانہ وغیرہ کا نرخ سم رہیگا۔

موسم سرما [illegible] اور راہو کا [illegible] جوگ ہے جو کہ مستورات کی صحت خراب اور [illegible] زیادہ کریگا جنگل اور مویشی کا [illegible] سبب ہے [illegible] امراض پھیلنے [illegible] دودھ اور بیل کی [illegible] تاثیر رکھتا ہے اسلئے اگر [illegible] کے [illegible] ہونے کا اندیشہ ہے [illegible] کی بھی نقصان ہو

## کرۂ فلک

آسمان سرخی مائل زیادہ رہیگا۔ رات کو سیاہ سے زیادہ [illegible] بارش کم ہوگی۔ ماہ جنوری کی ۱۳-۱۴-۱۵ ۱۶-۱۸-۱۹-۲۰ تاریخ کو آسمان پر بادل چھائے رہینگے۔ ہوا تیز چلے۔ ۲۳-۲۴-۲۷ جنوری کو آسمان ابر محیط ۳۰-۳۱ جنوری کو خفیف بوندا باندی ہوگی

ماہ فروری کی یکم و ۲-۳ تاریخ کو بعض جگہ بارش اور ۴-۵-۶-۹ فروری کو آسمان ابر محیط اور ہوا تیز چلنے کا یوگ ہے۔



## تقویم ستیارگان

## فہرست تبدیلی ستارگان

| ماہ جنوری ۱۹۳۶ء | |
|---|---|
| ۱ | سورج پوروا کھاڈ کے (۲) [illegible] ۲۹ |
| ۲ | شکر دھنشٹا کے (۱) ۱۲ ۲۸ شکر [illegible] کے (۳) ۵۹-۱۶ |
| ۳ | بدھ اترا کھاڈ کے (۳) ۵۲-۶ |
| ۴ | سورج پوروا کھاڈ کے (۳) [illegible] |
| ۵ | شکر اترا کھاڈ کے (۲) ۴۵-۵۳ |
| ۶ | منگل دھنشٹا کے (۳) ۲۲ ۱۴ بدھ شرون کے (۱) ۴۸-۵۶ |
| ۷ | سورج پوروا کھاڈ کے (۴) ۴۵-۳۲ |
| ۸ | شکر دھنشٹا کے (۱) ۲۹-۲۹ |
| ۹ | |
| ۱۰ | منگل دھنشٹا کے (۴) ۵۵-۳۰ بدھ شرون کے (۲) [illegible] ۵۸ |
| ۱۱ | سورج اترا کھاڈ کے (۱) [illegible] ۵۵ شکر دھنشٹا کے (۲) ۴۳-۴ |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | شکر دھنشٹا کے (۳) ۵۶-۱۱ |
| ۱۴ | سورج اترا کھاڈ کے (۲) ۱۴-۰۰ بدھ شرون کے (۳) ۲۷-۴۶ |
| ۱۵ | منگل ست بھکھا کے (۱) ۹-۵ |
| ۱۶ | شکر دھنشٹا کے (۴) ۷-۹ |
| ۱۷ | سورج اترا کھاڈ کے (۳) ۳۲-۹ بدھ دھنشٹا کے (۱) [illegible] ۳۶ |
| ۱۸ | |
| ۱۹ | منگل ست بھکھا کے (۲) ۳-۳۰ شکر ست بھکھا کے (۱) ۲۲-۷ |
| ۲۰ | سورج اترا کھاڈ کے (۴) ۳۸-۱ |
| ۲۱ | شکر ست بھکھا کے (۲) ۵۹-۵۷ |
| ۲۲ | |
| ۲۳ | منگل ست بھکھا کے (۳) ۳۵-۳۶ |
| ۲۴ | سورج شرون کے (۱) ۴-۰ شکر ست بھکھا کے (۳) ۴۳-۳۵ |
| ۲۵ | بدھ شرون کے (۲) ۴۸-۵۲ ست بھکھا کے (۴) ۵۷-۲۳ |
| ۲۶ | |
| ۲۷ | سورج شرون کے (۲) ۱۹-۵۵ شکر [illegible] کے (۴) ۳۸-۲۵ |
| ۲۸ | منگل ست بھکھا کے (۴) ۵-۸ |
| ۲۹ | |
| ۳۰ | سورج شرون کے (۳) [illegible] بدھ شرون [illegible] |
| ۳۱ | |

ماہ جنوری ۱۹۳۶ء



| فروری | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | ابتدا گھڑی پل | انتہا گھڑی پل | گھڑی پل | طلوع | غروب | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنیچروار | ۱ | ۷ | ۱۲ | ۲۴ | ۱۹ | نومی | ۲۶<br>۵۵ | کرتکا | ۴۲<br>۵ | شکل | ۲<br>۳۸ | برکھ | ۱<br>۲۳ | | | ۲۶<br>۱۲ | ۶<br>۴۶ | ۵<br>۱۴ | |
| اتوار | ۲ | ۸ | ۱۳ | ۲۵ | ۲۰ | دسمی | ۲۳<br>۷ | روہنی | ۴۰<br>۱۵ | برہم<br>اندر | ۳۳-۰<br>۱۲-۵۳ | | | ۵۱<br>۴۳ | | ۲۶<br>۱۶ | ۶<br>۴۵ | ۵<br>۱۵ | |
| سوموار | ۳ | ۹ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۱ | اکادشی | ۲۰<br>۱۹ | مرگشر | ۳۹<br>۱۷ | بیدھرت | ۴۹<br>۵۱ | متھن | ۹<br>۴۷ | | ۳۰<br>۱۹ | ۲۶<br>۲۰ | ۶<br>۴۴ | ۵<br>۱۶ | موہنی ایکادشی |
| منگلوار | ۴ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۷ | ۲۲ | دوادشی | ۱۲<br>۳۴ | آردرا | ۳۳<br>۲۹ | وشکمبھ | ۴۵<br>۵۴ | | | | | ۲۶<br>۲۴ | ۶<br>۴۳ | ۵<br>۱۶ | |
| بدھوار | ۵ | ۱۱ | ۱۶ | ۲۸ | ۲۳ | تریودشی | ۱۸<br>۰۰ | پنرباس | ۳۰<br>۵۶ | پریت | ۴۳<br>۰۰ | کرک | ۲۲<br>۱۹ | | | ۲۶<br>۲۸ | ۶<br>۴۳ | ۵<br>۱۷ | |
| ویروار | ۶ | ۱۲ | ۱۷ | ۲۹ | ۲۴ | چتردشی | ۱۰<br>۴۹ | پکھ | ۳۳<br>۳۸ | آیوشمان | ۴۵<br>۳ | | | ۱۸<br>۴۹ | ۳۹<br>۵۲ | ۲۶<br>۳۲ | ۶<br>۴۲ | ۵<br>۱۸ | |
| شکروار | ۷ | ۱۳ | ۱۸ | ۳۰ | ۲۵ | پورنماشی | ۴۰<br>۵۵ | اشلیکھا | ۴۶<br>۳۳ | سوبھاگ | ۴۰<br>۲ | سنگھ | ۴۶<br>۳۳ | | | ۲۶<br>۳۶ | ۶<br>۴۱ | ۵<br>۱۹ | ماگھ اشنان ختم۔ پورنماشی برت |
| سنیچروار | ۸ | ۱۴ | ۱۹ | پھاگن | ۲۶ | پرتپدا | ۲۴<br>۱۳ | مگھا | ۵۲<br>۳۵ | شوبھن | ۴۰<br>۲ | | | | | ۲۶<br>۴۰ | ۶<br>۴۰ | ۵<br>۲۰ | بدھ مشرق میں طلوع ۳۱-۵۵ |
| اتوار | ۹ | ۱۵ | ۲۰ | ۲ | ۲۷ | دوج | ۲۸<br>۴۲ | پوروا پھالگنی | ۵۰<br>۴۵ | اتی گنڈ | ۴۰<br>۲۱ | | | | | ۲۶<br>۴۴ | ۶<br>۳۹ | ۵<br>۲۱ | |
| سوموار | ۱۰ | ۱۶ | ۲۱ | ۳ | ۲۸ | تیج | ۳۳<br>۳۵ | اترا پھالگنی | ۶۰<br>۰۰ | سکرما | ۴۱<br>۲۸ | کنیا | ۱۵<br>۱ | ۱<br>۱ | ۳۳<br>۳۵ | ۲۶<br>۴۸ | ۶<br>۳۸ | ۵<br>۲۲ | |
| منگلوار | ۱۱ | ۱۷ | ۲۲ | ۴ | ۲۹ | چوتھ | ۳۸<br>۵۳ | اترا پھالگنی | ۴<br>۵۱ | دھرت | ۴۳<br>۱۳ | | | | | ۲۶<br>۵۲ | ۶<br>۳۷ | ۵<br>۲۳ | گنیش چوتھ |
| بدھوار | ۱۲ | ۱۸ | ۲۳ | ۵ | رمضان | پنچمی | ۴۳<br>۲۲ | ہست | ۱۱<br>۲۸ | شول | ۴۴<br>۱۱ | تلا | ۴۴<br>۳۶ | | | ۲۶<br>۵۶ | ۶<br>۳۶ | ۵<br>۲۳ | سورج کنبھ میں ۴۳-۳۱<br>[illegible] میں ۴۳-۵۰ |
| ویروار | ۱۳ | ۱۹ | ۲۴ | ۶ | ۲ | چھٹ | ۴۹<br>۳ | چترا | ۱۶<br>۳۵ | گنڈ | ۴۶<br>۹ | | | ۴۹<br>۳ | | ۲۷<br>۰۰ | ۶<br>۳۶ | ۵<br>۲۴ | بدھ ۱۲-۲۵ پر مارگی ہوا |
| شکروار | ۱۴ | ۲۰ | ۲۵ | ۷ | ۳ | ستمی | ۵۳<br>۲۳ | سواتی | ۲۲<br>۲۶ | بردھ | ۴۳<br>۳۱ | | | | ۳۱<br>۸ | ۲۷<br>۴ | ۶<br>۳۵ | ۵<br>۲۵ | [illegible] میں ۱۶-۲۷ پر آیا |
| سنیچروار | ۱۵ | ۲۱ | ۲۶ | ۸ | ۴ | اشٹمی | ۵۶<br>۰۰ | وشاکھا | ۳۹<br>۹ | دھرو | ۴۵<br>۳ | برچھک | ۱۱<br>۵۵ | | | ۲۷<br>۸ | ۶<br>۳۴ | ۵<br>۲۶ | [illegible] غروب ۰۰-۳۵<br>[illegible] ۱۱-۵۵ |
| اتوار | ۱۶ | ۲۲ | ۲۷ | ۹ | ۵ | نومی | ۵۶<br>۴۸ | انورادھا | ۳۱<br>۵۰ | بیاگھات | ۴۳<br>۴۲ | | | | | ۲۷<br>۱۲ | ۶<br>۳۳ | ۵<br>۲۶ | |
| سوموار | ۱۷ | ۲۳ | ۲۸ | ۱۰ | ۶ | دسمی | ۵۸<br>۸ | جیشٹھا | ۳۳<br>۳ | ہرکھن | ۴۰<br>۵۲ | دھن | ۳۳<br>۳ | ۲۶<br>۵۸ | ۵۸<br>۸ | ۲۷<br>۱۶ | ۶<br>۳۲ | ۵<br>۲۸ | |
| منگلوار | ۱۸ | ۲۴ | ۲۹ | ۱۱ | ۷ | اکادشی | ۵۸<br>۱۳ | مول | ۳۵<br>۷ | بجر | ۳۶<br>۰۰ | | | | | ۲۷<br>۲۰ | ۶<br>۳۲ | ۵<br>۲۸ | بجیا ایکادشی |
| بدھوار | ۱۹ | ۲۵ | ۳۰ | ۱۲ | ۸ | دوادشی | ۵۵<br>۹ | پورواشاڑھ | ۳۵<br>۰۰ | سدھی | ۳۱<br>۳۶ | مکر | ۳۹<br>۳۱ | | | ۲۷<br>۲۴ | ۶<br>۳۰ | ۵<br>۲۹ | |
| ویروار | ۲۰ | ۲۶ | ذی الحجہ | ۱۳ | ۹ | تریودشی | ۵۱<br>۵۴ | اتراشاڑھ | ۳۳<br>۳۳ | بیتی پات | ۲۶<br>۲۵ | | | ۵۱<br>۵۴ | | ۲۷<br>۲۸ | ۶<br>۳۰ | ۵<br>۳۰ | |
| شکروار | ۲۱ | ۲۷ | ۲ | ۱۴ | ۱۰ | چودش | ۴۷<br>۵۲ | شرون | ۳۱<br>۱۳ | بریان | ۲۱<br>۲۸ | | | | ۱۹<br>۵۵ | ۲۷<br>۳۲ | ۶<br>۲۹ | ۵<br>۳۱ | مہا شیوراتری پردوش برت |
| سنیچروار | ۲۲ | ۲۸ | ۳ | ۱۵ | ۱۱ | اماوس | ۴۲<br>۵۳ | دھنشٹا | ۲۸<br>۴۴ | پرگھ | ۱۳<br>۴۹ | کنبھ | ۰۰<br>۱۳ | | | ۲۷<br>۳۶ | ۶<br>۲۸ | ۵<br>۳۲ | پنچک شروع ۰۰-۱۳ |
| اتوار | ۲۳ | ۲۹ | ۴ | ۱۶ | ۱۲ | پرتپدا | ۳۷<br>۳۹ | شت بھکھا | ۲۵<br>۱۰ | شیو | ۷<br>۳۸ | | | | | ۲۷<br>۴۰ | ۶<br>۲۸ | ۵<br>۳۲ | |
| سوموار | ۲۴ | ۳۰ | ۵ | ۱۷ | ۱۳ | دوج | ۳۱<br>۴۳ | پوروا بھادرپد | ۲۱<br>۱۲ | سدھ<br>سادھ | ۵-۰۰<br>۳۰-۵۳ | مین | ۷<br>۱۳ | | | ۲۷<br>۴۵ | ۶<br>۲۷ | ۵<br>۳۳ | چاند نظر آئیگا |
| منگلوار | ۲۵ | چیت | ۶ | ۱۸ | ۱۴ | تیج | ۲۵<br>۵۳ | اترا بھادرپد | ۱۷<br>۶ | شبھ | ۴۳<br>۵۷ | | | ۵۳ | | ۲۷<br>۵۰ | ۶<br>۲۶ | ۵<br>۳۴ | برہسپت دھن میں ۱۱-۱۳ پر آیا |
| بدھوار | ۲۶ | ۲ | ۷ | ۱۹ | ۱۵ | چوتھ | ۲۰<br>۷ | ریوتی | ۱۳<br>۵۹ | شکل | ۳۶<br>۴۶ | میکھ | ۱۲<br>۵۹ | | ۲۰<br>۷ | ۲۷<br>۵۵ | ۶<br>۲۵ | ۵<br>۳۵ | پنچک ختم ۱۲-۵۹ |
| ویروار | ۲۷ | ۳ | ۸ | ۲۰ | ۱۶ | پنچمی | ۱۴<br>۲۱ | اشونی | ۹<br>۲ | برہم | ۲۹<br>۱۶ | | | | | ۲۸<br>۰۰ | ۶<br>۲۴ | ۵<br>۳۶ | |
| شکروار | ۲۸ | ۴ | ۹ | ۲۱ | ۱۷ | چھٹ | ۹<br>۱۳ | بھرنی | ۵<br>۳۳ | اندر | ۲۲<br>۱ | برکھ | ۱۹<br>۵۰ | | | ۲۸<br>۵ | ۶<br>۲۳ | ۵<br>۳۶ | |
| سنیچروار | ۲۹ | ۵ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۸ | ستمی | ۴<br>۳۳ | کرتکا | ۲<br>۳۹ | بیدھرت | ۱۵<br>۲۰ | | | ۳۴<br>۴ | ۳۲<br>۴۳ | ۲۸<br>۱۰ | ۶<br>۲۲ | ۵<br>۳۸ | |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ فروری کو بارش ہوئی۔ تو فصل اچھا ہوگا۔ اگر ۷ فروری کو بادل رہے تو ماہ ساون میں اناج گراں رہے۔ اگر ۸ فروری کو بادل ہوئے۔ تو ماہ ساون میں غلہ کا نرخ تیزی پر رہے۔ اگر ۱۰ فروری کو چاند کے گرد ہالہ پڑا۔ تو ماہ چیت میں بادل بہت ہونگے۔ اگر ۱۵ فروری کو بادل ہوئے۔ تو ماہ جیٹھ میں ژالہ باری ہوگی۔ اگر ۲۱ و ۲۲ فروری رات کو بادل گرجا۔ تو ماہ جیٹھ میں ندھا کی کثرت سے آویں۔ اگر ۲۶ فروری کو بادل ۲۷ فروری کو مطلع صاف اور ۲۹ فروری کو بارش ہوئی۔ تو ماہ بیساکھ میں غلہ گراں ہوجائیگا۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کنبھ مہورتی ۳۰ بج ۴۳ منٹ



پن کال سنکرانت ۲۲ دوپہر کے بعد سے شروع

## پیشنگوئی بابت ماہ پھاگن

ابتدا سے ۱۷ فروری نہایت ۱۴ مارچ

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بمعہ بدھ وار چتر نکشتر میں پیدا ہوگی جو کہ ۳۰ مہورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ بدستور ماہ سابقہ ہی رہیگا۔ غلہ خورد کا بھاؤ گاہے گراں گاہے ارزاں ہوتا ہے۔ گھی۔ دودھ۔ دہی۔ چاول۔ کھانڈ کے نرخ میں قدرے ارزانی رہیگی۔ نمک و ماش گراں رہینگے اشیاء سرخ رنگ۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ مسور۔ چندن اور سرخ رنگ کے چوپائے وغیرہ کا نرخ تیز ہوگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ پھوٹ نواڑ۔ پٹولہ وغیرہ کا نرخ ارزاں رہیگا۔ تیل تل گراں۔ السی۔ سرسوں۔ تربوز۔ تارامیرا کا نرخ کچھ ارزاں ہوگا۔ سونا۔ تانبہ۔ پیتل۔ لوہا۔ سکہ وغیرہ کا نرخ ارزاں رہیگا۔ علاقہ مارواڑ میں قحط کے آثار نمودار ہونگے۔ کاٹھی۔ کوئلہ کا نرخ ارزاں۔ چارہ بھوسہ۔ گھاس۔ تورئی کا نرخ تیز رہیگا۔

موسم۔ آدرش روز سنیچر وار ہے۔ اس لئے بیماری کا زور رہیگا۔ بخار محرقہ اور طاعون سے بہت جانیں ضائع ہونگی۔ خونی امراض سے بھی لوگ تنگ ہونگے۔

## کرۂ فلک

سورج سنیچر کا باہمی اتصال سنجوگ ہے۔ اسلئے ہوا۔ بجلی۔ بارش کم ہوگی۔ بادل کی گرج۔ بجلی کی چمک۔ ژالہ باری اور بجلی گرنے سے بہت نقصان ہوگا۔ فصل کو بھی نقصان پہنچیگا۔ ماہ فروری کی ۱۲ و ۱۳ تاریخ کو بادل ہوا تیز ۱۴ و ۱۵ فروری کو گرج چمک بارش اور ژالہ باری بھی ہو ۲۰ و ۲۱ فروری کو خفیف بارش۔ ۲۵۔ ۲۸۔ ۲۹ فروری کو بادل۔ ہوا تیز۔ بارش۔ کھنڈ برشٹی۔ یکم ۲ و ۳ مارچ کو ہوا تیز۔ گرج۔ چمک۔ ژالہ باری۔ ۶ و ۷ مارچ کو آسمان ابر آلود خفیف بارش اور ۱۱ ۱۲ مارچ کو بادل رہیگا۔

| فروری | |
|---|---|
| ۱ | منگل پوربا بھادرپد کے (۱) ۲۱-۵۵<br>شکر پوربا کھاڑے کے (۲) ۶-۱۲ |
| ۲ | سورج شرون کے (۴) ۵۴-۰۰ |
| ۳ | بدھ اترا کھاڑے کے (۲) ۷-۴۹ برہسپت جیشٹھ کے (۴) ۳۱-۲۹ |
| ۴ | شکر پوربا کھاڑے کے (۳) ۳۶-۴۵ |
| ۵ | منگل پوربا کھاڑے کے (۲) ۳۷-۳۸ |
| ۶ | سورج دھنشٹا کے (۱) ۹-۵۸ |
| ۷ | شکر پوربا کھاڑے کے (۴) ۱۹-۴ |
| ۸ | |
| ۹ | سورج دھنشٹا کے (۲) ۲۶-۵۵<br>بدھ اترا کھاڑے کے (۳) ۱۸-۳۸ |
| ۱۰ | منگل پوربا بھادرپد (۳) ۱۴-۸<br>شکر اترا کھاڑے کے (۱) ۱-۲۱ |
| ۱۱ | |
| ۱۲ | سورج دھنشٹا کے (۳) ۴۳-۴۱<br>شکر اترا کھاڑے کے (۲) ۳۴-۵ |
| ۱۳ | بدھ اترا کھاڑے کے (۲) ۲۱-۴۳ |
| ۱۴ | منگل پوربا بھادرپد کے (۴) ۱۶-۴ |
| ۱۵ | شکر اترا کھاڑے کے (۳) ۲۴-۵۲ |
| ۱۶ | سورج دھنشٹا کے (۴) ۱-۴۹ |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | منگل اترا بھادرپد کے (۱) ۱۴-۲۴<br>شکر اترا کھاڑے کے (۴) ۵-۵۲ |
| ۱۹ | سورج ست بھکا کے (۱) ۲۰-۱۳ |
| ۲۰ | بدھ شرون کے (۱) ۲-۱۹<br>شکر شرون کے (۱) ۴۸-۲۰ |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | سورج ست بھکا کے (۲) ۳۴-۵۱<br>برہسپت جیشٹھا کے (۴) ۳۳-۴۲ |
| ۲۳ | منگل اترا بھادرپد کے (۲) [illegible]<br>[illegible] شرون کے (۲) ۲۹-۴۲ |
| ۲۴ | |
| ۲۵ | سورج ست بھکا کے (۳) ۵۱-۲۶<br>برہسپت مول کے (۱) ۱۱-۱۳ |
| ۲۶ | بدھ شرون کے (۲) ۵۷-۲<br>شکر شرون کے (۲) ۱-۲۲ |
| ۲۷ | منگل اترا بھادرپد کے (۳) ۲۱-۳۸ |
| ۲۸ | شکر شرون کے (۳) ۵۱-۱ |
| ۲۹ | سورج ست بھکا کے (۴) ۱۶-۶۰<br>[illegible] |

تقویم سیارگان



## مارچ



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اتوار | ۶ | ۱۱ | ۲۳ | ۱۹ | ہولکا اشٹمی |
| ۲ | سوموار | ۷ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۰ | |
| ۳ | منگلوار | ۸ | ۱۳ | ۲۵ | ۲۱ | آملا ایکادشی |
| ۴ | بدھوار | ۹ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۲ | |
| ۵ | ویروار | ۱۰ | ۱۵ | ۲۷ | ۲۳ | ساوتا - عید الضحیٰ |
| ۶ | شکروار | ۱۱ | ۱۶ | ۲۸ | ۲۴ | بدھ کنبھ میں ۵۲-۵۵ پر آیا |
| ۷ | سنیچروار | ۱۲ | ۱۷ | ۲۹ | ۲۵ | شکر کنبھ میں ۵۵-۴۴ پر آیا۔<br>ہولی پوجن - پورنماشی برت |
| ۸ | اتوار | ۱۳ | ۱۸ | ۳۰ | ۲۶ | ہولی - |
| ۹ | سوموار | ۱۴ | ۱۹ | [illegible] | ۲۸ | ہولا |
| ۱۰ | منگلوار | ۱۵ | ۲۰ | ۲ | ۲۸ | |
| ۱۱ | بدھوار | ۱۶ | ۲۱ | ۳ | ۲۹ | گنیش چوتھ |
| ۱۲ | ویروار | ۱۷ | ۲۲ | ۴ | ۳۰ | |
| ۱۳ | شکروار | ۱۸ | ۲۳ | ۵ | [illegible] | سورج مین میں ۲۳-۷ [illegible] |
| ۱۴ | سنیچروار | ۱۹ | ۲۴ | ۶ | ۲ | |
| ۱۵ | اتوار | ۲۰ | ۲۵ | ۷ | ۳ | سیتلا اشٹمی |
| ۱۶ | سوموار | ۲۱ | ۲۶ | ۸ | ۴ | اشٹوں کا میلہ |
| ۱۷ | منگلوار | ۲۲ | ۲۷ | ۹ | ۵ | |
| ۱۸ | بدھوار | ۲۳ | ۲۸ | ۱۰ | ۶ | |
| ۱۹ | ویروار | ۲۴ | ۲۹ | ۱۱ | ۷ | پاپ موچنی ایکادشی |
| ۲۰ | شکروار | ۲۵ | ۳۰ | ۱۲ | ۸ | پنچک شروع ۳۱-۵ |
| ۲۱ | سنیچروار | ۲۶ | [illegible] | ۱۳ | ۹ | سنیچر شرق میں طلوع ۱۳ [illegible] |
| ۲۲ | اتوار | ۲۷ | ۲ | ۱۴ | ۱۰ | چیت چودس |
| ۲۳ | سوموار | ۲۸ | ۳ | ۱۵ | ۱۱ | بدھ مین میں ۵۹-۳۵ پر آیا<br>[illegible] |
| ۲۴ | منگلوار | ۲۹ | ۴ | ۱۶ | ۱۲ | [illegible] |
| ۲۵ | بدھوار | محرم | ۵ | ۱۷ | ۱۳ | [illegible] ۱۳۵۵ ہجری شروع |
| ۲۶ | ویروار | ۲ | ۶ | ۱۸ | ۱۳ | |
| ۲۷ | شکروار | ۳ | ۷ | ۱۹ | ۱۵ | بسنتی چتھی |
| ۲۸ | سنیچروار | ۴ | ۸ | ۲۰ | ۱۶ | سکندھا چھٹ |
| ۲۹ | اتوار | ۵ | ۹ | ۲۱ | ۱۷ | [illegible] - میلہ شالامار باغ لاہور |
| ۳۰ | سوموار | ۶ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۸ | درگا اشٹمی |
| ۳۱ | منگلوار | ۷ | ۱۱ | ۲۳ | ۱۹ | رام نومی |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ مارچ کو بادل اور ۳ مارچ کو مطلع صاف رہا۔ تو آئندہ بارش کی قلت اور آندھی سخت چلنے کا یوگ جاننا۔ اگر ۸ مارچ کو گرج و بارش ہووے۔ تو ماہ ساون بھادوں میں نرخ غلہ گراں اور بارش کم ہو۔ اگر ۱۰ مارچ کو مطلع صاف رہا اور ہوا چلی۔ تو ماہ بھادوں میں بارش خوب ہو۔ اگر ۱۱ مارچ کو جنوب و مشرق کی ہوا چلی۔ تو غلہ ارزاں ہو۔ اگر ۱۲ مارچ کو بارش ہووے۔ تو یہ علامت قحط سالی کی ہے۔ اگر ۱۵ مارچ کو بادل رہا۔ تو نرخ جنس کی تمام اشیا ارزاں ہو جاویں۔ اگر ۱۷ مارچ کو بجلی چمکی۔ تو بارش کے لئے شبھ ہے۔ اگر ۲۵ مارچ کو مطلع صاف رہا۔ تو ماہ بھادوں بارش سے خالی جاوے۔



زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت میں ۵ ۲ وقت ۳۲



چن کال سنکرانت = دوپہر کے بعد سے شروع

## پیشنگوئی بابت ماہ چیت

ابتداء ۱۳ مارچ لغایت ۱۱ اپریل

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز شکروار وقت ۵ گھنٹہ میں پرویش کرے گی جو کہ ۷ مہورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و جو کے نرخ میں خفیف گرانی رہے گی غلہ خورد مونگ۔ ماش۔ چنا۔ باجرہ۔ موٹھ۔ مٹر کا نرخ بھی تیز رہے گا۔ دودھ۔ دہی۔ گھی کا بھاؤ مدہم۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارا میرا۔ ہلدی کا نرخ ارزاں رہے گا۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ سونٹھ۔ چندن وغیرہ کا نرخ گراں ہوگا۔ چاول۔ چاندی قلعی۔ روئی۔ کپاس۔ سوت۔ کپڑا سفید کا نرخ ارزاں ہوگا۔ سواری کے جانور۔ گھوڑا ہاتھی۔ اونٹ وغیرہ ارزاں بکیں گے۔ سونا تانبہ۔ لوہا۔ سکہ کا نرخ تیز رہے گا۔ لکڑی کوئلہ۔ چارہ۔ گھاس وغیرہ کا نرخ گرانی پر ہوگا۔ سوتی و ریشمی کپڑا رنگدار کا نرخ گراں سفید کا ارزاں رہے گا۔ پنساریوں کا سامان گراں بکے گا۔

موسم۔ لوگوں کی صحت اس ماہ میں کچھ اچھی نہ رہے گی۔ امراض خونی اور بخار سے لوگ تکلیف پائیں گے۔

### کرۂ فلک

اس ماہ میں شکر شنیچر کا راشی بھوگ ہے۔ اور چندرماں جل نکشتر میں ہے۔ اس لئے بادل بہت ہونگے۔ بارش بھی ہوگی۔ ہوا زیادہ چلے گی۔ جو کہ فصل کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ۱۳ و ۱۸ مارچ کو آسمان ابر آلود۔ بارش ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵ تاریخ کو آسمان پر بادل۔ ہوا تیز۔ گرج چمک۔ ژالہ باری اور بارش۔ ۲۹۔ ۳۰ مارچ کو خفیف بارش ہوگی۔ ماہ اپریل کی ۳۔ ۴ تاریخ کو بادل بارش اور ۹ و ۱۰ اپریل کو آسمان ابر آلود کہیں کہیں بارش بھی ہو۔



تقویم سیارگان

| | |
|---|---|
| ۱ | |
| ۲ | منگل اترا بھادر پد کے (۳) ... بدھ دھنشٹا کے (۱) ۳۳ - ۲۲ |
| ۳ | سورج پوربا بھادر پد کے (۱) ۳۳ - ۵۱ |
| ۴ | بدھ دھنشٹا کے (۲) ۳۱ - ۴۳ |
| ۵ | شکر دھنشٹا کے (۲) ۱۴ - ۵۱ |
| ۶ | سورج پوربا بھادر پد کے (۲) ... |
| ۷ | منگل ریوتی کے (۱) ... شکر دھنشٹا کے (۴) ۵۵ |
| ۸ | |
| ۹ | بدھ دھنشٹا کے (۴) ۱ - ۳۲ |
| ۱۰ | سورج پوربا بھادر پد کے (۳) ۱۴ - ۲۰ شکر دھنشٹا کے ... ۵۵ |
| ۱۱ | [illegible] |
| ۱۲ | شکر ستبھکا کے (۱) ۱۷ - ۴۲ |
| ۱۳ | سورج پوربا بھادر پد کے (۴) ۳۴ - ۲ بدھ ستبھکا کے (۲) ۷ - ۳۰ |
| ۱۴ | بدھ ستبھکا کے (۳) ۵۹ - ۱۳ |
| ۱۵ | منگل ریوتی کے (۳) ۵۴ - ۵۳ شکر ستبھکا کے (۲) ۵۸ - ۳۷ |
| ۱۶ | سورج اترا بھادر پد کے (۱) ۵۵ - ۱۰ بدھ ستبھکا کے (۴) ۵ - ۵۵ |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | بدھ پوربا بھادر پد کے (۱) ۳۴ - ۲۸ شکر ستبھکا کے (۳) ۲۶ - ۴۹ |
| ۱۹ | شنیچر پوربا بھادر پد کے (۱) ۵۸ - ۴۳ |
| ۲۰ | سورج اترا بھادر پد کے (۲) ... بدھ پوربا بھادر پد کے (۲) ... |
| ۲۱ | شکر ستبھکا کے (۴) ۲۰ - ۳۴ |
| ۲۲ | بدھ پوربا بھادر پد کے (۳) ۲۵ - ۵۷ |
| ۲۳ | سورج اترا بھادر پد کے (۳) ۳۲ - ۱۰ بدھ پوربا بھادر پد کے (۴) ۵۹ - ۴۳ |
| ۲۴ | منگل اشونی کے (۱) ۹ - ۴۷ شکر پوربا بھادر پد کے (۱) ۲ - ۵۲ |
| ۲۵ | |
| ۲۶ | بدھ اترا بھادر پد کے (۱) ۵ - ۱ |
| ۲۷ | سورج اترا بھادر پد کے (۴) ... |
| ۲۸ | بدھ اترا بھادر پد کے (۲) ۲۸ - ... شکر پوربا بھادر پد کے (۲) ۱۸ - ۵۰ |
| ۲۹ | [illegible] |
| ۳۰ | سورج ریوتی کے ... شکر پوربا بھادر پد کے ... |
| ۳۱ | بدھ اترا بھادر پد کے (۴) ... ۳۸ |

| روز | تاریخ انگریزی اپریل ۱۹۳۶ء | تاریخ ہجری محرم ۱۳۵۵ھ | تاریخ شمسی | چیت ۱۹۹۳ | بیساکھ ۱۹۹۳ | تتھی | گھڑی پل | نکشتر | گھڑی پل | جوگ | گھڑی پل | چندرما نام راس | گھڑی پل | بھدرا ابتدا | بھدرا انتہا | دن مان گھڑی پل | طلوع آفتاب گھنٹہ منٹ | غروب آفتاب گھنٹہ منٹ | جدول چاند گھٹنا اور بڑھنا | تیوہار و میلہ جات و ضروری واقعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدھوار | ۱ | ۸ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۰ | دسمی | ۳۲<br>۲۱ | پکھ | ۳۳<br>۳۲ | سکرما | ۱۳<br>۴۳ | | | | | ۳۰<br>۵۰ | ۵<br>۵۰ | ۶<br>۱۰ | | |
| ویروار | ۲ | ۹ | ۱۳ | ۲۵ | ۲۱ | ایکادشی | ۳۳<br>۳۴ | اشلیکھا | ۲۶<br>۱۱ | دھرت | ۱۳<br>۲۴ | سنگھ | ۲۶<br>۱۱ | ۳<br>۳۸ | ۳۳<br>۳۴ | ۳۰<br>۵۵ | ۵<br>۴۹ | ۶<br>۱۱ | | کاما ایکادشی |
| شکروار | ۳ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۲ | دوادشی | ۳۶<br>۳۲ | مگھا | ۳۰<br>۴۳ | شول | ۱۱<br>۵۱ | | | | | ۳۱<br>۰۰ | ۵<br>۴۸ | ۶<br>۱۲ | | محرم |
| سنیچروار | ۴ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۷ | ۲۳ | ترودشی | ۴۲<br>۵ | پوربا پھالگنی | ۳۵<br>۳۴ | گنڈ | ۱۲<br>۳۱ | کنیا | ۵۲<br>۳۰ | | | ۳۱<br>۵ | ۵<br>۴۷ | ۶<br>۱۳ | | شکر مین میں ۲۲-۳۹ پر آیا |
| اتوار | ۵ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۸ | ۲۴ | چتردشی | ۳۶<br>۵۳ | اترا پھالگنی | ۴۲<br>۲۹ | بردھ | ۱۳<br>۳۹ | | | ۴۶<br>۵۳ | | ۳۱<br>۱۰ | ۵<br>۴۶ | ۶<br>۱۴ | | |
| سوموار | ۶ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۹ | ۲۵ | پورنماشی | ۵۲<br>۱ | ہست | ۴۹<br>۷ | دھرو | ۱۴<br>۱۸ | | | | ۱۹<br>۲۷ | ۳۱<br>۱۵ | ۵<br>۴۵ | ۶<br>۱۵ | ○ | ہنومان جنم پورنماشی برت |
| منگلوار | ۷ | ۱۴ | ۱۸ | [illegible] | ۲۶ | پڑوا | ۵۶<br>۱۸ | چترا | ۵۵<br>۳۵ | بیاگھات | ۱۶<br>۲۰ | تلا | ۳۲<br>۲۱ | | | ۳۱<br>۲۰ | ۵<br>۴۴ | ۶<br>۱۶ | | |
| بدھوار | ۸ | ۱۵ | ۱۹ | ۲ | ۲۷ | دوج | ۶۰<br>۰۰ | سواتی | ۶۰<br>۰۰ | ہرکھن | ۱۸<br>۳۳ | | | | | ۳۱<br>۲۵ | ۵<br>۴۳ | ۶<br>۱۷ | | بدھ میکھ میں ۳۴-۲۵ پر آیا |
| ویروار | ۹ | ۱۶ | ۲۰ | ۳ | ۲۸ | دوج | ۱<br>۴۸ | سواتی | ۱<br>۳۳ | بجر | ۱۹<br>۳۳ | برشچک | ۵۰<br>۲۷ | ۳۳<br>۲۴ | | ۳۱<br>۳۰ | ۵<br>۴۲ | ۶<br>۱۸ | | قمر در عقرب ۵۰-۲۷ |
| شکروار | ۱۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۴ | ۲۹ | ترتیج | ۵<br>۴۲ | بساکھ | ۷<br>۴۲ | سدھی | ۱۹<br>۵۳ | | | | ۵<br>۴۳ | ۳۱<br>۳۵ | ۵<br>۴۱ | ۶<br>۱۹ | | گنیش چوتھ |
| سنیچروار | ۱۱ | ۱۸ | ۲۲ | ۵ | ۳۰ | چوتھ | ۸<br>۱۵ | انورادھا | ۱۰<br>۴۹ | ویتی پات | ۱۹<br>۱۹ | | | | | ۳۱<br>۴۰ | ۵<br>۴۰ | ۶<br>۲۰ | | |
| اتوار | ۱۲ | ۱۹ | ۲۳ | ۶ | [illegible] | پنچمی | ۹<br>۵۱ | جیشٹھا | ۱۳<br>۴۴ | وریان | ۱۷<br>۴۷ | دھن | ۱۳<br>۴۳ | | | ۳۱<br>۴۵ | ۵<br>۳۹ | ۶<br>۲۱ | | سورج میکھ میں ۵۷-۳۱ میلہ بیساکھی |
| سوموار | ۱۳ | ۲۰ | ۲۴ | ۷ | ۲ | چھٹ | ۹<br>۵۳ | مول | ۱۵<br>۲۳ | پریگھ | ۱۴<br>۱۳ | | | ۹<br>۵۴ | ۳۹<br>۲۰ | ۳۱<br>۵۰ | ۵<br>۳۸ | ۶<br>۲۲ | | |
| منگلوار | ۱۴ | ۲۱ | ۲۵ | ۸ | ۳ | ستمی | ۸<br>۲۵ | پوربکھاڑ | ۱۵<br>۴۹ | شو | ۱۰<br>۱۱ | مکر | ۲۱<br>۱۶ | | | ۳۱<br>۵۵ | ۵<br>۳۷ | ۶<br>۲۳ | ◐ | [illegible] |
| بدھوار | ۱۵ | ۲۲ | ۲۶ | ۹ | ۴ | اشٹمی | ۶<br>۲۲ | اتراکھاڑ | ۱۴<br>۵۰ | سدھ<br>سادھ | [illegible] | | | | | ۳۲<br>۰۰ | ۵<br>۳۶ | ۶<br>۲۴ | | بدھ مغرب میں طلوع ۵۹-۲۵ |
| ویروار | ۱۶ | ۲۳ | ۲۷ | ۱۰ | ۵ | نومی | [illegible] | شرون | ۱۳<br>۱۹ | شبھ | ۴۳<br>۴۷ | کنبھ | ۴۲<br>۰۰ | ۳۰<br>۴۸ | ۴۸<br>۳۷ | ۳۲<br>۵ | ۵<br>۳۵ | ۶<br>۲۵ | | پنچک شروع ۴۲-۰۰ |
| شکروار | ۱۷ | ۲۴ | ۲۸ | ۱۱ | ۶ | ایکادشی | ۵۳<br>۳۸ | دھنشٹھا | ۱۰<br>۳۱ | شکل | ۳۴<br>۵۰ | | | | | ۳۲<br>۱۰ | ۵<br>۳۴ | ۶<br>۲۶ | | بروتھنی ایکادشی |
| سنیچروار | ۱۸ | ۲۵ | ۲۹ | ۱۲ | ۷ | دوادشی | ۴۸<br>۱۱ | شتبھکھا | ۲۵<br>۳ | برہم | ۲۹<br>۲۳ | مین | ۵۱<br>۱۱ | | | ۳۲<br>۱۵ | ۵<br>۳۳ | ۶<br>۲۷ | | منگل مغرب میں غروب ۳۸-۳۳ |
| اتوار | ۱۹ | ۲۶ | ۳۰ | ۱۳ | ۸ | ترودشی | ۴۲<br>۸ | [illegible] | [illegible] | اندر | ۳۲<br>۱۱ | | | | ۴۳<br>۸ | ۳۲<br>۲۰ | ۵<br>۳۲ | ۶<br>۲۸ | | |
| سوموار | ۲۰ | ۲۷ | ۳۱ | ۱۴ | ۹ | چتردشی | ۳۶<br>۹ | ریوتی | ۵۵<br>۲۳ | بیدھرت | ۲۴<br>۲۹ | میکھ | ۵۵<br>۲۳ | ۹<br>۹ | | ۳۲<br>۲۵ | ۵<br>۳۱ | ۶<br>۲۹ | | پنچک ختم ۵۵-۲۳ |
| منگلوار | ۲۱ | ۲۸ | ثور | ۱۵ | ۱۰ | اماوس | ۳۰<br>۱ | اشونی | ۵۱<br>۲۲ | بشکنبھ | ۱۶<br>۵۰ | | | | | ۳۲<br>۳۰ | ۵<br>۳۰ | ۶<br>۳۰ | ● | |
| بدھوار | ۲۲ | ۲۹ | ۲ | ۱۶ | ۱۱ | پڑوا | ۲۳<br>۱۸ | بھرنی | ۴۷<br>۲۱ | پریت | ۹<br>۱۹ | | | | | ۳۲<br>۳۵ | ۵<br>۲۹ | ۶<br>۳۱ | | رویت ہلال مشکوک |
| ویروار | ۲۳ | ۳۰ | ۳ | ۱۷ | ۱۲ | دوج | ۱۰<br>۵۳ | کرتکا | ۴۴<br>۱۲ | [illegible] | [illegible] | برکھ | ۱<br>۴۸ | | | ۳۲<br>۴۰ | ۵<br>۲۸ | ۶<br>۳۲ | ☽ | چاند نظر آئیگا |
| شکروار | ۲۴ | صفر | ۴ | ۱۸ | ۱۳ | ترتیج | ۱۳<br>۱۶ | روہنی | ۴۱<br>۵۴ | شوبھن | ۴۹<br>۲۰ | | | ۳۴<br>۲۲ | | ۳۲<br>۴۴ | ۵<br>۲۷ | ۶<br>۳۳ | | ۱ اکھے ترتیج پرشرام جینتی |
| سنیچروار | ۲۵ | ۲ | ۵ | ۱۹ | ۱۴ | چوتھ | ۱۰<br>۳۷ | مرگشر | ۴۰<br>۴۳ | اتیگنڈ | ۴۳<br>۱ | متھن | ۱۱<br>۸ | | ۱۰<br>۲۷ | ۳۲<br>۴۸ | ۵<br>۲۶ | ۶<br>۳۴ | | |
| اتوار | ۲۶ | ۳ | ۶ | ۲۰ | ۱۵ | پنچمی | ۷<br>۳۰ | اردرا | ۳۹<br>۵۴ | سکرما | ۳۹<br>۳۰ | | | | | ۳۲<br>۵۲ | ۵<br>۲۵ | ۶<br>۳۵ | | |
| سوموار | ۲۷ | ۴ | ۷ | ۲۱ | ۱۶ | چھٹ | ۵<br>۳۰ | پنربس | ۴۰<br>۴۹ | دھرت | ۳۵<br>۵۶ | کرک | ۲۵<br>۹ | | | ۳۲<br>۵۶ | ۵<br>۲۵ | ۶<br>۳۵ | | بدھ برکھ میں ۲۰-۵۷ پر آیا |
| منگلوار | ۲۸ | ۵ | ۸ | ۲۲ | ۱۷ | ستمی | ۵<br>۳ | پکھ | ۴۳<br>۳۶ | شول | ۳۳<br>۴۳ | | | ۵<br>۳ | ۳۵<br>۳۴ | ۳۳<br>۰۰ | ۵<br>۲۴ | ۶<br>۳۶ | ◑ | شکر برکھ میں ۴۰-۱۲ پر آیا |
| بدھوار | ۲۹ | ۶ | ۹ | ۲۳ | ۱۸ | اشٹمی | ۵<br>۴۳ | اشلیکھا | ۴۶<br>۵۶ | گنڈ | ۳۱<br>۵۲ | سنگھ | ۴۶<br>۵۶ | | | ۳۳<br>۴ | ۵<br>۲۳ | ۶<br>۳۷ | | |
| ویروار | ۳۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۴ | ۱۹ | نومی | ۷<br>۵۳ | مگھا | ۵۰<br>۲۱ | بردھ | ۳۱<br>۱۷ | | | | | ۳۳<br>۸ | ۵<br>۲۲ | ۶<br>۳۸ | | |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۷۔ اپریل کو بارش ہوئی۔ تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے۔ اگر اس روز ہوا سخت چلی۔ تو بارش کی قلت ہو۔ اگر ۹۔ اپریل کو بادل ہوئے۔ تو ماہ بھادوں میں بارش کی قلت ہوگی۔ اگر ۱۰۔ اپریل کو بادل ہوئے۔ تو ارزانی غلہ کی دلیل ہے۔ اگر ۱۳ سے ۱۴ اپریل تک برابر بادل رہے اور بجلی چمکی۔ تو امسال غلہ ارزاں ہوگا۔ اگر ۱۵۔ اپریل کو بادل ہو اور بارش ہو جاوے تو فصل کی پیداوار اچھی ہو۔ اگر ۲۰۔ اپریل کو بارش پڑی تو آئندہ نرخ غلہ گراں ہو جاوے۔ اگر ۲۲۔ اپریل کو بادل ہوئے۔ تو فصل کے لئے ناقص علامت ہے۔ اگر ۲۴۔ اپریل کو بادل ہوئے تو لوگ بیماری سے تنگ ہوں گے۔ اگر ۲۶۔ اپریل کو بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں میں غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۳۰۔ اپریل کو مطلع صاف رہے۔ تو آئندہ بارش کم ہوگی۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت ایکے مطابق ۳۰ گھڑی ۵۲ پل ۳۱



پن کال سنکرانت سے اگلے روز دوپہر تک

## پیشنگوئی بابت ماہ بیساکھ

ابتدا سے ۱۲-اپریل لغایت ۱۲ مئی

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار مولا نچھتر میں پرویش کریگی - چونکہ ۳۰ مہورتی ہے - اور سندری تیج کو رد ہی نچھتر ہے اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ قدرے ارزانی پر رہیگا - اناج خورد مونگ موٹھ - جوار - باجرہ - مکی کا نرخ کم و بیش ہوتا رہیگا - دودھ - دہی - چاول - گھی کا نرخ ارزاں ہو - روئی - کپاس - گوڑ شکر - تیل کا نرخ گرانی پر چلا جائے - سرسوں - توریہ - تارا میرا - السی - ارنڈی وغیرہ کا نرخ ایک حال پر نہ رہے - سفید رنگ کا کپڑا ارزاں اور رنگدار گراں ہو - شہد - لال مرچ - لاکھ - مسور - چندن سرخ کا نرخ بھی تیزی پر رہیگا - سونا کا بھاؤ اوسط پر - تانبہ گراں - چاندی - قلعی - کانسی وغیرہ کا بھاؤ سم رہے - لکڑی - کوئلہ - چارہ - کوڑی کا نرخ ارزاں ہو -

موسم - منگل غروب اور برہسپت وکری رہیگا اس لئے لوگ بیماری سے تکلیف پاویں گے - ملک کے بہت حصوں میں وبائی امراض نمودار ہوں - چوپائے جانوروں کی موت زیادہ ہو - بیماری لوگوں کو نقصان اور عورتوں کی موت زیادہ ہو -

## کرۂ فلک

چونکہ سورج منگل ایک راشی پر رہینگے - اس لئے گرمی زیادہ رہیگی - آسمان ابر محیط اور ہوا چلیگی ۱۲ لغایت ۱۵ اپریل ہوا تیز آسمان پر بادل خفیف بارش - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - اپریل کو آسمان ابر محیط - ہوا تیز چلے - ۲۶ لغایت ۳۰ اپریل بادل و آندھی اور بارش ہو - ۴ و ۵ و ۶ مئی کو بادل کی گرج - چمک - ہوا تیز اور بعض بعض جگہ بارش ہو - ۹ - ۱۰ مئی کو ہوا تیز چلیگی -

اپریل ۱۹۳۶ء

| | |
|---|---|
| ۱ | برہسپت وکری کے (۳) ۵۹-۵۹ |
| ۲ | سورج ریوتی کے (۲) ۲۲-۰۰ [illegible] ریوتی کے (۱) ۱۳-۳۰ |
| ۳ | |
| ۴ | بدھ ریوتی کے (۲) ۰۰-۳۲ شکر پورا اشادھا کے (۳) ۲۲-۳۹ |
| ۵ | بدھ ریوتی کے (۳) ۴۷-۳۱ |
| ۶ | سورج ریوتی کے (۳) ۰۷-۴۹ |
| ۷ | [illegible] |
| ۸ | بدھ اشونی کے (۱) ۳۳-۲۵ |
| ۹ | سورج ریوتی کے (۴) ۳۱-۰۸ شکر پورا اشادھا کے (۴) ۴۳-۳۵ |
| ۱۰ | |
| ۱۱ | منگل بھرنی کے (۱) ۲۹-۲۴ بدھ اشونی کے (۲) ۰۳-۲۷ |
| ۱۲ | سورج اشونی کے (۱) ۵۶-۳۱ شکر اترا اشادھا کے (۱) ۴۹-۱۰ |
| ۱۳ | بدھ اشونی کے (۳) ۰۰-۱۲ |
| ۱۴ | بدھ اشونی کے (۴) ۵۳-۲۵ |
| ۱۵ | سورج اشونی کے (۲) ۵۰-۴۳ شکر اترا اشادھا کے (۲) [illegible] |
| ۱۶ | منگل بھرنی کے (۲) ۱۱-۵۰ بدھ بھرنی کے (۱) [illegible] |
| ۱۷ | [illegible] (۱) ۵۲-۲۲ |
| ۱۸ | بدھ بھرنی کے (۲) ۳۸-۴ شکر [illegible] کے (۱) ۱۳-۵۲ |
| ۱۹ | سورج اشونی کے (۳) ۴۲-۲۷ |
| ۲۰ | منگل بھرنی کے (۳) ۵۸-[illegible] |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | سورج اشونی کے (۴) ۵۴-۴۴ بدھ بھرنی کے (۴) [illegible] |
| ۲۳ | شکر [illegible] کے (۳) ۱۰-۱۹ |
| ۲۴ | بدھ کرتکا کے (۱) ۵۱-۱۷ |
| ۲۵ | منگل بھرنی کے (۴) [illegible] |
| ۲۶ | سورج بھرنی کے (۱) ۳۸-۵۹ |
| ۲۷ | بدھ کرتکا کے (۲) ۲۰-۵۲ |
| ۲۸ | شکر [illegible] کے (۱) ۲۰-۱۳ |
| ۲۹ | بدھ کرتکا کے (۳) ۵۱-۱۲ |
| ۳۰ | سورج بھرنی کے (۲) ۰۵-۰۹ [illegible] |



تقویم سیارگان

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | تہواروں طلوع و غروب سیارگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شکروار | ۱ | ۸ | ۱۱ | ۲۵ | ۲۰ | |
| سنیچروار | ۲ | ۹ | ۱۲ | ۲۶ | ۲۱ | موہنی ایکادشی |
| اتوار | ۳ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۷ | ۲۲ | |
| سوموار | ۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۲۸ | ۲۳ | منگل برکھ میں ۲۹-۷ پر آیا۔ |
| منگلوار | ۵ | ۱۲ | ۱۵ | ۲۹ | ۲۴ | میلہ نرسنگھ جی |
| بدھوار | ۶ | ۱۳ | ۱۶ | ۳۰ | ۲۵ | میلہ بدو کی گسائیاں پرنماشی برت |
| ویروار | ۷ | ۱۴ | ۱۷ | [illegible] | ۲۶ | قمر در عقرب ۱۰-۳۰ |
| شکروار | ۸ | ۱۵ | ۱۸ | ۲ | ۲۷ | |
| سنیچروار | ۹ | ۱۶ | ۱۹ | ۳ | ۲۸ | |
| اتوار | ۱۰ | ۱۷ | ۲۰ | ۴ | ۲۹ | گنیش چوتھ۔ میلہ چھاپر |
| سوموار | ۱۱ | ۱۸ | ۲۱ | ۵ | ۳۰ | |
| منگلوار | ۱۲ | ۱۹ | ۲۲ | ۶ | ۳۱ | |
| بدھوار | ۱۳ | ۲۰ | ۲۳ | ۷ | [illegible] | سورج برکھ میں ۵۳-۳۳ چلم |
| ویروار | ۱۴ | ۲۱ | ۲۴ | ۸ | ۲ | پنچک شروع ۲-۵۰ |
| شکروار | ۱۵ | ۲۲ | ۲۵ | ۹ | ۳ | |
| سنیچروار | ۱۶ | ۲۳ | ۲۶ | ۱۰ | ۴ | |
| اتوار | ۱۷ | ۲۴ | ۲۷ | ۱۱ | ۵ | شکر مشرق میں غروب ہوا ۵۱-۲۲<br>[illegible] ایکادشی |
| سوموار | ۱۸ | ۲۵ | ۲۸ | ۱۲ | ۶ | پنچک ختم [illegible] بدھ بکری ۱۰-۲۱ |
| منگلوار | ۱۹ | ۲۶ | ۲۹ | ۱۳ | ۷ | |
| بدھوار | ۲۰ | ۲۷ | ۳۰ | ۱۴ | ۸ | [illegible] |
| ویروار | ۲۱ | ۲۸ | ۳۱ | ۱۵ | ۹ | بدھ مغرب میں غروب ۹-۴۵ |
| شکروار | ۲۲ | ۲۹ | [illegible] | ۱۶ | ۱۰ | چاند نظر آئیگا |
| سنیچروار | ۲۳ | [illegible] | ۲ | ۱۷ | ۱۱ | شکر برکھ میں ۲-۲۳ پر آیا |
| اتوار | ۲۴ | ۲ | ۳ | ۱۸ | ۱۲ | میلہ جوڑ میل۔ ایمپائر ڈے |
| سوموار | ۲۵ | ۳ | ۴ | ۱۹ | ۱۳ | |
| منگلوار | ۲۶ | ۴ | ۵ | ۲۰ | ۱۴ | |
| بدھوار | ۲۷ | ۵ | ۶ | ۲۱ | ۱۵ | |
| ویروار | ۲۸ | ۶ | ۷ | ۲۲ | ۱۶ | |
| شکروار | ۲۹ | ۷ | ۸ | ۲۳ | ۱۷ | |
| سنیچروار | ۳۰ | ۸ | ۹ | ۲۴ | ۱۸ | برہسپت بکری برچھک میں ۱۹-۳۲ گنگا دسمی |
| اتوار | ۳۱ | ۹ | ۱۰ | ۲۵ | ۱۹ | نرجلا ایکادشی |



## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ مئی کو بادل رہا تو آئندہ بارش کی قلت ہو۔ اگر ۲ و ۳ مئی کو بارش ہوئی۔ تو قحط کی علامت ہے۔ اگر ۴ مئی کو آسمان ابر محیط رہا۔ تو جنس گرانی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ۵ مئی کو بادل گرجا۔ اور بجلی چمکی۔ تو فصل کے لئے مفید ہے۔ اگر ۹ مئی کو دوپہر کے بعد بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں تک غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۱۴ مئی کو بارش ہوئی۔ تو بھادوں میں بارش اچھی ہو۔ اگر ۲۰ مئی کو آسمان ابر محیط رہے۔ تو آئندہ بارش کی قلت ہو۔ اگر ۲۲ مئی کو بادل گرجے تو بارش جلد آوے گی۔ اگر ۲۵ مئی کو بارش ہو۔ تو غلہ کا نرخ ارزاں ہو جائے۔ اگر ۲۸ مئی سے ۳۱ تک ۴ روز برابر تیز دھوپ کی ہوا چلی۔ تو ساون میں بارش خوب ہوگی۔

# [illegible] سیارگان جنتری

ماہ مئی سنہ ۱۹۳۶ء

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | شکر اشنی کے (۲) ۳۳ - ۱۰ |
| ۲ | بدھ کرتکا کے (۲) ۳ - ۲۸ |
| ۳ | سورج بھرنی کے (۳) ۳۱ - ۱۴ |
| ۴ | منگل کرتکا کے (۲) ۷۶ - ۲۹ بدھ روہنی کے [illegible] شکر اشنی کے (۳) [illegible] - ۳۸ |
| ۵ | |
| ۶ | سورج بھرنی کے (۴) ۸ - ۱۹ شکر اشنی کے (۴) ۵۳ - ۱۱ |
| ۷ | بدھ روہنی کے (۲) ۵۲ - ۴۳ |
| ۸ | راہ مولا کے (۴) کیتو آردرا (۲) ۳۰ / ۳۶ |
| ۹ | منگل کرتکا کے (۳) ۲۱ - ۴۳ شکر بھرنی کے (۱) ۲۰ - ۵۹ |
| ۱۰ | سورج کرتکا کے (۱) ۳۵ - ۸ |
| ۱۱ | |
| ۱۲ | شکر بھرنی کے (۲) ۱۲ - ۱۰ |
| ۱۳ | سورج کرتکا کے (۲) ۵۲ - ۴۳ بدھ روہنی کے (۳) ۴۲ - ۴۷ |
| ۱۴ | منگل کرتکا کے (۴) ۵ - ۱۳ شکر بھرنی کے (۳) ۵۶ - ۱۰ |
| ۱۵ | |
| ۱۶ | |
| ۱۷ | سورج کرتکا کے (۳) ۲۲ - ۵ شکر بھرنی کے (۴) ۳۴ - ۵۶ |
| ۱۸ | منگل روہنی کے (۱) ۵۳ - ۵۹ |
| ۱۹ | |
| ۲۰ | سورج کرتکا کے (۴) ۵۰ - ۴۸ شکر کرتکا کے (۱) ۲۰ - ۵ |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | |
| ۲۳ | منگل روہنی کے (۲) ۲۶ - ۴۱ شکر کرتکا کے (۲) ۲ - ۲۳ |
| ۲۴ | سورج روہنی کے (۱) ۱۹ - ۳۰ بدھ [illegible] کے (۳) ۰۰ - ۱۵ |
| ۲۵ | شکر کرتکا کے (۳) ۴۶ - ۴۰ |
| ۲۶ | بدھ روہنی کے (۲) ۵۳ - ۲۱ |
| ۲۷ | سورج روہنی کے (۲) ۳۸ - ۵۵ |
| ۲۸ | منگل روہنی کے (۳) ۱۲ - ۲ شکر کرتکا کے (۴) ۳۳ - ۱۲ |
| ۲۹ | |
| ۳۰ | برہسپت جیشٹا کے (۴) ۲۹ - ۴۰ |
| ۳۱ | سورج روہنی کے (۳) ۱۸ - ۲۹ [illegible] منگل روہنی کے (۴) ۲۹ - ۲ شکر روہنی کے (۱) ۱۹ - [illegible] |



کنڈلی ساکھ سدی پورنماشی ۶ مئی بوقت [illegible]

کنڈلی جیٹھ بدی اشٹمی ۱۳ مئی بوقت [illegible]

کنڈلی جیٹھ بدی اماوس [illegible] مئی بوقت [illegible]

کنڈلی جیٹھ سدی اشٹمی ۲۸ مئی بوقت [illegible]

تحویل آفتاب در برج جوزا [illegible]

## تقویم سیارگان

| | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہ | کیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در راسی | برکھ | برکھ | برکھ | دھن | مین | کنبھ | دھن | متھن |
| انش | ۲۳ | ۱ | ۱۲ | ۲ | ۹ | ۲۵ | ۱۳ | ۱۳ |
| کلا | ۸ | ۲۲ | ۱۰ | ۳۸ | ۵۰ | ۱۳ | ۲۲ | ۲۳ |
| بکلا | ۴۳ | ۴ | ۴۸ | ۳۹ | ۵۳ | ۳۰ | ۲۵ | ۴۵ |
| حرکت | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| مارگی و وکری | م | م | م | ب | م | م | ب | ب |
| صورت برج | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

### استعمال و پرہیز

استعمال - صبح کو نہانا - ترش اشیاء کھانا - دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سونا صحت کیلئے مفید ہے

پرہیز - باسی غذا کھانا - غذا کے بعد ہی پانی پینا - برف زیادہ استعمال کرنا - بازار کے شربت پینا صحت کے لئے مضر ہے

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت برکھ کی ۳۰ بوقت ۵۳ - ۴۳



[illegible] کال - دوسرے روز صبح سے دوپہر تک

## پیشینگوئی بابت ماہ جیٹھ

ابتدائے ۱۳ مئی لغایت ۱۳ جون

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار دھنشٹا نچھتر میں پرویش ہوتی ہے۔ چونکہ ۳ مہورتی ہے۔ اور پانچویں نچھتر میں پرویش ہوتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں گذشتہ ماہ سے قدرے گرانی کی تاثیر رکھیگی۔ اناج خورد جوار باجرہ۔ مکی۔ وغیرہ کے نرخ میں کمی بیشی ہوتی رہیگی دودھ۔ دہی۔ گھی کا نرخ گراں رہیگا۔ روئی کپاس۔ سن۔ سوت۔ سوتی کپڑا اشیاء نرم تیزی پر رہیگا۔ ریشمی۔ اونی کپڑا ارزاں رہیگا۔ تیل تیل۔ السی۔ سرسوں۔ تارا میرا۔ توریہ کا بھاؤ گراں ہو۔ اشیاء سرخ رنگ تانبہ اور اس کی ساخت اشیاء لاکھ۔ مجیٹھ۔ چندن سرخ مرچ سرخ مسور کا بھاؤ تیز۔ پنساری کا سودا مرچ سیاہ۔ دھنیا۔ زیرہ۔ ہلدی املدانہ وغیرہ کا بھاؤ سم رہے۔ گوڑ شکر شہد کے بھاؤ گراں رہے۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ بھوسہ۔ توڑی۔ گھاس کا نرخ ارزاں رہیگا۔ موسم۔ سورج و منگل کا قران ہے۔ اس لئے گرم ہوا زیادہ چلے۔ لو لگنے سے اموات بکثرت ہوں۔ بخار کی وجہ سے بھی لوگ تنگ ہوں۔ چوپائے جانوروں میں روگ بڑھے۔ پھل۔ پھول اچھے ہوں۔ لوگوں کے خیالات عیاشی کی طرف مائل اور بردہ فروشی و اغوا کی وارداتیں کثرت سے ہو۔

### کرۂ فلک

آسمان گرد آلود رہیگا۔ گرمی زیادہ پڑیگی۔ آندھی اور گرد و غبار بکثرت اڑیگا۔ ۱۴ و ۱۵ مئی کو ہوا تیز۔ ۱۷ اور ۱۸ مئی کو گرج چمک ہوا تیز اور بارش ہو۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳ مئی کو آسمان ابر محیط اور آندھی آئے۔ ۲۸۔ ۳۰۔ ۳۱ مئی کو ہوا تیز گرم چلے۔ یکم لغایت ۷ جون بادل آسمان پر چھائے رہیں۔ ۸۔ ۹۔ ۱۱۔ ۱۲ جون کو بادل [illegible]

### نظر و شرف و ہبوط سیارگان

ماہ مئی

۳ مئی کو مریخ در برج ثور وبال میں داخل۔

۷ مئی کو قمر در برج عقرب ہبوط میں داخل۔

۸ ؍؍ زحل بر شمس نظر تسدیس۔

۱۷ ؍؍ زہرہ مشرق میں غروب

۱۸ ؍؍ عطارد رجعت میں شروع

۲۰ ؍؍ قمر در برج ثور شرف میں داخل

۲۰ ؍؍ زحل بر زہرہ نظر تسدیس۔

۲۱ ؍؍ عطارد مغرب میں غروب

۲۷ ؍؍ شمس و عطارد کا برج ثور میں قران۔

[illegible] ۱۸۰۲ ۱۸ [illegible] ۶ مطابق سمت بکرم ۱۹۹۶

| بار | تاریخ جون | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | تتھی | گھڑی پل | نچھتر | گھڑی پل | یوگ | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | ابتدا | انتہا | گھڑی پل | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سوموار | ۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۶ | ۲۰ | دوادشی | ۶۰<br>۰۰ | چترا | ۳۳<br>۲۹ | وریان | ۴۷<br>۵۲ | تلا | ۰۰<br>۱۳ | | | ۳۲<br>۵۱ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | |
| منگلوار | ۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۷ | ۲۱ | دوادشی | ۰۰<br>۳۶ | سواتی | ۳۹<br>۴۲ | پریگھ | ۵۹<br>۲۳ | | | | | ۳۳<br>۵۲ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | |
| بدھوار | ۳ | ۱۲ | ۱۳ | ۲۸ | ۲۲ | تیودشی | ۵<br>۹ | وشاکھا | ۳۵<br>۱۵ | شیو | ۶۰<br>۰۰ | برچھک | ۲۸<br>۵۲ | | | ۳۱<br>۵۵ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | | یادوفات سالگرہ شہنشاہ ہند<br>گرودو تقریب ۲۸ - ۵۲ |
| ویروار | ۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۲۹ | ۲۳ | چتردشی | ۸<br>۵۲ | انرادھا | ۴۹<br>۱۵ | شیو<br>سدھ | ۳ - ۰۰<br>۳ - ۵۹ | | | ۸<br>۵۴ | ۳۰<br>۹ | ۳۴<br>۵۷ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | ○ | پورنماشی برت |
| شکروار | ۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۴ | پورنماشی | ۱۱<br>۲۲ | جیشٹھا | ۵۳<br>۱۹ | سادھ | ۵۸<br>۳۲ | دھن | ۵۳<br>۱۹ | | | ۳۴<br>۵۸ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | | بدھ مشرق میں طلوع ۵۸ - ۵۸ |
| سنیچروار | ۶ | ۱۵ | ۱۶ | ہاڑ | ۲۵ | پڑوا | ۱۳<br>۳۳ | مولا | ۵۳<br>۳۳ | شبھ | ۵۲<br>۲۷ | | | | | ۳۵<br>۰۰ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | |
| اتوار | ۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۲ | ۲۶ | دوج | ۱۳<br>۳۸ | پورباکھاڑ | ۵۶<br>۳۳ | شکل | ۵۳<br>۱۶ | | | ۴۲<br>۱۲ | | ۳۵<br>۲ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | |
| سوموار | ۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۳ | ۲۷ | تیج | ۱۱<br>۳۵ | اتراکھاڑ | ۵۶<br>۵ | برہم | ۴۹<br>۳۸ | کرک | ۱۱<br>۱۸ | | ۱۱<br>۳۵ | ۳۵<br>۳ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | بدھ رنگی ۲۰ گنیش چوتھ |
| منگلوار | ۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۴ | ۲۸ | چوتھ | ۹<br>۱۲ | شرون | ۵۳<br>۳۹ | ایندر | ۴۵<br>۵ | | | | | ۳۵<br>۳ | ۴<br>۵۹ | ۷<br>۱ | | |
| بدھوار | ۱۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۵ | ۲۹ | پنچمی | ۵<br>۳۱ | دھنشٹا | ۵۳<br>۵۵ | ویدھرت | ۳۹<br>۱۷ | کنبھ | ۲۳<br>۱۷ | | | ۳۵<br>۶ | ۴<br>۵۹ | ۷<br>۱ | | پنچک شروع ۲۲ - ۱۸ |
| ویروار | ۱۱ | ۲۰ | ۲۱ | ۶ | ۳۰ | [illegible] | ۲۳۰<br>۸ - ۵۹ | شت بھکا | ۴۹<br>۲۳ | وشکمبھ | ۳۳<br>۵۱ | | | ۱<br>۲۳ | ۳۸<br>۲۶ | ۳۵<br>۸ | ۴<br>۵۹ | ۷<br>۱ | | |
| شکروار | ۱۲ | ۲۱ | ۲۲ | ۷ | ۳۱ | ستمی | ۵۰<br>۳۳ | پورباکھاڈرپد | ۴۴<br>۵۱ | پریت | ۲۵<br>۵۴ | مین | ۳۰<br>۵۹ | | | ۳۵<br>۱۰ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | ◒ | |
| سنیچروار | ۱۳ | ۲۲ | ۲۳ | ۸ | ۳۲ | نومی | ۴۴<br>۳۴ | اترابھادرپد | ۴۱<br>۳۸ | آیوشمان | ۱۴<br>۲۸ | | | | | ۳۵<br>۱۱ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | |
| اتوار | ۱۴ | ۲۳ | ۲۴ | ۹ | ہاڑ | دسمی | ۳۸<br>۱۵ | ریوتی | ۳۶<br>۳۹ | سوبھاگ | ۹<br>۵۴ | میکھ | ۳۴<br>۳۶ | ۱۱<br>۲۶ | ۳۸<br>۱۵ | ۳۵<br>۱۲ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | سورج متھن میں ۱۹ - ۳۸<br>پنچک ختم ۳۷ - ۳۶ |
| سوموار | ۱۵ | ۲۴ | ۲۵ | ۱۰ | ۲ | ایکادشی | ۳۲<br>۲۱ | اشونی | ۳۳<br>۲۹ | شوبھن<br>اتی گنڈ | ۱۵۰۳<br>[illegible] | | | | | ۳۵<br>۱۳ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۳ | | یوگنی ایکادشی |
| منگلوار | ۱۶ | ۲۵ | ۲۶ | ۱۱ | ۳ | دوادشی | ۲۹<br>۲۱ | بھرنی | ۲۹<br>۳۶ | سوکرما | ۴۸<br>۳۱ | برکھ | ۳۳<br>۲۴ | | | ۳۵<br>۱۴ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۳ | | منگل متھن میں ۲۸ - ۱۳ پر |
| بدھوار | ۱۷ | ۲۶ | ۲۷ | ۱۲ | ۴ | پردوشی | ۳۰<br>۴۲ | کرتکا | ۲۶<br>۹ | دھرت | ۳۱<br>۳۸ | | | ۲۰<br>۴۳ | ۳۸<br>۱۷ | ۳۵<br>۱۵ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | شکر متھن میں ۳۲ - ۲ پر آیا |
| ویروار | ۱۸ | ۲۷ | ۲۸ | ۱۳ | ۵ | چودش | ۱۵<br>۵۲ | روہنی | ۲۳<br>۲۰ | شول | ۳۵<br>۳۲ | متھن | ۵۲<br>۲۷ | | | ۳۵<br>۱۶ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | ● | |
| شکروار | ۱۹ | ۲۸ | ۲۹ | ۱۴ | ۶ | اماوس | ۱۱<br>۳۴ | مرگشر | ۲۲<br>۱۳ | گنڈ | ۲۹<br>۴۷ | | | | | ۳۵<br>۱۷ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | سورج گرہن - ہریالی اماوش |
| سنیچروار | ۲۰ | ۲۹ | ۳۰ | ۱۵ | ۷ | [illegible] | ۸<br>۴۴ | آردرا | ۲۰<br>۲۱ | بردھ | ۲۵<br>۲ | | | | | ۳۵<br>۱۸ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | ☽ | چاند نظر آئیگا - رتھ یاترا |
| اتوار | ۲۱ | [illegible] | ۳۱ | ۱۶ | ۸ | دوج | ۶<br>۴۰ | پنربس | ۲۰<br>۳۰ | دھرو | ۲۱<br>۱۰ | کرک | ۵<br>۲۱ | | | ۳۵<br>۱۹ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۳ | | |
| سوموار | ۲۲ | ۲ | [illegible] | ۱۷ | ۹ | تیج | ۵<br>۵ | پکھ | ۲۱<br>۲۵ | ویاگھات | ۱۸<br>۱۷ | | | ۳۴<br>۴ | | ۳۵<br>۲۰ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | | |
| منگلوار | ۲۳ | ۳ | ۳ | ۱۸ | ۱۰ | چوتھ | ۶<br>۱۷ | آشلیکھا | ۳۳<br>۲۳ | ہرکھن | ۱۶<br>۲۵ | سنگھ | ۲۳<br>۲۲ | | ۶<br>۱۷ | ۳۵<br>۱۹ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | | |
| بدھوار | ۲۴ | ۴ | ۳ | ۱۹ | ۱۱ | پنچمی | ۸<br>۳ | مگھا | ۲۸<br>۱۰ | بجر | ۱۵<br>۳۵ | | | | | ۳۵<br>۱۸ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | | |
| ویروار | ۲۵ | ۵ | ۴ | ۲۰ | ۱۲ | چھٹ | ۱۱<br>۱ | پوروا پھالگنی | ۳۳<br>۱۰ | سدھی | ۱۳<br>۵۳ | کنیا | ۵۲<br>۳۳ | | | ۳۵<br>۱۷ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | | |
| شکروار | ۲۶ | ۶ | ۵ | ۲۱ | ۱۳ | ستمی | ۱۳<br>۵۳ | اترا پھالگنی | ۳۸<br>۵۳ | ویتی پات | ۱۶<br>۲۷ | | | ۱۳<br>۵۳ | ۳۷<br>۱۷ | ۳۵<br>۱۶ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | ◓ | |
| سنیچروار | ۲۷ | ۷ | ۶ | ۲۲ | ۱۴ | اشٹمی | ۱۹<br>۴ | ہست | ۳۵<br>۱۵ | وریان | ۱۵<br>۲۷ | | | | | ۳۵<br>۱۵ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | |
| اتوار | ۲۸ | ۸ | ۷ | ۲۳ | ۱۵ | نومی | ۲۲<br>۳۸ | چترا | ۵۱<br>۵۱ | پریگھ | ۱۸<br>۲۹ | تلا | ۱۸<br>۳۳ | | | ۳۵<br>۱۴ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | |
| سوموار | ۲۹ | ۹ | ۸ | ۲۴ | ۱۶ | دسمی | ۲۹<br>۲۹ | سواتی | ۵۸<br>۱۱ | شیو | ۳۰<br>۵ | | | | | ۳۵<br>۱۲ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | |
| منگلوار | ۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۲۵ | ۱۷ | ایکادشی | ۳۲<br>۴۷ | وشاکھا | ۶۰<br>۰۰ | سدھ | ۳۱<br>۳۱ | برچھک | ۳۳<br>۲ | ۱<br>۵۸ | ۳۴<br>۴ | ۳۵<br>۱۲ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۳ | | [illegible] |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۴ جون کو بارش ہوئی تو بھادوں میں بارش خوب ہوگی۔ اگر ۵ جون کو آسمان ابر غبیط رہا۔ اور تیسرے پہر کی ہوا چلتی رہی۔ تو ساون اور بھادوں بارش سے خالی جاویں گے۔ اگر ۹ جون کو سورج بادلوں میں ڈھکا ہے۔ تو تین ماہ تک بارش نہ ہوگی۔ اگر ۱۲ جون کو رات کے وقت بادل رہے۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو جائے۔ اگر ۱۳ جون کو آسمان ابر غبیط رہا۔ تو غلہ کا نرخ بہت جلد ارزاں ہو جاویگا۔ اگر ۱۹ جون کو صبح کے وقت بادل دوپہر کو آسمان صاف اور شام کو بارش ہو جاوے تو پھر بارش بلد ہونے کی علامت ہے۔ اگر ۲۰ جون سے ۲۲ جون تک برابر بارش ہو تو آئندہ بارش خوب ہو۔ اگر ۲۳ جون کو بارش ہوئی۔ تو آئندہ بارش کی طرف سے خشک جواب جانو۔ اگر ۲۴ جون کو بارش کے بعد قوس قزح نظر آئے تو دو ماہ تک میں غلہ سخت گران ہو جائے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت مخمن مثونی ۳۰ بوقت



پن کال - بعد دوپہر شام تک

## پیشینگوئی بابت ماہ ہاڑ

ابتدائے ۱۴ جون لغایت ۱۴ جولائی

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار ریوتی نچھتر میں ہوگی۔ چونکہ سہ چودھی اور پانچواں نچھتر سے اور راشی برو تر سنیچروار ہوا نچھتر میں ہوگی۔ اس لئے اس ماہ میں غلہ گندم و نخود کا نرخ بہ نسبت ماہ گذشتہ گرانی پر رہیگا۔ غلہ خورد۔ جوار۔ باجرہ۔ مکی وغیرہ کا نرخ بدستور ماہ سابقہ ہی رہیگا۔ تو فرق کمی بیشی ہوگی۔ روئی کپاس۔ سن۔ سوت سفید کپڑا۔ چاول۔ نمک۔ گھی۔ دودھ۔ دہی کا نرخ تیز ہو۔ کا۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں وغیرہ کا بھاؤ بدستور ماہ سابقہ رہے۔ ہر قسم کی دھاتیں گراں۔ اشیا سیاہ رنگ مثلاً لوہا۔ کوئلہ وغیرہ کا نرخ بھی اندازاً رہیگا۔ پنساری کا سامان ہر قسم کھانڈ۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ مسور۔ لاکھ۔ چندن وغیرہ کا نرخ تیزی پر۔ موسم۔ سورج۔ منگل۔ بدھ۔ شکر ایک راشی پر رہیں گے۔ اور سنیچر بکری ہے۔ اس لئے لوگ بیماری سے تنگ ہونگے۔ مستورات کو تکلیف زیادہ۔ اسقاط حمل کی وارداتیں بہت ہوں۔ چوپایوں کا ناش ہو۔ چوری۔ ڈاکہ اور آگ لگنے کی وارداتیں کثرت سے ہوں۔ لوگ کھوٹے کرم بہت کریں۔

### کرۂ فلک

چونکہ شکر و بدھ کے درمیان سورج رہیگا۔ اس لئے ہوا تیز بہت چلے بارش کم ہو۔ ماہ جون کی ۱۴-۱۵ تاریخ کو آسمان ابر آلود۔ ہوا تیز۔ ۱۶ و ۱۷-۱۹، ۲۱ جون کو گرج چمک اور بارش ہو۔ ۲۴ و ۲۵ جون کو بادل رہیں۔ ۲۹ و ۳۰ جون کو آسمان پر بادل بجلی کی چمک گرج اور بارش ہو۔ ماہ جولائی کی یکم۔ ۲-۳ و ۵ کو ہوا تیز بادل رہیں۔ ۹ و ۱۰ جولائی کو آسمان ابر آلود رہیگا۔

## فہرست سیارگان نچھتر

جون ۱۹۳۶ء

| جون | |
|---|---|
| ۱ | |
| ۲ | منگل روہنی کے (۴) ۱۱ - ۱۱ شکر روہنی کے (۲) ۵۷ - ۱۰ |
| ۳ | سورج روہنی کے (۱) ۴۸ - ۳ - ۳۲ |
| ۴ | |
| ۵ | بدھ کرتکا کے (۳) ۱۰ - ۰۵ شکر روہنی کے (۳) ۲۱ - ۴۳ |
| ۶ | منگل مرگشر کے (۱) ۴۸ - ۱۳ |
| ۷ | سورج مرگشر کے (۱) ۱۸ - ۴۲ شکر روہنی کے (۴) ۵۳ - ۳۵ |
| ۸ | |
| ۹ | |
| ۱۰ | سورج مرگشر کے (۲) ۳۸ - ۳۹ |
| ۱۱ | منگل مرگشر کے (۲) ۴۴ - ۲۳ شکر مرگشر کے (۱) ۵ - ۵۵ |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | شکر مرگشر کے (۲) ۵۲ - ۲۱ |
| ۱۴ | سورج مرگشر کے (۳) ۱۹ - ۲۸ |
| ۱۵ | بدھ روہنی کے (۱) ۳۳ - ۱۵ |
| ۱۶ | منگل مرگشر کے (۳) ۲۸ - ۱۲ |
| ۱۷ | سورج مرگشر کے (۴) ۵۰ - ۲۱ شکر مرگشر کے (۳) ۴۴ - ۲ |
| ۱۸ | |
| ۱۹ | بدھ روہنی کے (۲) ۲ - ۱۵ شکر مرگشر کے (۴) ۱۱ - ۵۳ |
| ۲۰ | |
| ۲۱ | سورج آردرا کے (۱) ۲۱ - ۱۳ منگل آردرا کے ۵ - ۱۰ |
| ۲۲ | منگل مرگشر کے (۴) ۱۰ - ۴۹ بدھ روہنی کے (۳) ۳ - ۱۶ |
| ۲۳ | |
| ۲۴ | سورج آردرا کے (۲) ۲۴ - ۵ بدھ روہنی کے (۴) ۴۸ - ۲۹ شکر آردرا کے (۲) ۳۳ - ۴۴ |
| ۲۵ | برہسپت جیشٹھ کے (۳) ۱ - ۱۵ |
| ۲۶ | منگل آردرا کے (۱) ۳۸ - ۲۳ |
| ۲۷ | بدھ مرگشر کے (۱) ۰۰ - ۴۷ شکر آردرا کے (۳) ۴۰ - ۱۶ |
| ۲۸ | سورج آردرا کے (۳) ۱۹ - ۳۰ |
| ۲۹ | |
| ۳۰ | بدھ مرگشر کے (۲) ۲۳ - ۰ شکر آردرا کے (۴) ۴ - ۱۵ |



تقویم سیارگان

| ایام | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | گھنٹہ منٹ | گھنٹہ منٹ | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدھوار | ۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۶ | ۱۸ | دوادشی | ۳۷<br>۳۸ | وشاکھا | ۳<br>۵۲ | سادھ | ۲۲<br>۲ | | | | | ۳۵<br>۹ | ۳<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | برہسپت مشرق میں ۲۵-۱۸ پر آیا |
| ویروار | ۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۷ | ۱۹ | ترودشی | ۴۲<br>۱۳ | انرادھا | ۸<br>۳۹ | شبھ | ۲۱<br>۵۹ | | | | | ۳۵<br>۸ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | |
| شکروار | ۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۲۸ | ۲۰ | چتردشی | ۴۱<br>۴۳ | جیسٹھا | ۱۳<br>۳۲ | شکل | ۲۱<br>۳ | دھن | ۱۲<br>۲۲ | ۴۱<br>۴۳ | | ۳۵<br>۶ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | |
| سنیچروار | ۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۲۹ | ۲۱ | پورنماشی | ۴۱<br>۲۸ | مول | ۱۳<br>۴۹ | برہم | ۱۹<br>۳ | | | | ۱۱<br>۴۳ | ۳۵<br>۵ | ۴<br>۵۵ | ۷<br>۱ | ○ | چاند گرہن - بیاس پوجا - [illegible] پورنماشی برت |
| اتوار | ۵ | ۱۵ | ۱۴ | ساون | ۲۲ | ساتکی | ۳۰<br>۳۰ | پوروکھاڑ | ۱۵<br>۵۴ | ایندر | ۱۵<br>۵۳ | مکر | ۳۰<br>۴۴ | | | ۳۵<br>۳ | ۴<br>۵۹ | ۷<br>۱ | | |
| سوموار | ۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۲ | ۲۳ | دوج | ۳۸<br>۱۴ | اتراکھاڑ | ۱۵<br>۵۷ | بیدھرت | ۱۲<br>۳ | | | | | ۳۵<br>۱ | ۵<br>۰ | ۷<br>۰ | | |
| منگلوار | ۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۳ | ۲۴ | تیج | ۳۳<br>۴۴ | شرون | ۱۴<br>۲۲ | وشکنبھ | ۸<br>۱۰ | کنبھ | ۴۳<br>۱ | ۶<br>۳۵ | ۳۳<br>۵۳ | ۳۴<br>۵۹ | ۵<br>۰ | ۷<br>۰ | | پنچک شروع ۴۳-۱ - گنیش چوتھ |
| بدھوار | ۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۴ | ۲۵ | چوتھ | ۳۰<br>۲۸ | دھنشٹا | ۱۱<br>۴۱ | پریت<br>آیوشمان | ۳۰-۱<br>۹-۵۵ | | | | | ۳۴<br>۵۷ | ۵<br>۰ | ۷<br>۰ | | |
| ویروار | ۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۵ | ۲۶ | پنچمی | ۲۵<br>۲۵ | شتبھکھا | ۹<br>۳۷ | سوبھاگ | ۳۸<br>۱۳ | مین | ۵۲<br>۸ | | | ۳۴<br>۵۵ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | | بدھ مشرق میں غروب ۳۲-۵۵ |
| شکروار | ۱۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۶ | ۲۷ | چھٹھ | ۱۹<br>۵ | پوروبھادرپد | ۶<br>۱۵ | شوبھن | ۲۱<br>۵۴ | - | | ۱۹<br>۵۰ | ۳۶<br>۲۵ | ۳۴<br>۵۳ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | | |
| سنیچروار | ۱۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۷ | ۲۸ | سپتمی | ۱۳<br>۴۰ | اترابھادرپد<br>ریوتی | ۱۱-۲<br>۱۱-۵۸ | اتگنڈ | ۳۳<br>۲۲ | میکھ | ۵۸<br>۱۱ | | | ۳۴<br>۵۱ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | ◒ | شکر کرک میں ۱۹-۲۰ پر آیا<br>پنچک ختم ۵۸-۱۱ |
| اتوار | ۱۲ | ۲۲ | ۲۱ | ۸ | ۲۹ | اشٹمی | ۶<br>۴۳ | اشونی | ۴۲<br>۵۰ | سوکرما | ۳۵<br>۴۲ | | | | | ۳۴<br>۵۰ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | |
| سوموار | ۱۳ | ۲۳ | ۲۲ | ۹ | ۳۰ | نومی<br>دسمی | ۳۰-۱<br>۵۸-۵۵ | بھرنی | ۵۹<br>۳ | دھرت | ۱۸<br>۷ | | | ۲۸<br>۴۵ | ۴۵<br>۳۱ | ۳۴<br>۴۸ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | |
| منگلوار | ۱۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۱۰ | ۳۱ | ایکادشی | ۳۹<br>۵۱ | کرتکا | ۴۶<br>۳۳ | شول | ۱۰<br>۴۹ | برکھ | ۱۲<br>۸ | | | ۳۴<br>۴۷ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | کملا ایکادشی |
| بدھوار | ۱۵ | ۲۵ | ۲۴ | ۱۱ | ساون | دوادشی | ۴۳<br>۴۶ | روہنی | ۴۴<br>۳۶ | گنڈ<br>بردھ | ۵-۲۴<br>۱۸-۵۶ | | | | | ۳۴<br>۴۴ | ۵<br>۳ | ۶<br>۵۷ | | سورج کرک میں ۵۷-۵۱ |
| ویروار | ۱۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۱۲ | ۲ | ترودشی | ۴۰<br>۳۱ | مرگشرا | ۴۰<br>۳۰ | دھرو | ۵۱<br>۴۳ | متھن | ۱۱<br>۵۸ | ۴۰<br>۳۱ | | ۳۴<br>۴۲ | ۵<br>۳ | ۶<br>۵۷ | | |
| شکروار | ۱۷ | ۲۷ | ۲۶ | ۱۳ | ۳ | چودس | ۳۷<br>۱۳ | آردرا | ۳۰<br>۲ | ویاگھات | ۴۶<br>۲۷ | | | | ۹<br>۶ | ۳۴<br>۴۰ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۶ | | بدھ کرک میں ۵۹-۲۳ پر آیا |
| سنیچروار | ۱۸ | ۲۸ | ۲۷ | ۱۴ | ۴ | اماوس | ۳۵<br>۲۰ | پنربس | ۳۹<br>۵۰ | ہرکھن | ۴۲<br>۴۴ | کرک | ۲۳<br>۵۵ | | | ۳۴<br>۳۸ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۶ | ● | منوادی اماوش |
| اتوار | ۱۹ | ۲۹ | ۲۸ | ۱۵ | ۵ | ساتکی | ۳۴<br>۲۳ | پکھ | ۴۰<br>۴۹ | بجر | ۴۳<br>۴۴ | | | | | ۳۴<br>۳۶ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۶ | | |
| سوموار | ۲۰ | ۳۰ | ۲۹ | ۱۶ | ۶ | دوج | ۳۳<br>۱ | اشلیکھا | ۴۲<br>۱۴ | سدھی | ۳۹<br>۲۶ | سنگھ | ۴۲<br>۱۴ | | | ۳۴<br>۳۳ | ۵<br>۵ | ۶<br>۵۵ | ☽ | چاند نظر آئیگا |
| منگلوار | ۲۱ | جمادی الاول | ۳۰ | ۱۷ | ۷ | تیج | ۳۶<br>۳۰ | مگھا | ۴۷<br>۴ | ویتپات | ۳۷<br>۳۶ | | | | | ۳۴<br>۳۲ | ۵<br>۵ | ۶<br>۵۵ | | ہریالی تیج |
| بدھوار | ۲۲ | ۲ | ۳۱ | ۱۸ | ۸ | چوتھ | ۳۹<br>۱۳ | پوروپھاگنی | ۵۱<br>۱۸ | بریان | ۳۸<br>۲۴ | | | ۷<br>۴۳ | ۳۹<br>۱۲ | ۳۴<br>۳۰ | ۵<br>۶ | ۶<br>۵۴ | | |
| ویروار | ۲۳ | ۳ | ۳۲ | ۱۹ | ۹ | پنچمی | ۴۲<br>۵۹ | اترپھاگنی | ۵۶<br>۵۴ | پریگھ | ۳۷<br>۵ | کنیا | ۷<br>۴۲ | | | ۳۴<br>۲۸ | ۵<br>۶ | ۶<br>۵۴ | | ناگ پنچمی |
| شکروار | ۲۴ | ۴ | [illegible] | ۲۰ | ۱۰ | چھٹھ | ۴۶<br>۴۵ | ہست | ۶۰<br>۰۰ | شو | ۳۸<br>۱۴ | | | | | ۳۴<br>۲۵ | ۵<br>۷ | ۶<br>۵۳ | | |
| سنیچروار | ۲۵ | ۵ | ۲ | ۲۱ | ۱۱ | سپتمی | ۵۱<br>۳۰ | ہست | ۳<br>۱۱ | سدھ | ۳۹<br>۵۱ | تلا | ۳۶<br>۳۲ | ۵۲<br>۲۰ | | ۳۴<br>۲۲ | ۵<br>۷ | ۶<br>۵۳ | | |
| اتوار | ۲۶ | ۶ | ۳ | ۲۲ | ۱۲ | اشٹمی | ۵۶<br>۴۸ | چترا | ۹<br>۵۲ | سادھ | ۴۲<br>۲ | | | | ۲۵<br>۱۴ | ۳۴<br>۱۹ | ۵<br>۸ | ۶<br>۵۲ | ◓ | میلہ چنت پورنی دیوی |
| سوموار | ۲۷ | ۷ | ۴ | ۲۳ | ۱۳ | نومی | ۶۰<br>۰۰ | سواتی | ۱۶<br>۷ | شبھ | ۴۲<br>۴۷ | | | | | ۳۴<br>۱۷ | ۵<br>۸ | ۶<br>۵۲ | | |
| منگلوار | ۲۸ | ۸ | ۸ | ۲۴ | ۱۴ | نومی | ۲<br>۱۶ | وشاکھا | ۲۱<br>۵۹ | شکل | ۴۳<br>۳۸ | برچھک | ۵<br>۳۱ | | | ۳۴<br>۱۴ | ۵<br>۹ | ۶<br>۵۱ | | قمر در عقرب ۳۱-۵ |
| بدھوار | ۲۹ | ۹ | ۶ | ۲۵ | ۱۵ | دسمی | ۵<br>۵۹ | انرادھا | ۲۷<br>۱ | برہم | ۴۳<br>۴ | | | ۳۷<br>۲۲ | | ۳۴<br>۱۱ | ۵<br>۹ | ۶<br>۵۱ | | شکر مغرب میں طلوع ۵۹-۵۵ |
| ویروار | ۳۰ | ۱۰ | ۷ | ۲۶ | ۱۶ | ایکادشی | ۸<br>۴۵ | جیشٹھا | ۳۰<br>۵۶ | ایندر | ۴۲<br>۵۰ | دھن | ۳۰<br>۵۶ | | ۸<br>۴۵ | ۳۴<br>۸ | ۵<br>۱۰ | ۶<br>۵۰ | | پوترا ایکادشی |
| شکروار | ۳۱ | ۱۱ | ۸ | ۲۷ | ۱۷ | دوادشی | ۱۰<br>۱۶ | مول | ۳۳<br>۴۱ | بیدھرت | ۴۰<br>۵۹ | | | | | ۳۴<br>۴ | ۵<br>۱۱ | ۶<br>۴۹ | | |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۸ جولائی کو مطلع صاف رہا تو اٹھارہ روز کے اندر اندر بارش خوب ہوگی - اگر ۹ جولائی کو بادل نہ گرجا - تو قحط پڑنے کی علامت ہوگی - اگر ۱۱ جولائی کو بوقت غروب آفتاب آسمان پر سرخی ہو - تو بیماری پڑ جاوے - اگر ۱۲ جولائی کو بارش ہوگئی - تو نرخ غلہ جلد گراں ہوجائیگا - اگر ۱۴ جولائی کو بارش ہوگئی - تو فصل کی پیداوار بہت ہوگی - اگر ۲۳-۲۴ جولائی کو دو روز برابر بارش ہوئی - اور دکھن میں بجلی چمکی - تو قحط پڑنے کی علامت جاننا - اگر ۲۶ جولائی کو آسمان ابر محیط رہے - تو بارش بہت جلد کثرت سے ہو -

ماہ جولائی ۱۹۳۶ء

## فہرست سیارگان برج بدلنے

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | سورج آردرا کے (۴) ۵۴ - ۱۹ منگل آردرا کے (۲) ۲۵ - ۳۲ بدھ مرگشر کے (۳) ۲۵ - ۱۸ |
| ۲ | شکر پنربس کے (۱) ۳۸ - ۳۱ |
| ۳ | بدھ مرگشر کے (۴) ۸ - ۴۹ |
| ۴ | |
| ۵ | سورج پنربس کے (۱) ۲۵ - ۹ شکر پنربس کے (۲) ۳۳ - ۱۱ |
| ۶ | منگل آردرا کے (۳) ۳ - ۵۶ |
| ۷ | راہو مولا کے (۳) کیتو آردرا کے (۱) ۱۵/۳۲ |
| ۸ | بدھ آردرا کے (۲) ۵۷ - ۱ شکر پنربس کے (۳) ۴۷ - ۱۳ |
| ۹ | سورج پنربس کے (۲) ۴۷ - ۳ |
| ۱۰ | بدھ آردرا کے (۳) ۵۱ - ۲۶ |
| ۱۱ | منگل آردرا کے (۴) ۸ - ۴۹ بدھ آردرا کے (۴) ۲۲ - ۱ شکر پنربس کے (۴) ۱۹ - ۴۲ |
| ۱۲ | سورج پنربس کے (۳) ۲۶ - ۵۹ بدھ پنربس کے (۱) ۴۶ - ۲ |
| ۱۳ | شکر پکھ کے (۱) ۴۹ - ۴۱ |
| ۱۴ | بدھ پنربس کے (۲) ۴۰ - ۷ |
| ۱۵ | سورج پنربس کے (۴) ۵۷ - ۵۱ |
| ۱۶ | منگل پنربس کے (۱) ۱۲ - ۵۸ بدھ پنربس کے (۳) ۷ - ۳۷ شکر پکھ کے (۲) ۲۱ - ۱۶ |
| ۱۷ | بدھ پنربس کے (۴) ۵۹ - ۲۳ |
| ۱۸ | شکر پکھ کے (۳) ۵ - ۴۷ |
| ۱۹ | سورج پکھ کے (۱) ۳۳ - ۱۹ بدھ پکھ کے (۱) ۲ - ۲۹ |
| ۲۰ | منگل پنربس کے (۲) ۷ - ۲۳ بدھ پکھ کے (۲) ۱۹ - ۵ شکر پکھ کے (۴) ۵۳ - ۳۳ |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | سورج پکھ کے (۲) ۵۹ - ۵۰ بدھ پکھ کے (۳) ۴۷ - ۸ |
| ۲۳ | شکر اشلیکھا کے (۱) ۳۴ - ۵۵ |
| ۲۴ | بدھ پکھ کے (۴) ۳ - ۵۰ برہسپت جیشٹھا کے (۲) [illegible] |
| ۲۵ | منگل پنربس کے (۳) ۱۳ - ۲۰ |
| ۲۶ | سورج پکھ کے (۳) [illegible] بدھ اشلیکھا کے (۱) [illegible] شکر اشلیکھا کے (۲) ۹ - ۴۰ |
| ۲۷ | |
| ۲۸ | بدھ اشلیکھا کے (۲) ۲ - ۲۰ |
| ۲۹ | سورج پکھ کے (۴) ۵۹ - ۵۳ بدھ اشلیکھا کے (۳) [illegible] شکر اشلیکھا کے (۳) ۲ - ۳ |
| ۳۰ | |
| ۳۱ | |

تحویل آفتاب در برج اسد

۲۳ جولائی

## استعمال و پرہیز

استعمال سکنجبین کرنا - گرم پانی سے بچنا - بدن کو ٹھنڈا رکھنا - پھول کھانا - محنت کرنے سے پرہیز - گرم غذا کھانا - زیادہ صحبت کرنا - دریا کے کنارے جانا - جسم کو زرد رکھنا - صحت کے لئے مضر ہے -

## تقویم سیارگان

کنڈلی پارشدی پورنماشی ۴ جولائی بوقت ۷ بجے ۲۳



کنڈلی ساون بدی اشٹمی ۱۱ جولائی بوقت ۷ بجے ۲۵



کنڈلی ساون بدی اماوش ۱۸ جولائی بوقت ۷ بجے ۱۹



کنڈلی ساون شدی اشٹمی ۲۶ جولائی بوقت ۷ بجے ۱۰



| نام سیارہ | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہ | کیت | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہ | کیت | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہ | کیت | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہ | کیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برج | متھن | متھن | متھن | برچھک | متھن | کنبھ | دھن | متھن | متھن | متھن | متھن | برچھک | کرک | کنبھ | دھن | متھن | کرک | متھن | کرک | برچھک | کرک | کنبھ | دھن | متھن | کرک | متھن | کرک | برچھک | کرک | کنبھ | دھن | متھن |
| انش | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۲ | ۱۷ | ۳۰ | ۲۴ | ۱ | ۲۷ | ۹ | ۹ | ۳ | ۲۱ | ۱ | ۲۳ | ۹ | ۲۷ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۲۷ | ۱۵ | ۲۳ | ۱۹ | ۲۷ | ۸ | ۸ |
| کلا | ۲۴ | ۳۲ | ۳ | ۹ | ۲۵ | ۵۲ | ۹ | ۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۵ | ۳۰ | ۴۷ | ۲۸ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۰ | ۳۵ | ۱۰ | ۵۴ | ۳۳ | ۳۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۶ | ۴ | ۵۲ | ۱۸ | ۲۱ | ۱۴ | ۵۶ | ۵۶ |
| بکلا | ۱۹ | ۳۱ | ۵۵ | ۳۳ | ۲ | ۳۴ | ۵۴ | ۵۴ | ۳۰ | ۵۳ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۵ | ۲۸ | ۲۸ | ۳۸ | ۱۷ | ۵۲ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۳۴ | ۳۰ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۷ | ۲۳ | ۵۴ | ۵۴ |
| حرکت روزانہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| مارگی وکری | م | م | م | ب | م | ب | ب | ب | م | م | م | ب | م | ب | ب | ب | م | م | م | ب | م | ب | ب | ب | م | م | م | ب | م | ب | ب | ب |
| طلوع غروب | ط | غ | و | ط | غ | ط | غ | غ | ط | غ | غ | ط | غ | ط | غ | غ | ه | غ | غ | ه | غ | ط | غ | غ | ط | غ | ط | ط | غ | ط | غ | غ |

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کرک ہوتی ۳۰ بوقت ۹ بجے



بن کال - اسگلے روز بیچ سے دو پہر تک

# پیشینگوئی بابت ماہ ساون

ابتدائے ۱۵ جولائی لغایت ۱۵ اگست

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار برگشر نچھتر میں پرویش کریگی چونکہ ۳۰ مہورتی ہے اور پچھلے نچھتر میں پرویش ہوئی ہے - آاوش بروز سنیچر وار اور جوش کو آردرا نچھتر ہے - یہ سب یوگ اناج کی تیزی کرنے والے ہیں - اسلئے غلہ گندم نخود کا بھاؤ گرانی پر رہیگا - اناج خورد و نمک موٹھ - جوار - باجرہ - مکی وغیرہ کا نرخ بھی تیز رہیگا - روئی - کپاس - سوت اور سوتی کپڑہ کے نرخ میں کمی بیشی خفیف ہوتی رہیگی - دودھ دہی - گھی - چاول وغیرہ گراں ہونگے - گوڑ شکر - کھانڈ - شہد وغیرہ کا بھاؤ تیز - سب طرح کی دھاتیں کم بھاؤ - تل - تیل - السی - سرسوں توریہ - سنا - ابیرا - ارنڈی کا نرخ کم و بیش ہوتا رہیگا - پنساری کا سودا مرچ سیاہ - زیرہ دھنیا - کچور - انار دانہ - ہلدی وغیرہ کا بھاؤ خفیف تیز رہیگا - لکڑی - کوئلہ - توڑی - چارہ بھوسہ گراں - تمباکو ارزاں ملیگا موسم - سورج - بدھ - شکر ایک نچھتر پر رہینگے اسلئے امراض معدہ - ہیضہ - پیٹ درد - اسہال - دق وغیرہ بیماری سے لوگ تنگ ہونگے - آگ سے نقصان ہو - تجارت سست رہے مگر کچھ تکلیف ناگہانی اتفاقات ہوں اور لوگ تنگ دلی تکلیف زیادہ ہو۔

## کرۂ فلک

سورج - شکر کے درمیان بدھ اور چندرماں بادی نچھتر پر اس لئے ہوا زیادہ چلیگی - چونکہ آتے ہوئے بادلوں کو بھی اڑا لے جایا کریگی - بارش میدانی علاقوں میں کم اور پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوگی - ماہ جولائی کو ۱۵ - ۱۶ و ۱۷ کو ہوا سرد - بادل - ۲۱ و ۲۲ و ۲۶ و ۲۷ تاریخ کو بادل اور بعض بعض جگہ بارش ہو - ۲۹ و ۳۰ جولائی بادل کی گرج چمک - بادل و بارش ہوا سرد چلے ۲ و ۳ و ۴ و ۵ اگست کو گرج چمک بارش اور ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ اگست کو بادل و بارش ہوگی۔

## اشرف و ہبوط سیارگان

### ماہ جولائی

۹ جولائی - عطارد مشرق میں غروب

۱۱ " مریخ و عطارد کا برج جوزا میں قران

۱۳ " قمر در برج ثور شرف میں داخل -

۱۵ " شمس برج سرطان میں داخل

۱۸ " شمس و عطارد کا برج سرطان میں قران -

۲۰ " قمر برج عقرب ہبوط میں داخل

۲۹ " زہرہ مغرب میں طلوع

| ۳۱ یوم | اگست | ۱۳۵۵ | ۱۸۵۸ | ۱۹۹۳ | ۱۹۹۳ | سمت ۱۹۹۳ بکرمی | | نچھتر | | جوگ | | چندرما راسی | | بھدرا | | دن مان | طلوع و غروب آفتاب | | جدول چاند | ملکی تیوہار و میلے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | تتھی | گھڑی پل | نچھتر | گھڑی پل | جوگ | گھڑی پل | راسی | گھڑی پل | ابتدا | انتہا | گھڑی پل | طلوع | غروب | | |
| سنیچروار | ۱ | ۱۲ | ۹ | ۲۸ | ۱۸ | تردوشی | ۱۰<br>۲۸ | پورباکھاڈ | ۳۵<br>۸ | بشکمبھ | ۳۸<br>۹ | مکر | ۵۰<br>۱۰ | | | ۳۳<br>۰۰ | ۵<br>۱۲ | ۶<br>۴۸ | | |
| اتوار | ۲ | ۱۳ | ۱۰ | ۲۹ | ۱۹ | چتردشی | ۳۰ | اتراکھاڈ | ۳۵<br>۲۱ | پریت | ۳۴<br>۱۹ | | | ۹<br>۳۹ | ۳۷<br>۵۶ | ۳۳<br>۵۶ | ۵<br>۱۳ | ۶<br>۴۶ | ○ | پورنماشی برت |
| سوموار | ۳ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۰ | ۲۰ | پورنماشی | ۶<br>۱۵ | شرون | ۳۳<br>۳۵ | آیوشمان | ۳۹<br>۳۴ | | | | | ۳۳<br>۵۲ | ۵<br>۱۳ | ۶<br>۴۶ | | بدھ سنگھ میں ۳-۴۳ پر آیا<br>گوکھڑی میلہ امرناتھ جی |
| منگلوار | ۴ | ۱۵ | ۱۲ | [illegible] | ۲۱ | پرتپدا | ۲۶-۳<br>۵۹-۵ | دھنشٹا | ۳۲<br>۳۷ | سوبھاگ | ۲۴<br>۱ | کنبھ | ۳<br>۲۸ | | | ۳۳<br>۴۸ | ۵<br>۱۴ | ۶<br>۴۶ | | منگل سنگھ میں ۱۳-۱۴ [illegible]<br>پنچک شروع ۳-۲۰ [illegible] |
| بدھوار | ۵ | ۱۶ | ۱۳ | ۲ | ۲۲ | تیج | ۵۳<br>۳۶ | شتبھکا | ۳۶<br>۵۲ | شوبھن | ۱۶<br>۴۵ | | | ۲۶<br>۵۱ | ۵۳<br>۳۶ | ۳۳<br>۴۳ | ۵<br>۱۵ | ۶<br>۴۵ | | |
| ویروار | ۶ | ۱۷ | ۱۴ | ۳ | ۲۳ | چوتھ | ۴۸<br>۵۴ | پوربابھادرپد | ۳۶<br>۴۳ | اتگنڈ | ۱۰<br>۴۳ | مین | ۱۲<br>۲۵ | | | ۳۳<br>۴۰ | ۵<br>۱۶ | ۶<br>۴۴ | | گنیش چوتھ |
| شکروار | ۷ | ۱۸ | ۱۵ | ۴ | ۲۴ | پنچمی | ۴۳<br>۸ | اترابھادرپد | ۴۲<br>۳۰ | سوکرما<br>دھرت | ۳۷-۴<br>۲-۵۸ | | | | | ۳۳<br>۳۶ | ۵<br>۱۷ | ۶<br>۴۳ | | |
| سنیچروار | ۸ | ۱۹ | ۱۶ | ۵ | ۲۵ | چھٹھ | ۳۶<br>۵۳ | ریوتی | ۳۰<br>۳۶ | شول | ۴۸<br>۲۱ | میکھ | ۲۰<br>۳۶ | ۳۶<br>۵۳ | | ۳۳<br>۳۲ | ۵<br>۱۷ | ۶<br>۴۳ | | چیچک ختم ۳-۲-۲۰ چندن چھٹھ |
| اتوار | ۹ | ۲۰ | ۱۷ | ۶ | ۲۶ | ستمی | ۳۰<br>۳۴ | اشونی | ۱۳<br>۱۱ | گنڈ | ۳۱<br>۴۵ | | | | ۳<br>۴۳ | ۳۳<br>۲۸ | ۵<br>۱۸ | ۶<br>۴۲ | | سیتلا ستمی [illegible] برت |
| سوموار | ۱۰ | ۲۱ | ۱۸ | ۷ | ۲۷ | اشٹمی | ۲۳<br>۱۳ | بھرنی | ۱۲<br>۱۶ | بردھ | ۳۳<br>۲۰ | برکھ | ۲۵<br>۳۸ | | | ۳۳<br>۲۴ | ۵<br>۱۹ | ۶<br>۴۱ | ◒ | بدھ برش میں طلوع ۱۱-۳۷ جنم اشٹمی |
| منگلوار | ۱۱ | ۲۲ | ۱۹ | ۸ | ۲۸ | نومی | ۱۹ | کرتکا | ۶<br>۴۳ | دھرو | ۲۷<br>۱۵ | | | ۳۷<br>۳۲ | | ۳۳<br>۲۰ | ۵<br>۲۰ | ۶<br>۴۰ | | گوگا نومی |
| بدھوار | ۱۲ | ۲۳ | ۲۰ | ۹ | ۲۹ | دسمی | ۱۳<br>۳ | روہنی | ۳<br>۱۳ | بیاگھات | ۱۹<br>۳۹ | متھن | ۳۶<br>۳ | | ۱۴<br>۴ | ۳۳<br>۱۶ | ۵<br>۲۱ | ۶<br>۳۹ | | |
| ویروار | ۱۳ | ۲۴ | ۲۱ | ۱۰ | ۳۰ | ایکادشی | ۹<br>۵۵ | مرگشرا<br>آردرا | ۳۴<br>۱۴-۵۹ | ہرکھن | ۱۴<br>۴۵ | | | | | ۳۳<br>۱۲ | ۵<br>۲۲ | ۶<br>۳۸ | | اجا ایکادشی |
| شکروار | ۱۴ | ۲۵ | ۲۲ | ۱۱ | ۳۱ | دوادشی | ۶<br>۳۵ | پنربس | ۵۵<br>۵۲ | بجر | ۸<br>۳۵ | کرک | ۴۴<br>۰ | | | ۳۳<br>۸ | ۵<br>۲۲ | ۶<br>۳۸ | | گئوبتسا دوادشی |
| سنیچروار | ۱۵ | ۲۶ | ۲۳ | ۱۲ | ۳۲ | تردوشی | ۳<br>۲۶ | پکھ | ۵۹<br>۳۲ | سدھی | ۴<br>۱۸ | | | ۴<br>۲۴ | ۳۳<br>۵۶ | ۳۳<br>۴ | ۵<br>۲۳ | ۶<br>۳۷ | | برہسپت مارگی ۳۰-۱۳ |
| اتوار | ۱۶ | ۲۷ | ۲۴ | ۱۳ | [illegible] | چودش | ۳<br>۲۵ | آشلیکھا | ۲۰<br>۰۰ | ویتی پات<br>وریان | ۱-[illegible]<br>۴۰-۵۹ | | | | | ۳۳<br>۰۰ | ۵<br>۲۴ | ۶<br>۳۶ | ● | سورج سنگھ میں ۲۵-۴۱ |
| سوموار | ۱۷ | ۲۸ | ۲۵ | ۱۴ | ۳ | اماوس | ۳<br>۳۳ | مگھا | ۱<br>۳۳ | پرگھ | ۵۶<br>۲۸ | سنگھ | ۱<br>۳۲ | | | ۳۲<br>۵۶ | ۵<br>۲۵ | ۶<br>۳۵ | | سوماوتی کشاگرہنی اماوش |
| منگلوار | ۱۸ | ۲۹ | ۲۶ | ۱۵ | ۳ | پڑوا | ۳<br>۳۱ | پورباپھالگنی | ۳<br>۴۷ | شو | ۵۶<br>۵۶ | | | | | ۳۲<br>۵۲ | ۵<br>۲۵ | ۶<br>۳۵ | ☽ | چاند نظر آئیگا۔ |
| بدھوار | ۱۹ | [illegible] | ۲۷ | ۱۶ | ۴ | دوج | ۸<br>۱۰ | اتراپھالگنی | ۴۰ | سدھ | ۵۷<br>۲۳ | کنیا | ۴۴<br>۸ | | | ۳۲<br>۴۸ | ۵<br>۲۶ | ۶<br>۳۴ | | |
| ویروار | ۲۰ | ۲ | ۲۸ | ۱۷ | ۵ | تیج | ۱۱<br>۵۷ | ہست | ۱۴<br>۳۲ | سادھیہ | ۵۷<br>۳۳ | | | ۴۳<br>۱۰ | | ۳۲<br>۴۳ | ۵<br>۲۷ | ۶<br>۳۳ | | ہرتالکا تیج و بھدر چوتھ |
| شکروار | ۲۱ | ۳ | ۲۹ | ۱۸ | ۶ | چوتھ | ۱۶<br>۲۶ | ہست | ۲۰<br>۳۵ | شبھ | ۵۶<br>۵۲ | تلا | ۵۳<br>۴۶ | | ۱۶<br>۲۴ | ۳۲<br>۴۰ | ۵<br>۲۸ | ۶<br>۳۲ | | بدھ کنیا میں ۷۵-۲۷ پر آیا |
| سنیچروار | ۲۲ | ۴ | ۳۰ | ۱۹ | ۷ | پنچمی | ۲۱<br>۳۰ | چترا | ۲۶<br>۵۵ | شکل | ۶۰<br>۰۰ | | | | | ۳۲<br>۳۴ | ۵<br>۲۹ | ۶<br>۳۱ | | رکھی پنچمی |
| اتوار | ۲۳ | ۵ | ۳۱ | ۲۰ | ۸ | چھٹھ | ۲۶<br>۳۷ | سواتی | ۳۳<br>۳۷ | شکل | ۲۸ | | | | | ۳۲<br>۳۲ | ۵<br>۲۹ | ۶<br>۳۱ | | |
| سوموار | ۲۴ | ۶ | [illegible] | ۲۱ | ۹ | ستمی | ۳۱<br>۲۳ | بشاکھا | ۳۹<br>۳۷ | برہم | ۱<br>۳۸ | برشچک | ۴۳<br>۹ | ۳۰<br>۲۴ | | ۳۲<br>۲۸ | ۵<br>۳۰ | ۶<br>۳۰ | | سورج ستمی قمر در عقرب ۴۳-۹ |
| منگلوار | ۲۵ | ۷ | ۲ | ۲۲ | ۱۰ | اشٹمی | ۳۵<br>۱۳ | انورادھا | ۴۴<br>۵۱ | ایندر | ۲<br>۲ | | | | ۳<br>۱۹ | ۳۲<br>۲۴ | ۵<br>۳۱ | ۶<br>۲۹ | ◓ | رادھا اشٹمی |
| بدھوار | ۲۶ | ۸ | ۳ | ۲۳ | ۱۱ | نومی | ۳۸<br>۵۶ | جیشٹھا | ۴۸<br>۵۹ | بیدھرتی | ۲<br>۵۲ | دھن | ۴۸<br>۵۹ | | | ۳۱<br>۲۰ | ۵<br>۳۲ | ۶<br>۲۸ | | |
| ویروار | ۲۷ | ۹ | ۴ | ۲۴ | ۱۲ | دسمی | ۳۹<br>۴۳ | مول | ۵۲<br>۳ | وشکمبھ | ۲<br>۹ | | | | | ۳۲<br>۱۶ | ۵<br>۳۳ | ۶<br>۲۷ | | |
| شکروار | ۲۸ | ۱۰ | ۵ | ۲۵ | ۱۳ | ایکادشی | ۴۰<br>۱ | پورباکھاڈ | ۵۳<br>۳۴ | پریتی<br>آیوشمان | ۲۹-۰۰<br>۴۹-۵۹ | | | ۹<br>۵۲ | ۳۰<br>۱ | ۳۲<br>۱۲ | ۵<br>۳۳ | ۶<br>۲۷ | | پدماں ایکادشی |
| سنیچروار | ۲۹ | ۱۱ | ۶ | ۲۶ | ۱۴ | دوادشی | ۳۶<br>۵ | اتراکھاڈ | ۵۴<br>۵۷ | سوبھاگ | ۵۳<br>۴۰ | مکر | ۹<br>۱۸ | | | ۳۲<br>۸ | ۵<br>۳۴ | ۶<br>۲۶ | | شکر کنیا میں ۳۹-۱۹ پر آیا |
| اتوار | ۳۰ | ۱۲ | ۷ | ۲۷ | ۱۵ | تردوشی | ۳۶<br>۳۵ | شرون | ۵۳<br>۳۵ | شوبھن | ۴۹<br>۳۰ | | | | | ۳۲<br>۴ | ۵<br>۳۵ | ۶<br>۲۵ | | |
| سوموار | ۳۱ | ۱۳ | ۸ | ۲۸ | ۱۶ | چتردشی | ۳۳<br>۲۸ | دھنشٹا | ۵۱<br>۱۰ | اتگنڈ | ۴۱<br>۳ | کنبھ | ۲۲<br>۲۲ | ۳۳<br>۲۸ | ۰ | ۳۱<br>۵۹ | ۵<br>۳۶ | ۶<br>۲۴ | | چیچک شروع ۳۳-۳۳ اننت چتردشی |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ و ۳ اگست کو بارش ہوئی۔ تو ساونی کا فصل اچھا ہوگا۔ اگر ۴۔ اگست کو بارش ہوئی تو ماہ پوہ میں غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۱۵۔ اگست کو بادل ہوئے۔ تو نرخ غلہ گراں ہوجاوے۔ اگر ۱۶۔ اگست کو بارش ہوگئی۔ تو لوگوں میں بیماری سے دہشت پھیل جاوے۔ اگر ۱۸۔ اگست کو بارش ہوگئی تو گھی۔ تیل گراں ہوجاوے۔ اگر ۲۰۔ اگست کو بادل ہوئے۔ تو اناج کا نرخ جلد گراں ہوجاوے۔ اگر ۲۲۔ اگست کو مطلع صاف رہا۔ تو غلہ کا نرخ گراں ہوجاوے۔ اگر ۲۴۔ اگست کو مطلع صاف رہا تو قحط سالی کی علامت جاننا۔ اگر ۲۶۔ اگست کو بارش ہوگئی۔ تو غلہ جلد گراں ہوجاویگا۔ اگر ۲۸۔ اگست کو بارش ہوئی۔ تو غلہ ارزاں ہوگا۔

مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ ۲۳

سنہ ۱۹۳۶ء مطابق سمت ۱۹۹۳ بکرم

ماہ اگست سنہ ۱۹۳۶ء

## چکر سیارگان پنچانگ

| | |
|---|---|
| ۱ | |
| ۲ | سورج اشلیکھا کے (۱) ۹ — ۱۰ |
| ۳ | بدھ مگھا کے (۱) ۳۲ — ۱۸ |
| ۴ | بدھ مگھا کے (۲) ۲۸ — ۵۵<br>شکر مگھا کے (۱) ۳۱ — ۴۱ |
| ۵ | سورج اشلیکھا کے (۲) ۵۸ — ۴۸ |
| ۶ | شکر مگھا کے (۱) ۲۱ — ۱۰ بدھ مگھا کے (۳)<br>شکر مگھا کے (۲) ۱۳ — ۱۷ |
| ۷ | |
| ۸ | بدھ مگھا کے (۴) ۷ — ۱۷ |
| ۹ | سورج اشلیکھا کے (۳) بدھ پوربا پھالگنی کے<br>مگھا کے (۳) ۱۹ — ۱۰ |
| ۱۰ | منگل پکھ کے (۲) ۳۵ — ۸ |
| ۱۱ | بدھ پوربا پھالگنی کے (۲) ۵۰ — ۴۰ شکر<br>مگھا کے (۴) ۳۱ — ۲۷ |
| ۱۲ | سورج اشلیکھا کے (۴) ۵۴ — ۲۵ |
| ۱۳ | |
| ۱۴ | بدھ پوربا پھالگنی کے (۳) ۵۶ — ۳۰ |
| ۱۵ | منگل پکھ کے (۳) ۴۸ — ۳۰ شکر پوربا پھالگنی<br>کے (۱) ۱۸ — ۷ |
| ۱۶ | سورج مگھا کے (۱) ۲۵ — ۴۱ |
| ۱۷ | بدھ پوربا پھالگنی کے (۴) ۳ — ۲۳ |
| ۱۸ | بدھ اترا پھالگنی کے (۱) ۱۷ — ۵۰ شکر<br>پوربا پھالگنی کے (۲) ۴۷ — ۳۰ |
| ۱۹ | سورج مگھا کے (۲) ۵۴ — ۱ |
| ۲۰ | منگل پکھ کے (۴) ۳۲ — ۳۸ |
| ۲۱ | بدھ اترا پھالگنی کے (۲) ۲۵ — ۷۲ شکر<br>پوربا پھالگنی کے (۳) ۴۷ — ۱۱ |
| ۲۲ | |
| ۲۳ | سورج مگھا کے (۳) ۲۱ — ۲۲ بدھ اترا پھالگنی<br>کے (۳) ۵۵ — ۳۱ |
| ۲۴ | شکر پوربا پھالگنی کے (۴) ۱۱ — ۵۹ |
| ۲۵ | منگل اشلیکھا کے (۱) ۵۹ — ۲۰ |
| ۲۶ | سورج مگھا کے (۴) بدھ اترا پھالگنی<br>کے (۴) ۷۵ — ۳۱ شکر اترا پھالگنی کے (۱) |
| ۲۷ | |
| ۲۸ | بدھ ہست کے (۱) ۴۴ — ۵۱ |
| ۲۹ | شکر اترا پھالگنی کے (۲) ۳۹ — ۱۹ |
| ۳۰ | سورج پوربا پھالگنی کے (۱) ۱۶ — ۳۲ |
| ۳۱ | منگل اشلیکھا کے ۱۹ — ۲۵ شکر اترا پھالگنی<br>۱۵ — ۳۳ |

## نظرات شرف و طلوع سیارگان

### ماہ اگست

۳- اگست کو مریخ مشرق میں طلوع
۱۰ ” قمر در برج ثور شرف میں داخل۔
۱۰- اگست عطارد مغرب میں طلوع
۱۵ ” مشتری جیت سے مستقیم ہوا۔
۱۶ ” عطارد و مشتری نظر تربیع
۱۹ ” عطارد و زحل کی باہم نظر مقابلہ
۲۱ ” عطارد در برج سنبلہ شرف میں
۲۴ ” قمر در برج عقرب ہبوط میں داخل
۲۵ ” زہرہ و زحل کی باہم نظر مقابلہ
۲۹ ” زہرہ در برج سنبلہ ہبوط میں داخل

تحویل آفتاب در برج سنبلہ

۲۳ اگست ۱۹۳۶ء

کنڈلی بھادوں سدی ۱۵ اگست بوقت

کنڈلی بھادوں بدی اماوس ۱۷ اگست بوقت

کنڈلی ساون سدی پورنماشی ۲ اگست بوقت



## تقویم سیارگان

### استعمال و پرہیز

استعمال ۔ تازہ پانی سے نہانا سیر باغ و ہوا خوری کرنا۔ پیٹھا سونا ۔ پان کھانا صحت کے لئے مفید ہے۔

پرہیز ۔ رات کو جاگنا ۔ فاقہ کرنا ۔ دن کو سونا ۔ راہ پر بیٹھنا ۔ غصہ کرنا مضر صحت

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت سنگھ ۱۶ اگست



پرکال ۹ گھڑی ۱۴ پل دن چڑھے کے بعد شروع ہو

## پیشنگوئی بابت ماہ بھادوں

### ابتدائے ۱۷ اگست لغایت ۱۵ ستمبر

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار اشلیکھا نچھتر میں پرویش کریگی۔ چونکہ ۱۵ مہورتی ہے اور پانچویں نچھتر میں آئی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ بدستور ماہ سابقہ گرانی پر ہی رہیگا۔ غلہ خورد موٹھ ۔ ماش ۔ موٹھ ۔ جوار ۔ باجرہ ۔ مکی کا نرخ قدرے ارزاں ہو جائیگا۔ دودھ ۔ دہی کا نرخ کچھ ارزاں کچھ گراں رہیگا۔ گوڑ شکر ۔ شہد ۔ کھانڈ ۔ چاول ۔ نمک کا نرخ گراں۔ سونا ۔ چاندی ۔ تانبہ ۔ پیتل وغیرہ کا نرخ بھی بہ نسبت ماہ سابقہ تیزی پر ہوگا ۔ سرخ رنگ کی تمام اشیاء کیسر ۔ شرخ ۔ لاکھ ۔ مجیٹھ ۔ چندن ۔ لال مرچ ۔ مسور وغیرہ گراں ملیں گے ۔ تل تیل ۔ السی ۔ سرسوں ۔ توریہ ۔ تارامیرا ۔ اور ارنڈی وغیرہ کا نرخ کچھ تیز ہوگا ۔ روئی ۔ کپاس ۔ سن ۔ پھوٹ ریشمی و سوتی کپڑا اور چوپائے جانور گراں رہینگے ۔ عطاروں اور پنساریوں کا سامان بھی بھاؤ ۔ لکڑی ۔ کوئلہ ۔ چارہ ۔ پھوس ۔ تروئی ۔ تمباکو ۔ پھل ۔ پھول ۔ گراں ہونگے ۔

موسم صحت کے لئے یہ ماہ بھی اچھا نہیں ۔ خونی امراض کا زور ہے ۔ چوپائے جانوروں میں روگ کی بڑھتی ۔ والوں کو فکر و تشویش ۔ وبائی امراض سے لوگ تنگ ہونگے ۔

### کرۂ فلک

بدھ و شکر کا ملاپ ہوگا ۔ اور چندرماں اپنی چھتر پر ہے ۔ اس لئے بادل بہت آئینگے ۔ اور بارش بھی بعض بعض جگہ ہوگی ۔ ۱۶ ۔ ۱۷ ۔ ۱۸ ۔ ۱۹ اگست کو آسمان ابر آلود ۔ بارش ۔ ۲۱ ۔ ۲۲ ۔ ۲۳ اگست کو آسمان پر بادل چھائے رہیں اور بعض بعض جگہ بارش بھی ہو ۔ ۳۰ ۔ ۳۱ اگست کو آسمان ابر آلود ہوا سرد چلے ۔ بجم ۲ ۔ ۵ و ۶ ستمبر کو ہوا سرد ۔ بادل خفیف بارش اور ۹ ۔ ۱۰ ۔ ۱۳ ۔ ۱۵ ستمبر کو بادل ابر آلود

۱۵ اگست

| ایام | ستمبر ۱۹۳۶ء | جمادی الثانی ۱۳۵۵ ہجری | [illegible] | [illegible] | بھادوں ۱۹۹۳ بکرمی | تتھی | گھڑی پل | نچھتر | گھڑی پل | یوگ | گھڑی پل | چندرما راس | گھڑی پل | بھدرا ابتدا گھڑی پل | بھدرا انتہا گھڑی پل | دن مان گھڑی پل | طلوع گھنٹہ منٹ | غروب گھنٹہ منٹ | چاند | کیفیت تہوار و برت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منگلوار | ۱ | ۱۴ | ۹ | ۲۹ | ۱۷ | پورنماشی | ۲۹<br>۳۲ | ستبھکھا | ۴۹<br>۱۸ | سوکرما | ۳۷<br>۵۴ | | | | ۱<br>۳۰ | ۳۱<br>۵۴ | ۵<br>۳۴ | ۶<br>۲۳ | ○ | پورنماشی ۔ برت پتر پکش |
| بدھوار | ۲ | ۱۵ | ۱۰ | [illegible] | ۱۸ | پڑوا | ۲۳<br>۳۸ | پوربابھادر | ۴۲<br>۳ | دھرت | ۳۱<br>۷ | مین | ۳۱<br>۵۲ | | | ۳۱<br>۴۹ | ۵<br>۳۸ | ۶<br>۲۲ | | |
| ویروار | ۳ | ۱۶ | ۱۱ | ۲ | ۱۹ | دوج | ۱۹<br>۱۳ | اترابھادر | ۴۳<br>۱۲ | شول | ۳۳<br>۵۱ | | | ۳۶<br>۳۱ | | ۳۱<br>۴۴ | ۵<br>۳۹ | ۶<br>۲۱ | | |
| شکروار | ۴ | ۱۷ | ۱۲ | ۳ | ۲۰ | تیج | ۱۴<br>۸ | ریوتی | ۳۸<br>۱۰ | گنڈ | ۱۶<br>۱۶ | میکھ | ۳۸<br>۱۰ | | ۱۴<br>۸ | ۳۱<br>۳۹ | ۵<br>۴۰ | ۶<br>۲۰ | | پنچک ختم ۳۸ ۔ ۱۰<br>گنیش چوتھ |
| سنیچروار | ۵ | ۱۸ | ۱۳ | ۴ | ۲۱ | چوتھ | ۷<br>۸ | اشونی | ۳۳<br>۵۴ | بردھ | ۸<br>۳۶ | | | | | ۳۱<br>۳۵ | ۵<br>۴۱ | ۶<br>۱۹ | | |
| آتوار | ۶ | ۱۹ | ۱۴ | ۵ | ۲۲ | پنچمی<br>چھٹ | ۴۹ ۔ ۰۰<br>۵۷ ۔ ۵۴ | بھرنی | ۲۹<br>۲۷ | دھرو<br>ویاگھات | ۰۰ ۔ ۴۳<br>۵۸ ۔ ۴۲ | برکھ | ۴۳<br>۵۰ | ۵۳<br>۵۷ | | ۳۱<br>۳۰ | ۵<br>۴۲ | ۶<br>۱۸ | | کپلا چھٹ |
| سوموار | ۷ | ۲۰ | ۱۵ | ۶ | ۲۳ | ستمی | ۴۹<br>۳۱ | کرتکا | ۲۵<br>۵۹ | ہرکھن | ۴<br>۵ | | | | ۲۲<br>۱۴ | ۳۱<br>۲۵ | ۵<br>۴۳ | ۶<br>۱۷ | | |
| منگلوار | ۸ | ۲۱ | ۱۶ | ۷ | ۲۴ | اشٹمی | ۴۴<br>۴۵ | روہنی | ۲۳<br>۳۱ | بجر | ۳۹<br>۲۱ | متھن | ۵۰<br>۲۲ | | | ۳۱<br>۲۰ | ۵<br>۴۴ | ۶<br>۱۶ | ◒ | مہالکشمی اشٹمی برت |
| بدھوار | ۹ | ۲۲ | ۱۷ | ۸ | ۲۵ | نومی | ۴۰<br>۱۹ | مرگ شر | ۲۰<br>۱۹ | سدھی | ۳۳<br>۱۵ | | | | | ۳۱<br>۱۵ | ۵<br>۴۵ | ۶<br>۱۵ | | |
| ویروار | ۱۰ | ۲۳ | ۱۸ | ۹ | ۲۶ | دسمی | ۳۷<br>۱ | آردرا | ۱۸<br>۱۷ | ویتیپات | ۲۷<br>۵۱ | | | ۸<br>۴۰ | ۳۷<br>۱ | ۳۱<br>۱۰ | ۵<br>۴۶ | ۶<br>۱۴ | | |
| شکروار | ۱۱ | ۲۴ | ۱۹ | ۱۰ | ۲۷ | ایکادشی | ۳۴<br>۵۰ | پنربس | ۱۷<br>۳۲ | وریان | ۲۳<br>۱۸ | کرک | ۳۰<br>۱۴ | | | ۳۱<br>۵ | ۵<br>۴۷ | ۶<br>۱۳ | | بدھ کنیا ۵ ۔ ۱۷<br>اندرا ایکادشی |
| سنیچروار | ۱۲ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۱ | ۲۸ | دوادشی | ۳۳<br>۵۱ | پکھ | ۱۷<br>۵۶ | پرگھ | ۲۰<br>۳۰ | | | | | ۳۱<br>۰ | ۵<br>۴۸ | ۶<br>۱۲ | | |
| آتوار | ۱۳ | ۲۶ | ۲۱ | ۱۲ | ۲۹ | تریودشی | ۳۴<br>۱۱ | اشلیکھا | ۱۹<br>۳۷ | شیو | ۱۸<br>۴۰ | سنگھ | ۱۹<br>۳۷ | ۳۴<br>۱۱ | | ۳۰<br>۵۵ | ۵<br>۴۹ | ۶<br>۱۱ | | بدھ مغرب میں غروب ۴۹ ۔ ۴ |
| سوموار | ۱۴ | ۲۷ | ۲۲ | ۱۳ | ۳۰ | چودس | ۳۵<br>۴۷ | مگھا | ۲۳<br>۳۲ | سدھ | ۱۶<br>۲۱ | | | | ۴<br>۵۹ | ۳۰<br>۵۰ | ۵<br>۵۰ | ۶<br>۱۰ | | |
| منگلوار | ۱۵ | ۲۸ | ۲۳ | ۱۴ | ۳۱ | اماوس | ۳۸<br>۳۸ | پوربا پھالگنی | ۲۶<br>۳۰ | سادھ | ۱۵<br>۳۹ | کنیا | ۳۲<br>۳۸ | | | ۳۰<br>۴۵ | ۵<br>۵۱ | ۶<br>۹ | ● | منگل سنگھ میں ۵۹ ۔ ۲۴ پر آئیگا<br>پتر پکش شرادھ ختم |
| بدھوار | ۱۶ | ۲۹ | ۲۴ | ۱۵ | [illegible] | پڑوا | ۴۲<br>۲۵ | اترا پھالگنی | ۳۱<br>۳۵ | شبھ | ۱۵<br>۴۷ | | | | | ۳۰<br>۴۰ | ۵<br>۵۲ | ۶<br>۸ | | سورج کنیا میں ۳۵ ۔ ۱۲ پر آئیگا |
| ویروار | ۱۷ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۶ | ۲ | دوج | ۴۷<br>۲۲ | ہست | ۳۷<br>۲۳ | شکل | ۱۶<br>۳۷ | | | | | ۳۰<br>۳۵ | ۵<br>۵۳ | ۶<br>۷ | ☾ | چاند نظر آئیگا |
| شکروار | ۱۸ | [illegible] | ۲۶ | ۱۷ | ۳ | تیج | ۵۳<br>۱۳ | چترا | ۴۳<br>۹ | برھم | ۱۷<br>۵۹ | تلا | ۱۰<br>۵۶ | | | ۳۰<br>۳۰ | ۵<br>۵۴ | ۶<br>۶ | | |
| سنیچروار | ۱۹ | ۲ | ۲۷ | ۱۸ | ۴ | چوتھ | ۵۷<br>۱۵ | سوانی | ۵۰<br>۳۸ | اندر | ۱۹<br>۲۶ | | | ۲۴<br>۴۴ | ۵۴<br>۱۲ | ۳۰<br>۲۵ | ۵<br>۵۵ | ۶<br>۵ | | |
| آتوار | ۲۰ | ۳ | ۲۸ | ۱۹ | ۵ | پنچمی | ۶۰<br>۰۰ | وشاکھا | ۵۶<br>۲۵ | بیدھرت | ۲۰<br>۴۸ | برچھک | ۳۰<br>۱۴ | | | ۳۰<br>۲۰ | ۵<br>۵۶ | ۶<br>۴ | | قمر در عقرب ۴۰ ۔ ۱۴ |
| سوموار | ۲۱ | ۴ | ۲۹ | ۲۰ | ۶ | پنچمی | ۳<br>۱۹ | انورادھا | ۶۰<br>۰۰ | وشکنبھ | ۲۲<br>۴۴ | | | | | ۳۰<br>۱۵ | ۵<br>۵۷ | ۶<br>۳ | | |
| منگلوار | ۲۲ | ۵ | ۳۰ | ۲۱ | ۷ | چھٹ | ۶<br>۱ | انورادھا | ۳<br>۱۱ | پریت | ۲۳<br>۳۰ | | | | | ۳۰<br>۱۰ | ۵<br>۵۸ | ۶<br>۲ | | شکر تلا میں ۳۶ ۔ ۳۵ پر آئیگا |
| بدھوار | ۲۳ | ۶ | ۳۱ | ۲۲ | ۸ | ستمی | ۹<br>۷ | جیشٹھا | ۶<br>۳۷ | آیوشمان | ۲۳<br>۲۷ | دھن | ۶<br>۳۷ | ۹<br>۲ | ۳۹<br>۵۵ | ۳۰<br>۵ | ۵<br>۵۹ | ۶<br>۱ | ◓ | |
| ویروار | ۲۴ | ۷ | [illegible] | ۲۳ | ۹ | اشٹمی | ۱۰<br>۳۸ | مول | ۹<br>۵۶ | سوبھاگیہ | ۲۱<br>۳۰ | | | | | ۳۰<br>۰۰ | ۶<br>۰۰ | ۶<br>۰۰ | | |
| شکروار | ۲۵ | ۸ | ۲ | ۲۴ | ۱۰ | نومی | ۱۱<br>۱۵ | پورباکھاڑ | ۱۱<br>۵۸ | شوبھن | ۱۸<br>۴۳ | مکر | ۲۴<br>۱۰ | | | ۲۹<br>۵۵ | ۶<br>۱ | ۵<br>۵۹ | | |
| سنیچروار | ۲۶ | ۹ | ۳ | ۲۵ | ۱۱ | دسمی | ۱۰<br>۲۱ | اتراکھاڑ | ۱۲<br>۲۵ | اتیگنڈ | ۱۵<br>۵ | | | ۳۹<br>۲۵ | | ۲۹<br>۵۰ | ۶<br>۲ | ۵<br>۵۸ | | |
| آتوار | ۲۷ | ۱۰ | ۴ | ۲۶ | ۱۲ | ایکادشی | ۸<br>۳۴ | سرون | ۱۷<br>۲۱ | سوکرما | ۱۰<br>۳۸ | کنبھ | ۴۱<br>۳۶ | | ۹<br>۲۴ | ۲۹<br>۴۵ | ۶<br>۳ | ۵<br>۵۷ | | پنچک شروع ۴۱ ۔ ۳۶ |
| سوموار | ۲۸ | ۱۱ | ۵ | ۲۷ | ۱۳ | دوادشی | ۵<br>۱۷ | دھنشٹا | ۱۰<br>۵ | دھرت<br>شول | ۵ ۔ ۱۴<br>۵۹ ۔ ۱۳ | | | | | ۲۹<br>۴۰ | ۶<br>۴ | ۵<br>۵۶ | | |
| منگلوار | ۲۹ | ۱۲ | ۶ | ۲۸ | ۱۴ | تریودشی<br>چودس | ۱ ۔ ۱۲<br>۵۸ ۔ ۳۳ | ستبھکھا | ۳۸<br>۳۴ | گنڈ | ۵۲<br>۳۳ | مین | ۵۱<br>۱۳ | ۵۶<br>۳۲ | | ۲۹<br>۳۵ | ۶<br>۵ | ۵<br>۵۵ | | بدھ مشرق میں طلوع ۵۲ ۔ ۴۹ |
| بدھوار | ۳۰ | ۱۳ | ۷ | ۲۹ | ۱۵ | پورنماشی | ۵۶<br>۴۲ | پوربابھادر | ۵<br>۶ | بردھ | ۳۴<br>۱۶ | | | | ۲۳<br>۱۷ | ۲۹<br>۳۰ | ۶<br>۶ | ۵<br>۵۴ | ○ | پورنماشی برت |

**آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات** } اگر یکم ستمبر کو آسمان پر گھنگور گھٹا دکھائی دیوے۔ تو غلہ بہت جلد گراں ہو جاوے گا۔ اگر ۲ ستمبر کو بادل ہووے تو بارش جلد آنے والی جاننا۔ اگر ۸ ستمبر کو بارش ہوئی تو غلہ ارزاں رہے۔ اگر ۱۰ ستمبر کو بادل ہوئے۔ تو بارش جلد آوے۔ اگر ۱۹ ستمبر کو بوقت طلوع آفتاب بادل ہوں۔ تو بارش جلد آنے کی علامت ہے اگر ۲۴ ستمبر کو بارش ہوئی تو ارزانی غلہ کی علامت ہوگی۔ اگر ۲۸ ستمبر کو رعد و برق کی مہیب آواز سنائی دی۔ تو آئندہ غلہ گراں ہو جاوے گا۔ اگر ۳۰ ستمبر کو مطلع صاف رہا۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو۔ اگر بادل ہوئے تو جلد نرخ غلہ گراں ہو جاوے۔

اجہ [illegible] سنکرانت کنیا [illegible] ۵۵ پر [illegible] ۲۵

۱۰
۹
۱۱
۱۲
۱
۷
۲
۴
۳
۵

پنچک کال - ۲۵-۳۹ سے ۴۱-۳۰ تک

## پیشگوئی بابت ماہ اسوج

ابتدائے ۱۶ ستمبر لغایت ۱۵ اکتوبر

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت شبھ ہے۔ [illegible] پھر اس میں [illegible] ہوگی [illegible] ۲۵ اسوج سے [illegible] غلہ گندم و نخود کا نرخ اوسط [illegible] گذشتہ کی طرح [illegible] رہیگا۔ غلہ خورد [illegible] موٹھ - ارہر - جوار - باجرہ مکی کا نرخ کچھ [illegible] روئی - کپاس [illegible] گراں [illegible] سوتی کپڑا [illegible] شکر [illegible] دودھ - گھی کا بھاؤ نرم [illegible] اشیاء سرخ رنگ - لاکھ [illegible] چندن [illegible] ۱۳ [illegible] ۳۱ [illegible] برتن [illegible] تیل - السی - سرسوں - توریہ [illegible] بھاؤ تیز [illegible] سونا [illegible] چاندی - قلعی - کانسی کا نرخ [illegible] کوئلہ [illegible] کا نرخ گراں ہوگا - [illegible] امراض [illegible] پھنسی - بخار ملیریا اور [illegible] زلزلہ [illegible] لوگوں کے دلوں میں بے چینی [illegible] نقصان [illegible] ہو۔

### کرۂ فلک

اس ماہ میں ہوا زیادہ چلیگی - بارش کم ہوگی - ۱۶ و ۱۷ ستمبر کو ہوا تیز، آسمان پر بادل رہیں - ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ ستمبر کو آسمان ابر محیط ۲۹ و ۳۰ ستمبر کو بادل اور بعض بعض جگہ بارش ہو - ۳ و ۴ اکتوبر کو بادل ہوا سرد و خفیف بارش ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ اکتوبر کو آسمان پر بادل چکر لگاتے رہیں گے - اور کچھ بوندا باندی ہوگی



| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | [illegible] ۵۳-۱۰ [illegible]<br>[illegible] ۴۹-۵۵ |
| ۲ | [illegible] ۱۲<br>[illegible] ۲۵-۱۸ |
| ۳ | |
| ۴ | |
| ۵ | [illegible] ۲۳-۹<br>[illegible] ۲۳ |
| ۶ | [illegible] ۹-۳۰ |
| ۷ | [illegible] |
| ۸ | [illegible] ۵۵-۲۲ |
| ۹ | [illegible] ۲۲-۵۸ |
| ۱۰ | منگل [illegible] ۳-۵۵ |
| ۱۱ | [illegible] ۲۹ |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | [illegible] ۱۰-۱۰ |
| ۱۴ | [illegible] ۱۸ |
| ۱۵ | منگل [illegible] ۵۹-۲۶ |
| ۱۶ | [illegible] ۷۸-۳۶<br>[illegible] |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | |
| ۱۹ | [illegible] ۵-۵۵ |
| ۲۰ | [illegible] ۴۹-۲۴<br>[illegible] ۱۴ |
| ۲۱ | منگل [illegible] ۵-۱۸ |
| ۲۲ | [illegible] ۳۶-۱۶ |
| ۲۳ | |
| ۲۴ | [illegible] ۱۳-۲۴ |
| ۲۵ | منگل [illegible]<br>[illegible] |
| ۲۶ | |
| ۲۷ | [illegible]<br>[illegible] |
| ۲۸ | |
| ۲۹ | [illegible] |
| ۳۰ | [illegible] ۱-۱۸<br>[illegible] |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ویروار | 1 | ۱۴ | ۸ | [illegible] | ۱۶ | پنچک ختم ۵۷ - ۴۵ |
| شکروار | ۲ | ۱۵ | ۹ | ۲ | ۱۷ | |
| سنیچروار | ۳ | ۱۶ | ۱۰ | ۳ | ۱۸ | [illegible] |
| اتوار | ۴ | ۱۷ | ۱۱ | ۴ | ۱۹ | |
| سوموار | ۵ | ۱۸ | ۱۲ | ۵ | ۲۰ | |
| منگلوار | ۶ | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۲۱ | |
| بدھوار | ۷ | ۲۰ | ۱۴ | ۷ | ۲۲ | |
| ویروار | ۸ | ۲۱ | ۱۵ | ۸ | ۲۳ | |
| شکروار | ۹ | ۲۲ | ۱۶ | ۹ | ۲۴ | |
| سنیچروار | ۱۰ | ۲۳ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۵ | |
| اتوار | ۱۱ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۲۶ | |
| سوموار | ۱۲ | ۲۵ | ۱۹ | ۱۲ | ۲۷ | |
| منگلوار | ۱۳ | ۲۶ | ۲۰ | ۱۳ | ۲۸ | |
| بدھوار | ۱۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۱۴ | ۲۹ | شب معراج |
| ویروار | ۱۵ | ۲۸ | ۲۲ | ۱۵ | ۳۰ | |
| شکروار | ۱۶ | ۲۹ | ۲۳ | ۱۶ | [illegible] | [illegible] |
| سنیچروار | ۱۷ | ۳۰ | ۲۴ | ۱۷ | ۲ | |
| اتوار | ۱۸ | [illegible] | ۲۵ | ۱۸ | ۳ | |
| سوموار | ۱۹ | ۲ | ۲۶ | ۱۹ | ۴ | |
| منگلوار | ۲۰ | ۳ | ۲۷ | ۲۰ | ۵ | |
| بدھوار | ۲۱ | ۴ | ۲۸ | ۲۱ | ۶ | |
| ویروار | ۲۲ | ۵ | ۲۹ | ۲۲ | ۷ | [illegible] |
| شکروار | ۲۳ | ۶ | ۳۰ | ۲۳ | ۸ | درگا [illegible] |
| سنیچروار | ۲۴ | ۷ | [illegible] | ۲۴ | ۹ | [illegible] ۲۸-۳۰ پر آیا |
| اتوار | ۲۵ | ۸ | ۲ | ۲۵ | ۱۰ | [illegible] شروع ۱-۹ [illegible] دسہرہ |
| سوموار | ۲۶ | ۹ | ۳ | ۲۶ | ۱۱ | [illegible] ایکادشی |
| منگلوار | ۲۷ | ۱۰ | ۴ | ۲۷ | ۱۲ | |
| بدھوار | ۲۸ | ۱۱ | ۵ | ۲۸ | ۱۳ | [illegible] ۲۸-۵ پر آیا |
| ویروار | ۲۹ | ۱۲ | ۶ | ۲۹ | ۱۴ | پنچک ختم ۱۷-۴۴ پورنماشی برت |
| شکروار | ۳۰ | ۱۳ | ۷ | ۳۰ | ۱۵ | سرد پورنماشی اکاش دیا |
| سنیچروار ۱۵ | ۳۱ | ۱۴ | ۸ | [illegible] | ۱۶ | شب برات [illegible] شروع |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر یکم اکتوبر کو بادل ہوں تو بارش جلد آنے والی جاننا۔ اگر ۸ اکتوبر کو بارش ہو تو غلہ ارزاں۔ اور بادل ہوں تو بارش جلد آنے کی علامت ہے۔ اگر ۱۰ اکتوبر کو آسمان ابر محیط رہا تو بارش خوب ہونے کی علامت ہے۔ اگر ۱۵ اکتوبر کو صبح کے وقت بادل ہوں تو بارش جلد آوے۔ اگر ۲۰ اکتوبر کو بارش [illegible] ہو تو [illegible] اگر ۲۷ اکتوبر کو بادل کی گرج ہو تو غلہ گراں ہو جاوے گا۔ اگر ۳۰ اکتوبر کو مطلع صاف رہا تو [illegible] ہو جاوے گا۔

# کرتک ۱۹۹۳

## وضع سیارگان برج عقرب

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت [illegible]



پنچک کال ۶ ، ۷ روز صبح سے دوپہر تک

## پیشینگوئی بابت ماہ کارتک

ابتدائے ۱۶ اکتوبر لغایت ۱۴ نومبر

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز شکر وار سواتی نچھتر میں پرویش کریگی چونکہ ۱۵ مہورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا بھاؤ تیزی پر رہیگا۔ اناج خورد نی۔ مونگ۔ ماش۔ جوار۔ باجرہ وغیرہ کا نرخ کچھ ارزاں ہوگا۔ اُڑد۔ دالی کا نرخ مندہ۔ گڑ۔ کھانڈ۔ شہد۔ لال مرچ۔ لاکھ۔ کشیشہ۔ چندن وغیرہ کا نرخ گراں رہیگا۔ گھی کا بھاؤ تیز۔ تل تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارامیرا۔ ناریل کا نرخ ارزانی پر رہیگا۔ سب طرح کی دھاتیں گراں۔ چاندی۔ تانبا۔ کانسی۔ چاول۔ کھانڈ۔ نمک کا نرخ ارزاں رہیگا۔ سواری کے جانور گھوڑے اونٹ۔ ہاتھی وغیرہ ارزاں بیں گے۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت۔ سوتی کپڑا کا بھاؤ ارزاں ہوگی۔ ریشمی کپڑا کا بھاؤ گراں ہوتا جاویگا۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ چارہ۔ بھوسہ۔ تمباکو کا نرخ گراں اور پنساری کا سودا کا بھاؤ مدہم رہیگا۔

موسم خسرہ۔ چیچک۔ موسمی بخار۔ ہیضہ وزکام سے بہت لوگ بیمار رہینگے بچے چھوٹے بچوں میں اموات زیادہ ہونگی۔ بوڑھے لوگ بھی تکلیف پاوینگے۔ لوگوں کی طبیعتیں منتشر رہینگی۔

## کرۂ فلک

ہوا اس ماہ میں بھی زیادہ چلیگی۔ آسمان سے ستارے زیادہ ٹوٹینگے۔ دھوپ کی رنگت زردی مائل رہیگی۔ ۱۶-۱۷ اکتوبر کو آسمان ابر آلود ہوا تیز ۲۲-۲۳ و ۲۵-۲۸ اکتوبر کو بادل ہوا سرد ۲ و ۳ نومبر کو بادل ہوا سرد ۱۳ و ۱۴ نومبر کو ہلکی بارش اور ژالہ باری ۷-۹-۱۱-۱۲-۱۳ نومبر کو بادل ہوا تیز چلیگی۔



## تقویم سیارگان

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | منگل گھٹا کے (۳) ۵۵-۲۲ |
| ۲ | |
| ۳ | سورج بسنت کے (۳) [illegible] شکر سواتی کے (۳) ۴۹-۱۳ |
| ۴ | |
| ۵ | |
| ۶ | شکر سواتی کے (۳) ۶-۴۳ |
| ۷ | سورج بسنت کے (۴) ۳۲-۳۸ |
| ۸ | منگل پورباپھالگنی کے (۱) ۱۱-[illegible] شکر بشاکھا کے (۱) ۲۳-۵۹ |
| ۹ | |
| ۱۰ | سورج چترا کے (۱) ۱۵-۵۰ شکر بشاکھا کے (۲) ۳۴-۱۰ |
| ۱۱ | |
| ۱۲ | بدھ بسنت کے (۱) ۵۷-۲۹ [illegible] |
| ۱۳ | سورج چترا کے (۲) ۲۹-۸ منگل پورباپھالگنی کے (۲) [illegible] |
| ۱۴ | |
| [illegible] | سورج چترا کے (۳) ۵-۳۵ بدھ [illegible] |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | منگل پورباپھالگنی کے (۳) ۷-۱۷ |
| ۱۹ | بدھ بسنت کے (۳) ۱۵-۳۸ |
| ۲۰ | سورج چترا کے (۴) ۱۱-۲۵ [illegible] |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | بدھ بسنت کے (۴) ۲۳-۱۳ |
| ۲۳ | سورج سواتی کے (۱) [illegible] |
| ۲۴ | منگل پورباپھالگنی کے (۴) ۳۴-۱۰ [illegible] |
| ۲۵ | شکر انورادھا کے (۳) ۴۷-۱۰ |
| ۲۶ | سورج سواتی کے (۲) ۵۷-۳۲ بدھ چترا کے (۲) ۹-۴۳ |
| ۲۷ | شکر انورادھا کے (۴) ۳۷-۵۵ |
| ۲۸ | بدھ چترا کے (۴) ۲۸-۵ |
| ۲۹ | منگل اترا پھالگنی کے (۱) ۳-۳۲ |
| ۳۰ | سورج سواتی کے (۳) ۱۱-۲۳ بدھ چترا کے (۲) [illegible] |
| ۳۱ | |

[illegible]



| ایام | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | طلوع آفتاب گھنٹہ منٹ | غروب آفتاب گھنٹہ منٹ | ملکی و مذہبی تیوہار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار | ۱ | ۱۵ | ۹ | ۲ | ۱۷ | [illegible] | [illegible] | کرتکا | ۵<br>۲۴ | [illegible] | ۴۳<br>۲۵ | | | ۲۸<br>۳۸ | ۵۵<br>۵۹ | ۲۶<br>۵۰ | ۶<br>۳۸ | ۵<br>۲۲ | |
| سوموار | ۲ | ۱۶ | ۱۰ | ۳ | ۱۸ | چوتھ | ۴۱<br>۴۲ | روہنی | [illegible] | [illegible] | ۱۶<br>۱۳ | مستھن | ۳۱<br>۱۵ | | | ۲۶<br>۴۵ | ۶<br>۳۹ | ۵<br>۲۱ | بدھ [illegible] میں غروب [illegible] |
| منگلوار | ۳ | ۱۷ | ۱۱ | ۴ | ۱۹ | پنچمی | ۳۴<br>۳۰ | آردرا | ۵۶<br>۲۱ | شو | ۹<br>۱۳ | | | | | ۲۶<br>۴۰ | ۶<br>۴۰ | ۵<br>۲۰ | |
| بدھوار | ۴ | ۱۸ | ۱۲ | ۵ | ۲۰ | چھٹ | ۳۹<br>۵۳ | پنربس | ۵۵<br>۳۱ | سادھیہ | [illegible] | کرک | ۳۳<br>[illegible] | ۴۳<br>۵۳ | | ۲۶<br>۳۵ | ۶<br>۴۱ | ۵<br>۱۹ | |
| ویروار | ۵ | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۲۱ | ستمی | ۳۱<br>۵۳ | پکھ | ۵۴<br>۸ | شبھ | ۴۳<br>۵۸ | | | | ۱۳<br>۵۳ | ۲۶<br>۳۰ | ۶<br>۴۲ | ۵<br>۱۸ | منگل کنیا میں ۴ - ۸ - ۳ بجے آیا |
| شکروار | ۶ | ۲۰ | ۱۴ | ۷ | ۲۲ | اشٹمی | ۳۱<br>۴ | آشلیکھا | ۵۸<br>۵۱ | شکل | ۵<br>۳۵ | سنگھ | ۵۸<br>۵۱ | | | ۲۶<br>۲۵ | ۶<br>۴۳ | ۵<br>۱۷ | آہوئی اشٹمی |
| سنیچروار | ۷ | ۲۱ | ۱۵ | ۸ | ۲۳ | نومی | ۳۱<br>۳۴ | مگھا | ۵۸<br>۱۰ | برہم | ۳۸<br>۱۰ | | | | | ۲۶<br>۲۰ | ۶<br>۴۴ | ۵<br>۱۶ | |
| اتوار | ۸ | ۲۲ | ۱۶ | ۹ | ۲۴ | دسمی | ۳۴<br>۳۰ | پوربا پھاگن | ۲۰<br>۰ | اندر | ۳۶<br>۵۱ | | | ۱۳<br>۳۳ | ۳۳<br>۳۰ | ۲۶<br>۱۸ | ۶<br>۴۵ | ۵<br>۱۵ | |
| سوموار | ۹ | ۲۳ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۵ | ایکادشی | ۳۳<br>۳۶ | اترا پھاگن | ۱<br>۳۳ | بیدھرت | ۴۷<br>۱۹ | کنیا | ۱۸<br>۱۴ | | | ۲۶<br>۱۰ | ۶<br>۴۶ | ۵<br>۱۴ | [illegible] ایکادشی |
| منگلوار | ۱۰ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۲۶ | دوادشی | ۳۵<br>۳ | ہست | ۷<br>۲۲ | وشکمب | ۳۶<br>۱ | | | | | ۲۶<br>۵ | ۶<br>۴۷ | ۵<br>۱۳ | |
| بدھوار | ۱۱ | ۲۵ | ۱۹ | ۱۲ | ۲۷ | ترودشی | ۵۵<br>۱۴ | چترا | ۱۲<br>۵۸ | پریت | ۴۷<br>۳۶ | تلا | ۳۵<br>۳ | ۵۵<br>۱۶ | | ۲۶<br>۰ | ۶<br>۴۸ | ۵<br>۱۲ | شکر [illegible] میں ۱۳ - ۵ - [illegible] بجے آیا [illegible] |
| ویروار | ۱۲ | ۲۶ | ۲۰ | ۱۳ | ۲۸ | چودش | ۲۰<br>[illegible] | سواتی | ۱۸<br>۱۰ | آیوشمان | ۳۸<br>۵۳ | | | | ۲۸<br>۶ | ۲۵<br>۵۵ | ۶<br>۴۹ | ۵<br>۱۱ | [illegible] چودش |
| شکروار | ۱۳ | ۲۷ | ۲۱ | ۱۴ | ۲۹ | اماوس | ۳۰<br>۳۳ | بشاکھا | ۲۴<br>۳۴ | سوبھاگ | ۵۰<br>۱۸ | | | | | ۲۵<br>۵۰ | ۶<br>۵۰ | ۵<br>۱۰ | دیپ مالا |
| سنیچروار | ۱۴ | ۲۸ | ۲۲ | ۱۵ | ۳۰ | پڑوا | ۵<br>۴۴ | انورادھا | ۳۱<br>۵ | شوبھن | ۵۱<br>۲۱ | برشچک | ۱۳<br>۴۳ | | | ۲۵<br>۴۵ | ۶<br>۵۱ | ۵<br>۹ | [illegible] ۳۳ |
| اتوار | ۱۵ | ۲۹ | ۲۳ | ۱۶ | قمر | [illegible] | ۱۰<br>۳۸ | جیشٹھا | ۳۷<br>[illegible] | اتیگنڈ | ۵۴<br>۴۹ | | | | | ۲۵<br>۴۰ | ۶<br>۵۲ | ۵<br>۸ | [illegible] |
| سوموار | ۱۶ | رمضان | ۲۴ | ۱۷ | ۲ | دوج | ۱۳<br>۴۴ | مول | ۴۱<br>۳۳ | سوکرما | ۵۱<br>۵۲ | دھن | ۱۳<br>۳۳ | | | ۲۵<br>۳۷ | ۶<br>۵۳ | ۵<br>۷ | بھائی دوج [illegible] - روزے شروع |
| منگلوار | ۱۷ | ۲ | ۲۵ | ۱۸ | ۳ | تیج | ۱۶<br>۵۵ | پورباکھاڑ | ۴۵<br>۴۲ | دھرت | ۵۰<br>۱۵ | | | ۲۸<br>۵۰ | | ۲۵<br>۳۲ | ۶<br>۵۴ | ۵<br>۶ | |
| بدھوار | ۱۸ | ۳ | ۲۶ | ۱۹ | ۴ | چوتھ | ۱۹<br>۳۹ | اتراکھاڑ | ۴۸<br>۵۳ | شول | ۴۸<br>۵۱ | | | | ۱۹<br>۲۹ | ۲۵<br>۲۸ | ۶<br>۵۴ | ۵<br>۶ | |
| ویروار | ۱۹ | ۴ | ۲۷ | ۲۰ | ۵ | پنچمی | ۲۰<br>۴۰ | شرون | ۴۹<br>۴۹ | گنڈ | ۴۵<br>۵۲ | مکر | ۳<br>۴ | | | ۲۵<br>۲۴ | ۶<br>۵۵ | ۵<br>۵ | سوبھاگیہ پنچمی |
| شکروار | ۲۰ | ۵ | ۲۸ | ۲۱ | ۶ | چھٹ | ۱۹<br>۳۸ | دھنشٹھا | ۴۹<br>۵۹ | بردھ | ۴۱<br>۵۳ | | | | | ۲۵<br>۲۰ | ۶<br>۵۶ | ۵<br>۴ | سنیچر مارگی ۷ - ۳ - ۵۹ |
| سنیچروار | ۲۱ | ۶ | ۲۹ | ۲۲ | ۷ | ستمی | ۱۸<br>۳۴ | شتبھشا | ۴۹<br>[illegible] | دھرو | ۳۹<br>۵۸ | کمبھ | ۱۹<br>۲۹ | ۱۷<br>۲۳ | ۳۷<br>۲ | ۲۵<br>۱۷ | ۶<br>۵۶ | ۵<br>۴ | پنچک شروع ۱۵ - ۲۹ |
| اتوار | ۲۲ | ۷ | ۳۰ | ۲۳ | ۸ | اشٹمی | ۱۳<br>۱۰ | پوربا بھادوں | ۴۷<br>۶ | بیاگھات | ۳۱<br>۱۵ | | | | | ۲۵<br>۱۳ | ۶<br>۵۷ | ۵<br>۳ | گوپال اشٹمی |
| سوموار | ۲۳ | ۸ | مگھر | ۲۴ | ۹ | نومی | ۹<br>[illegible] | اترا بھادوں | ۴۳<br>[illegible] | ہرکھن | ۲۳<br>۵۰ | مین | ۳۱<br>۲۷ | | | ۲۵<br>۱۲ | ۶<br>۵۷ | ۵<br>۳ | [illegible] نومی |
| منگلوار | ۲۴ | ۹ | ۲ | ۲۵ | ۱۰ | دسمی | ۵<br>۴۹ | ریوتی | ۳۰<br>۴۵ | وجر | ۱۴<br>۴۹ | | | | ۳۲<br>۴۲ | ۲۵<br>۱۰ | ۶<br>۵۸ | ۵<br>۲ | |
| بدھوار | ۲۵ | ۱۰ | ۳ | ۲۶ | ۱۱ | ایکادشی<br>دوادشی | [illegible] | اشونی | ۳۴<br>۱ | سدھ | ۱۰<br>۲۱ | میکھ | ۳۴<br>۶ | | ۴۳ | ۲۵<br>۹ | ۶<br>۵۸ | ۵<br>۲ | پنچک ختم ۳۷ - ۱<br>[illegible] ایکادشی [illegible] بھیشم |
| ویروار | ۲۶ | ۱۱ | ۴ | ۲۷ | ۱۲ | ترودشی | ۴۹<br>۲ | بھرنی | ۳۲<br>۳۷ | [illegible] | [illegible] | | | | | ۲۵<br>۸ | ۶<br>۵۸ | ۵<br>۲ | |
| شکروار | ۲۷ | ۱۲ | ۵ | ۲۸ | ۱۳ | چودش | ۳۰<br>۴۸ | کرتکا | ۲۶<br>۲۷ | پریگھ | ۳۶<br>۴۲ | برکھ | ۳۰<br>۵۹ | ۴۳<br>۴۳ | | ۲۵<br>۷ | ۶<br>۵۸ | ۵<br>۲ | بیکنٹھ چتردشی |
| سنیچروار | ۲۸ | ۱۳ | ۶ | ۲۹ | ۱۴ | پورنماشی | ۴۴<br>۳۰ | روہنی | ۲۳<br>۳۲ | شو | ۳۹<br>۹ | | | | ۱۴<br>۱۷ | ۲۵<br>۶ | ۶<br>۵۹ | ۵<br>۱ | [illegible] گنگا اشنان |
| اتوار | ۲۹ | ۱۴ | ۷ | قمر | ۱۵ | پڑوا | ۳۲<br>۲ | مرگشر | ۳۰<br>۵۳ | سدھ | ۳۱<br>۴۳ | متھن | ۲۹<br>۱۸ | | | ۲۵<br>۵ | ۶<br>۵۹ | ۵<br>۱ | [illegible] |
| سوموار | ۳۰ | ۱۵ | ۸ | ۲ | ۱۶ | دوج | ۲۷<br>۴۲ | آردرا | ۱۷<br>۴۳ | سادھیہ | ۲۳<br>۴۹ | | | ۵۵<br>۲۳ | | ۲۵<br>۳ | ۶<br>۵۹ | ۵<br>۱ | |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۷ نومبر کو بارش ہوئی - تو آئندہ بارش اچھی ہوگی - اگر ۸ نومبر کو بارش ہوئی - تو گھی کا نرخ گراں ہوگا - اگر ۹ - نومبر کو بارش ہوگئی تو آئندہ ماہ میں بارش خوب ہوگی - اگر ۱۰ نومبر رات کو بادل کی گرج و بارش ہوگئی تو ماہ ساون میں لوگ بارش کو ترسیں گے - اگر ۱۴ نومبر کو الکا پات ہوا تو لوگوں کو سخت تکلیف کا سامنا ہوگا - اگر ۱۵ نومبر کو سورج کے گرد ہالہ پڑا - تو تل و تیل گراں ہونگے - اگر ۱۷ نومبر کو بارش ہوگئی - تو فصل کے لئے مفید ہوگی - اگر ۱۹ نومبر کو بارش ہوئی - تو آئندہ بارش اچھی ہوگی - اگر ۲۵ نومبر کو مطلع صاف رہا - تو فصل کے لئے ناقص علامت ہے - اگر ۲۶ نومبر کو مطلع صاف رہا - تو آئندہ بارش کی قلت ہوگی - اگر ۲۹ - نومبر کو گرج و چمک ہوئی - تو نرخ غلہ ارزاں ہوگا ۔

## وقت تبدیلی سیارگان برج بہ برج

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | بدھ سواتی کے (۱) ۳۶-۵۰ |
| ۲ | سورج سواتی کے (۳) ۳۰-۵۱<br>شکر جیشٹا کے (۲) ۲-۳۵ |
| ۳ | بدھ سواتی کے (۳) ۲۱-۱۳ |
| ۴ | |
| ۵ | سورج بشاکھا کے (۱) [illegible] منگل [illegible] |
| ۶ | شکر جیشٹا کے (۳) [illegible] |
| ۷ | بدھ سواتی کے (۴) ۵۳-۱۱ |
| ۸ | شکر جیشٹا کے (۳) ۳۰-۱۹ |
| ۹ | سورج بشاکھا کے (۲) ۴-۵۰ |
| ۱۰ | [illegible] |
| ۱۱ | بدھ بشاکھا کے (۱) [illegible] |
| ۱۲ | سورج بشاکھا کے (۳) ۲۲-۵۵ |
| ۱۳ | بدھ بشاکھا کے (۳) ۲۸-۲۵ شکر مولا کے (۱) ۲۵-۳۵ |
| ۱۴ | |
| ۱۵ | سورج بشاکھا کے (۴) [illegible] منگل [illegible] |
| ۱۶ | شکر مولا کے (۲) ۴۰-۱۳ |
| ۱۷ | بدھ انرادھا کے (۱) ۱۲-۱۵ |
| ۱۸ | شکر مولا کے (۴) ۲۹-۲۱ |
| ۱۹ | سورج انرادھا کے (۱) ۰۰-۵۷<br>بدھ انرادھا کے (۲) ۳۳-۱۶ |
| ۲۰ | منگل ہست کے (۱) ۴۷-۴۹ |
| ۲۱ | بدھ انرادھا کے (۳) ۷-۳۲ شکر پورباکھاڑا کے (۱) ۱۲-۱۳ |
| ۲۲ | سورج انرادھا کے (۲) ۱۹-۳۸ بدھ انرادھا کے (۴) ۵۹-[illegible] |
| ۲۳ | |
| ۲۴ | بدھ جیشٹا کے (۱) ۵۷-۷ شکر پورباکھاڑا کے (۲) ۳۶-۲۳ |
| ۲۵ | سورج انرادھا کے (۳) ۳۳-۵ [illegible] |
| ۲۶ | [illegible] |
| ۲۷ | |
| ۲۸ | سورج انرادھا کے (۴) ۵۰-۳۲<br>بدھ جیشٹا کے (۳) ۱۲-۱۰ |
| ۲۹ | شکر پورباکھاڑا کے (۳) ۲۷-۵ |
| ۳۰ | بدھ جیشٹا کے (۴) ۴۸-۲۹ |

## تقویم سیارگان

[illegible]

نچھتر تحویل آفتاب بچھک راشی ۱۵ نومبر بوقت [illegible]

پن کال۔ اگلے روز ۱۲ بجے سے دوپہر تک

# پیشگوئی بابت ماہ مگھر

## ابتداء ۱۵ نومبر لغایت ۱۴ دسمبر

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز [illegible] جیشٹا نچھتر میں پرویش کرے گی۔ چونکہ [illegible] ہے۔ [illegible] اور شری [illegible] دونوں [illegible] ہیں۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ پیوستہ گراں ہی رہیگا۔ البتہ [illegible] کا بھاؤ گھٹیگا۔ [illegible] ارزاں اور گاہے گراں ہوتا ہے۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت کا نرخ کچھ گراں۔ سوتی کپڑا ارزاں۔ گرم کپڑا گراں ہوگا۔ چاول۔ نمک۔ کافور۔ دودھ۔ دہی۔ گھی کا نرخ تیزی پر چلا جاوے گا۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارا میرا کا نرخ کم و بیش ہوتا رہے گا۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ لال کپڑا۔ لاکھ۔ مجیٹھ۔ چندن۔ سونا اور سرخ رنگ کے پارچات گراں رہیں گے۔ حکیموں اور پنساریوں کا کام خوب چلیگا۔ ہر قسم کی دوائیں [illegible] رہینگی۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ چارہ۔ بھوسہ گراں رہیگا۔ موسم [illegible] بہت [illegible] ہے۔ جو کہ لوگوں کی صحت پر برا اثر ڈالیں گے۔ مغربی علاقہ میں کچھ بے چینی پھیلی رہے گی۔ لوگوں میں باہمی تنازعات ترقی کریں گے۔

## کرۂ فلک

حشرات الارض کی پیدائش زیادہ رہے گی۔ فصل کو نقصان پہنچے۔ بارش کم ہوگی۔ ۱۵ و ۱۶ نومبر کو ہوا سرد بادل۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱ نومبر کو کہیں کہیں بارش و ژالہ باری ہو۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰ نومبر کو بادل ہوا سرد اور خفیف بارش۔ یکم۔ ۳۔ ۵۔ ۶ دسمبر کو ہوا سرد خفیف بارش۔ ۹ و ۱۰ دسمبر کو آسمان ابر محیط۔ ۱۳ و ۱۴ دسمبر کو بادل و بارش ہوگی۔

[illegible]



| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ابتدا | انتہا | [illegible] | طلوع | غروب | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | گھری پل |  | گھری پل |  | گھری پل |  | گھری پل | گھری پل | گھری پل | گھری پل | گھنٹہ منٹ | گھنٹہ منٹ |  |  |
| منگلوار | ۱ | ۱۶ | ۹ | ۳ | ۱۷ | تیج | ۲۳/۲۴ | آردرا | ۱۳/۱۹ | شبھ | ۱۸/۳۴ | کرک | ۵۸/۴۳ |  | ۲۳/۲۲ | ۲۵/۳ | ۶/۵۹ | ۵/۱ |  | گنیش چوتھ |
| بدھوار | ۲ | ۱۷ | ۱۰ | ۴ | ۱۸ | چوتھ | ۲۰/۴۶ | پنربس | ۱۳/۵۱ | شکل | ۱۳/۵ |  |  |  |  | ۲۵/۲ | ۶/۵۹ | ۵/۱ |  |  |
| ویروار | ۳ | ۱۸ | ۱۱ | ۵ | ۱۹ | پنچمی | ۱۸/۳۳ | پکھ | ۱۳/۲۲ | برہم | ۸/۲۳ |  |  |  |  | ۲۵/۱ | ۶/۰۰ | ۵/۰۰ |  | بدھ دھن میں ۲۶-۴۲-۵۳ |
| شکروار | ۴ | ۱۹ | ۱۲ | ۶ | ۲۰ | چھٹھ | ۱۶/۵۴ | اشلیکھا | ۱۳/۳۲ | اینڈر | ۳/۳۸ | سنگھ | ۱۳/۳۲ | ۱۶/۵۴ | ۳۸/۱۵ | ۲۵/۰۰ | ۶/۰۰ | ۵/۰۰ |  |  |
| سنیچروار | ۵ | ۲۰ | ۱۳ | ۷ | ۲۱ | ستمی | ۱۸/۳۵ | مگھا | ۱۶/۵ | بیدھرت | ۱/۵۹ |  |  |  |  | ۲۴/۵۸ | ۶/۰۰ | ۵/۰۰ |  | شکر مکر میں ۱۳-۱۷-۲ پر آیا |
| اتوار | ۶ | ۲۱ | ۱۴ | ۸ | ۲۲ | اشٹمی | ۳۰/۳۷ | پوروا پھالگنی | ۲۱/۲۲ | بشکنبھ<br>پریتی | ۱۲-۰<br>[illegible] | کنیا | ۳۶/۱۳ |  |  | ۲۴/۵۶ | ۶/۰۰ | ۵/۰۰ |  | بھیرو اشٹمی |
| سوموار | ۷ | ۲۲ | ۱۵ | ۹ | ۲۳ | نومی | ۲۳/۴۹ | اترا پھالگنی | ۲۳/۵ | آیوشمان | ۵۹/۲۵ |  |  | ۴۵/۵۲ |  | ۲۳/۵۶ | ۶/۱ | ۴/۵۹ |  |  |
| منگلوار | ۸ | ۲۳ | ۱۶ | ۱۰ | ۲۴ | دشمی | ۲۶/۵۵ | ہست | ۲۹/۱۰ | سوبھاگ | ۶۰/۰۰ |  |  |  | ۲۴/۵۵ | ۲۳/۵۵ | ۶/۱ | ۴/۵۹ |  |  |
| بدھوار | ۹ | ۲۴ | ۱۷ | ۱۱ | ۲۵ | ایکادشی | ۳۳/۷ | چترا | ۳۰/۱۳ | سوبھاگ | ۰/۹ | تلا | ۳/۴۲ |  |  | ۲۳/۵۴ | ۶/۱ | ۴/۵۹ |  | اتپنا ایکادشی |
| ویروار | ۱۰ | ۲۵ | ۱۸ | ۱۲ | ۲۶ | دوادشی | ۳۸/۸ | سواتی | ۳۱/۳۳ | شوبھن | ۱/۱۸ |  |  |  |  | ۲۳/۵۳ | ۶/۱ | ۴/۵۹ |  | بدھ مغرب میں طلوع ۲۹-۴<br>شب قدر |
| شکروار | ۱۱ | ۲۶ | ۱۹ | ۱۳ | ۲۷ | ترودشی | ۳۳/۳ | بشاکھا | ۴۸/۹ | اتیگنڈ | ۲/۳۰ | برچھک | ۳۱/۱۵ | ۴۳/۳۳ |  | ۲۳/۵۲ | ۶/۱ | ۴/۵۹ |  | جمعۃ الوداع۔ قمر در عقرب ہوگا |
| سنیچروار | ۱۲ | ۲۷ | ۲۰ | ۱۴ | ۲۸ | چودس | ۳۸/۴۷ | انورادھا | ۵۴/۶ | سکرما | ۳/۵۲ |  |  |  | ۱۵/۴۹ | ۲۳/۵۱ | ۶/۱ | ۴/۵۹ |  |  |
| اتوار | ۱۳ | ۲۸ | ۲۱ | ۱۵ | ۲۹ | اماوس | ۵۲/۳۹ | جیشٹھا | ۴۹/۳۱ | دھرتی | ۳/۴۸ | دھن | ۴۹/۳۱ |  |  | ۲۳/۵۰ | ۶/۲ | ۴/۵۸ |  | برہسپت مغرب میں غروب ہوا |
| سوموار | ۱۴ | ۲۹ | ۲۲ | ۱۶ | ۳۰ | پڑوا | ۵۵/۳۴ | مول | ۶۰/۰۰ | شول | ۳/۴۹ |  |  |  |  | ۲۳/۴۹ | ۶/۲ | ۴/۵۸ |  |  |
| منگلوار | ۱۵ | ۳۰ | ۲۳ | ۱۷ | پوہ | دوج | ۵۴/۳۳ | مول | ۳/۸ | گنڈ | ۳/۵۳ |  |  |  |  | ۲۳/۴۸ | ۶/۲ | ۴/۵۸ |  | سورج دھن میں ۱۲-۱۰<br>چاند نظر نہ آیا۔ |
| بدھوار | ۱۶ | شوال | ۲۴ | ۱۸ | ۲ | تیج | ۵۰/۹ | پوروا کھاڑا | ۳/۳۰ | بردھ<br>دھرو | [illegible] | مکر | ۳۱/۵۸ |  |  | ۲۳/۴۷ | ۶/۲ | ۴/۵۸ |  | عید الفطر |
| ویروار | ۱۷ | ۲ | ۲۵ | ۱۹ | ۳ | چوتھ | ۵۶/۲ | اترا کھاڑا | ۸/۱۷ | بیاگھات | ۵۵/۱ |  |  | ۳۸/۳۴ | ۵۶/۲۵ | ۲۳/۴۶ | ۶/۲ | ۴/۵۸ |  |  |
| شکروار | ۱۸ | ۳ | ۲۶ | ۲۰ | ۴ | پنچمی | ۵۵/۲۵ | شرون | ۹/۳۲ | ہرکھن | ۵۱/۱۹ | کنبھ | ۳۸/۲۵ |  |  | ۲۳/۴۵ | ۶/۳ | ۴/۵۷ |  | پنچک شروع ہے ۳۸-۲۵ |
| سنیچروار | ۱۹ | ۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۵ | چھٹھ | ۵۲/۲۵ | دھنشٹھا | ۸/۴ | بجر | ۴۵/۴۹ |  |  |  |  | ۲۳/۴۴ | ۶/۳ | ۴/۵۷ |  |  |
| اتوار | ۲۰ | ۵ | ۲۸ | ۲۲ | ۶ | ستمی | ۴۸/۲۱ | شت بھکھا | ۶/۱۳ | سدھ | ۳۹/۴۸ | مین | ۴۹/۲۸ | ۳۸/۴۳ |  | ۲۳/۴۳ | ۶/۳ | ۴/۵۶ |  |  |
| سوموار | ۲۱ | ۶ | ۲۹ | ۲۳ | ۷ | اشٹمی | ۴۳/۱۳ | پوروا بھادرپد | ۳/۵۰ | بتی پات | ۳۲/۳۸ |  |  |  | ۱۴/۱۳ | ۲۳/۴۲ | ۶/۳ | ۴/۵۶ |  |  |
| منگلوار | ۲۲ | ۷ | دے | ۲۴ | ۸ | نومی | ۳۹/۱۲ | اترا بھادرپد<br>ریوتی | [illegible] | بریان | ۲۵/۳۳ | میکھ | ۵۶/۵۰ |  |  | ۲۳/۴۱ | ۶/۳ | ۴/۵۶ |  | پنچک ختم ۵۶-۵۰ |
| بدھوار | ۲۳ | ۸ | ۲ | ۲۵ | ۹ | دشمی | ۳۳/۱ | اسونی | ۵۱/۲۵ | پرگھ | ۱۶/۴۷ |  |  | ۴۹/۴۱ |  | ۲۳/۴۰ | ۶/۳ | ۴/۵۶ |  |  |
| ویروار | ۲۴ | ۹ | ۳ | ۲۶ | ۱۰ | ایکادشی | ۲۷/۳۰ | بھرنی | ۳۸/۳۳ | شیو | ۹/۵۶ |  |  |  | ۳۶/۳۰ | ۲۳/۳۹ | ۶/۴ | ۴/۵۶ |  | موکشدا ایکادشی |
| شکروار | ۲۵ | ۱۰ | ۴ | ۲۷ | ۱۱ | دوادشی | ۲۰/۵۹ | کرتکا | ۳۲/۲۸ | سدھ<br>سادھ | [illegible] | برکھ | ۵/۳ |  |  | ۲۳/۳۷ | ۶/۳ | ۴/۵۹ |  | منگل تلا میں ۴۶-۲۲ پر آیا |
| سنیچروار | ۲۶ | ۱۱ | ۵ | ۲۸ | ۱۲ | ترودشی | ۱۵/۹ | روہنی | ۳۰/۴۷ | شبھ | ۵۲/۲۴ |  |  |  |  | ۲۳/۳۶ | ۶/۳ | ۴/۵۴ |  | بدھ مکر میں ۳۰-۱۳ پر آیا |
| اتوار | ۲۷ | ۱۲ | ۶ | ۲۹ | ۱۳ | پورنماشی | ۱۰/۱ | مرگشر | ۲۵/۲۵ | شکل | ۳۹/۳۹ | متھن | ۹/۳ | ۱۰/۱ | ۳۶/۳۹ | ۲۳/۳۵ | ۶/۳ | ۴/۵۷ |  | پورنماشی برت |
| سوموار | ۲۸ | ۱۳ | ۷ | ۳۰ | ۱۴ | پڑوا | ۵/۱۴ | آردرا | ۳۳/۵۲ | برہم | ۳۳/۴ |  |  |  |  | ۲۳/۳۴ | ۶/۳ | ۴/۵۸ |  |  |
| منگلوار | ۲۹ | ۱۴ | ۸ | ماگھ | ۱۵ | [illegible] | [illegible] | پنربس | ۳۲/۱۰ | اینڈر | ۲۶/۲۱ | کرک | ۱۲/۱۵ |  |  | ۲۳/۳۱ | ۶/۴ | ۴/۵۸ |  |  |
| بدھوار | ۳۰ | ۱۵ | ۹ | ۲ | ۱۶ | تیج | ۴۷/۵۱ | پکھ | ۳۰/۲۸ | بیدھرت | ۲۲/۲۱ |  |  | ۳۸/۹ | ۴۹/۵۱ | ۲۳/۳۱ | ۶/۴ | ۴/۵۸ |  | شکر کنبھ میں ۳۰-۲۵ پر آیا |
| ویروار | ۳۱ | ۱۶ | ۱۰ | ۳ | ۱۷ | چوتھ | ۴۶/۱۴ | اشلیکھا | ۳۰/۵۸ | بشکنبھ | ۱۹/۴۳ | سنگھ | ۳۰/۵۸ |  |  | ۲۳/۵۳ | ۶/۴ | ۴/۵۸ |  | گنیش چوتھ |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۳ دسمبر کو بادل ہوئے۔ تو آئندہ بارش خوب ہوگی۔ اگر ۵ دسمبر کو آسمان ابر محیط رہے تو ماہ بیساکھ میں بارش کم غلہ کا نرخ گراں ہوجاوے۔ اگر ۸ دسمبر کو رات کے وقت بادل گرجا تو ساون بھادوں بارش سے خالی جاوینگے۔ اگر ۱۲ دسمبر کو بادل رہے۔ تو گھاس اور چارہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۲ دسمبر کو ایشان کون میں بادل ہوئے۔ تو بارش کی قلت ہوگی۔ اگر ۲۳ دسمبر کو بارش ہوگئی۔ تو آئندہ نرخ غلہ اعتدال پر ہوگا۔ اگر ۲۸ دسمبر کو آسمان پر بادل ہوں۔ تو ماہ چیت میں غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۹ دسمبر کو بادل رہا۔ تو ماہ اساڑھ میں بارش اچھی ہوگی +

[illegible] آفتاب [illegible] سنکرانت [illegible] ۱۲



بن کال ۱۲ - ۱۰ سے ۲۸ - ۱۰ تک

## پیشینگوئی بابت ماہ پوہ

ابتدائے ۱۵ دسمبر لغایت ۱۳ جنوری ۱۹۳۷ء

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بدھ منگلوار [illegible] پرویش ہوتی ہے جو کہ [illegible] ہوتی ہے۔ اور [illegible] سورج و برہسپت کا [illegible] یوگ ہے۔ اس سے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں ارزانی کی کوئی امید نہیں ہے۔ نرخ بدستور گراں رہیگا۔ غلہ خورد کا نرخ بھی تیز ہی ہوگا۔ [illegible] دہی کی قلت گھی گراں رہیگا۔ روئی کپاس۔ سن۔ سوت۔ اون۔ [illegible] تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ تورہیہ۔ تارامیرا کا بھاؤ بھی تیز ہی رہیگا۔ گڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ مسور [illegible] جیٹھی۔ چنے کے بھاؤ میں گرانی رہیگی۔ چاول نمک۔ چاندی۔ [illegible] کانسی وغیرہ کا بھاؤ بھی تیز رہیگا۔ سیاہ رنگ کی چیزیں [illegible] سیاہ رنگ کے [illegible] لوہا۔ [illegible] کا نرخ گراں ہوگا۔

موسم۔ سردی زیادہ پڑیگی۔ [illegible] چیچک وغیرہ کی وبا [illegible] بہت [illegible] کا ناش ہوگا۔

### کرۂ فلک

آسمان ابر آلود رہیگا۔ ہوا سرد زیادہ چلیگی۔ اور بعض بعض جگہ بارش بھی ہوگی۔ پہاڑی مقامات پر برف باری خوب ہوگی۔ ۱۵ و ۱۶ دسمبر کو آسمان ابر آلود اور بارش۔ ۲۵ لغایت ۲۸ دسمبر کو بادل ہوا سرد اور بارش [illegible] ۳۱ دسمبر کو بعض بعض جگہ بوندا باندی۔ یکم ۲ جنوری ۱۹۳۷ء کو بادل ہوا سرد۔ ۵ - ۶ - ۷ جنوری کو بادل اور بوندا باندی اور ۱۱ و ۱۲ جنوری کو بادل ہوا سرد اور بارش ہوگی۔

[illegible]



تقویم سیارگان

| | |
|---|---|
| ۱ | منگل ہست کے (۳) ۸ - ۵ - ۱۲ |
| ۲ | سورج جیٹھا کے (۱) [illegible] |
| ۳ | بدھ مولا کے (۱) ۲۲ - ۵۲ |
| ۴ | |
| ۵ | سورج جیٹھا کے (۲) ۲۲ - ۵۰ [illegible] |
| ۶ | |
| ۷ | منگل ہست کے (۴) ۲۹ - ۱۲ [illegible] |
| ۸ | سورج جیٹھا کے (۳) ۴۰ - ۵۶ |
| ۹ | برہسپت مولا کے (۴) ۵۳ - ۱۹ |
| ۱۰ | بدھ مولا کے (۲) [illegible] ۱۱ - ۲۸ |
| ۱۱ | سورج جیٹھا کے (۴) ۵۳ - ۱۰ [illegible] ۲۴ - ۲۴ |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | منگل چترا کے (۱) [illegible] |
| ۱۴ | |
| ۱۵ | سورج مولا کے (۱) ۱۷ - ۱۰ |
| ۱۶ | بدھ پوروا کھاڈا کے (۱) ۱۹ - ۸ [illegible] ۲۳ - ۱۰ |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | سورج مولا کے (۲) ۲۷ - ۳۴ |
| ۱۹ | بدھ پوروا کھاڈا کے (۲) [illegible] ۲۴ [illegible] ۱۰ |
| ۲۰ | منگل چترا کے (۲) ۴۴ - ۴۴ |
| ۲۱ | سورج مولا کے (۳) ۴۲ - ۴۹ |
| ۲۲ | شکر شروَن کے (۳) ۲۳ - ۲ |
| ۲۳ | بدھ اترا کھاڑا کے (۱) ۱۰ - ۵۵ |
| ۲۴ | سورج مولا کے (۴) ۵۰ - ۲ [illegible] |
| ۲۵ | منگل چترا کے (۳) ۴ - ۲۲ [illegible] |
| ۲۶ | بدھ اترا کھاڑا کے (۲) ۳۰ - ۱ |
| ۲۷ | شکر دھنشٹا کے (۳) ۴۲ - ۱۸ |
| ۲۸ | سورج پوروا کھاڑا کے (۱) ۱۲ - ۱۵ |
| ۲۹ | |
| ۳۰ | شکر دھنشٹا کے (۲) ۳۰ - ۲۵ |
| ۳۱ | سورج پوروا کھاڑا کے (۲) ۲۹ - ۳۴ [illegible] ۱۵ |

[illegible]

# مہورت

شبھ کاموں کے ابتدا کرنے کے لئے نیک وقت یعنی مہورت ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ جو صاحب مندرجہ ذیل اصول کے بموجب کوئی شبھ کام شروع کرینگے وہ کام سرانجام ہوگا۔

| مہورت | تتھ | یوم | نچھتر شبھ | کیفیت |
|---|---|---|---|---|
| نئے مکان میں پرویش کرنا | چوتھ - نومی - چودھش - اماوس نہ ہو | اتوار - منگلوار نہ ہو | مرگشر - ریوتی - چترا - انرادھا - اترا پھالگنی - اترا کھاڑ - اترا بھادرپد - روہنی - | جیٹھ - ماگھ - پھاگن - بیساکھ کا مہینہ ہو۔ سورج اترائن ہو۔ پانی ٹھہرا ہو۔ گرہ پرویش کے وقت سورج نچھتر سے ۵ خراب ۸ عمدہ - ۸ خراب پھر ۵ عمدہ ہو سکتے ہیں۔ |
| ملازمت کیلئے | | جمعہ شکر جمعرات بدھ | اشونی - پکھ - مرگشر - ریوتی - چترا - انرادھا - ابھجیت - ہست | سنگھ یا منگل لگن دسویں یا گیارھویں ہونا چاہئے |
| گھر میں اناج لانا | | منگل اتوار نہ ہو | اترا پھالگنی - اترا کھاڑ - اترا بھادرپد - پکھ - جیشٹھا - سواتی - شرون - روہنی - دھنشٹا - ست بھکھا | کرک - بریکھ لگن ہونا چاہئے۔ |
| بیمار کو غسل کرنا | چھٹ - نومی - چودھش نہ ہو | شکروار نہ ہونا چاہئے | مندرجہ ذیل نچھتروں کے علاوہ اور سب نیک ہیں۔ ریوتی - اترا پھالگنی - اترا بھادرپد - پنربس - اترا کھاڑ - روہنی - سواتی - اشلیکھا۔ | لگن چر نہ ہو۔ |
| سکول داخلے کیلئے | | سوائے منگل سنیچر کے سب دن نیک ہیں | ہست - اشونی - روہنی - پکھ - اترا پھالگنی - سواتی - پنربس - شرون - دھنشٹا - مولا - مرگشر - ریوتی - چترا - انرادھا - اترا کھاڑ - اترا بھادرپد | بچہ کے برس سے طاق برس ہو۔ سنگھ - برکھ - کنبھ کا سورج ہو۔ |
| بچہ کا نام رکھنا | ۲-۳-۵-۷-۱۰-۱۱-۱۳ پورن | | مرگشر - روہنی - پکھ - ریوتی - ہست - چترا - سواتی - انرادھا - شرون - اشونی - ست بھکھا - تینوں اترا | پرب نہ ہو۔ جنم سے گیارھویں یا بارھویں دن ہو |
| بیل یا درخت لگانا | | | بشاکھا - مولا - مرگشر - ریوتی - چترا - انرادھا - ست بھکھا - اشونی - پکھ - تینوں اترا اچھے ہیں | |
| خرید مویشی | ۲-۳-۵-۷-۱۰-۱۱-۱۳ پورنماشی | اتوار نہ ہو | اترا کھاڑ - اترا بھادرپد - پوربا کھاڑ - بشاکھا - روہنی - پنربس - پکھ — اترا پھالگنی | لگن استھر ہو۔ |
| فروخت مویشی | | | پوربا پھالگنی - پوربا بھادرپد - پوربا کھاڑ - بشاکھا - کرتکا - اشلیکھا | لگن کنبھ ہو۔ |
| دکان کھولنا | ۴-۹-۱۴ نہ ہو | | ریوتی - مرگشر - انرادھا - چترا - روہنی - ہست - اشونی - تینوں اترا۔ | لگن سے دوسرے - دسویں - گیارھویں لگن پر چندرما شبھ گرہ ہوں۔ لگن کنبھ ہو۔ |
| زمین جوتنا | ۴-۹-۱۴-۱۳ اماوس نہ ہو | | مولا - بشاکھا - سواتی - مگھا - پنربس - شرون - دھنشٹا - ست بھکھا - روہنی - مرگشر - چترا - انرادھا - ہست - اشونی - پکھ - تینوں اترا | سورج نچھتر ۳ خراب ۸ عمدہ ۵ خراب ۸ عمدہ۔ |
| بیج بونا | ۶ - ۱۲<br>۳ - ۱۴<br>نہ ہو | منگل سنیچر نہ ہو | مولا - مگھا - سواتی - دھنشٹا - اترا پھالگنی - اترا کھاڑ - اترا بھادرپد - ریوتی - مرگشر - روہنی - چترا - انرادھا - ہست - اشونی۔ | راہو نچھتر سے ۵ خراب ۸ عمدہ پھر ایک خراب ۳ عمدہ پھر ۲ خراب پھر ۳ عمدہ پھر ۳ نچھتر بیج بونے کے خراب ہیں۔ |
| فصل کاٹنا | ۴ - ۹<br>۱۴ نہ ہو | | مولا - جیشٹھا - آردرا - اشلیکھا - کرتکا - ہست - شرون - دھنشٹا - مرگشر - سواتی - چترا - پکھ - مگھا - تینوں اترا - پوربا بھادرپد - | برکھ - سنگھ - دھن - برچھک لگن ہو۔ |
| مونڈن کرنا | ۹-۱۴ اماوس نہ ہو | منگل سنیچر اتوار نہ ہو | اشونی - جیشٹھا - ریوتی - پکھ - شرون - دھنشٹا - پنربس - سواتی - مرگشر - چترا - ہست | جنم سے ۳-۵-۷ سال جائز ہیں۔ |
| کان چھیدنا | | منگل سنیچر اتوار نہ ہو | انرادھا - پنربس - پکھ - دھنشٹا - ریوتی - ہست - شرون - اترا بھادرپد - اترا کھاڑ۔ | |
| ناک بیندھنی | ۱۰-۱۱-۱۲ شکل پکش | منگل سنیچر نہ ہو | چترا - سواتی - ریوتی - پکھ - شرون - دھنشٹا - اشونی - مرگشر - ہست - پوربا کھاڑ - پوربا پھالگنی | سورج اترائن ہو لگن برکھ کنبھ مین ہو |
| بچہ کو مکتب بٹھانا | ۲-۳-۵-۱۰-۱۲-۱۳ شکل پکش | منگل سنیچر نہ ہو | ریوتی - اشونی - مرگشر - آردرا - پنربس - پکھ - شرون - دھنشٹا - چترا - سواتی - مولا - اشلیکھا | جنم سے پانچویں برس شبھ ہے۔ |
| کنواں یا تالاب بنانا | ۲ - ۵ - ۱۳<br>اماوس نہ ہو | اتوار منگل نہ ہو | پوربا کھاڑ - پنربس - پکھ - روہنی - مرگشر - شرون - دھنشٹا - ست بھکھا - اترا پھالگنی - ہست - چترا - مولا - سواتی - ریوتی - انرادھا - اشونی | جنم نچھتر سے ۵-۱۰-۱۷-۲۶ ان نچھتروں میں کنواں ... |
| علاج بیمار | ۸ - ۹<br>اماوس نہ ہو | اتوار منگل سنیچر نہ ہو | ریوتی - ہست - چترا - اشونی - پنربس - شرون - دھنشٹا - ست بھکھا - اترا پھالگنی - ہست - چترا - مولا - سواتی - ریوتی - انرادھا - اشونی | چندرما نیچ راشی کا نہ ہو۔ |
| سواری کا مہورت | ۱۲ شبھ ہیں | سوموار - بدھ - جمعرات - جمعہ وار ہو | شرون - انرادھا - تینوں اترا - روہنی - مرگشر - پنربس - پکھ - ہست - چترا - سواتی - اشونی۔ | |
| زیور بنانے کا مہورت | ۲-۳-۵-۱۰-۱۲ شبھ ہیں | اتوار بدھ جمعرات شکروار ہو | تینوں اترا - ریوتی - اشونی - شرون - دھنشٹا - ست بھکھا - مرگشر - پکھ - ہست - چترا - سواتی - روہنی - | |
| [illegible] | ۱۰-۱۲-۱۳ شبھ ہیں | اتوار منگل سنیچر وار ہو | کرتکا - روہنی - مرگشر - ہست - چترا - سواتی - بشاکھا - انرادھا - ریوتی - اشونی - شرون - دھنشٹا - ست بھکھا - پنربس - پکھ - تینوں اترا - | |
| حاکم کی ملاقات کرنا | ۲-۳-۵-۷-۱۰-۱۳ شبھ ہیں | منگل سنیچر نہ ہو | تینوں اترا - شرون - دھنشٹا - مرگشر - پکھ - انرادھا - ریوتی - اشونی - چترا - ہست - | |
| اناج بھرنا | ۱-۲-۳-۵-۱۳ شبھ ہیں | بدھوار اتوار شکروار شبھ ہیں | پنربس - مرگشر - ریوتی - انرادھا - شرون - دھنشٹا - ست بھکھا - چترا - سواتی - اشونی - پکھ - روہنی - تینوں اترا | |

# چند عجیب دوائیاں جن کی مثال کہیں دوسری جگہ نہ ملیگی!

## پاس رکھکر مشہوری حاصل کرو

### لڑکا ہی پیدا ہو ورنہ قیمت واپس

یہ ایک عجیب دوائی ہے حمل کے ۲ ماہ بعد تیسرے ماہ کے شروع میں ایک دن دودھ سے کھلائی جاتی ہے جس سے لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ عجیب بات جان کر کوئی شک کرے [illegible] ایسی ہزاروں اسناد موجود ہیں۔

### عرق بخار

[illegible] آپ کا عرق بخار [illegible] میری تعریف کو آپ سچا خیال نہ کریں تو میں کافی [illegible]

مکمل فہرست ادویات کا رنگدار ٹکٹ بھیجکر مفت منگوا سکتے ہیں۔

### پھولو پھلو

یہ سوکھیا مسان کی دوائی ہے۔ بچہ جب سوکھنا جاتا ہے۔ اس دوائی کو اسکی کمر پر ملا جاتا ہے۔ [illegible] رکاوٹ کی دواؤں سے کیڑے برآمد ہوئے تھے۔

### درد شکن

اس دوائی کی ایک ہی پڑیہ بچے کے کھانے سے پانچ منٹ کے اندر چاہے کسی قسم کا درد ہو [illegible] درد فوراً جاتا رہتا ہے [illegible]

مکمل فہرست ادویات کا رنگدار ٹکٹ بھیجکر مفت منگوا سکتے ہیں!

### گولی امرت

یہ گولیاں قبض، درد شکم، بدہضمی، [illegible] کیلئے اکسیر ہیں۔ قیمت [illegible] گولی امرت منگوائی تھیں۔ [illegible] فیصدی اکسیر پایا ہے۔

### ایس آئی

[illegible] مفصل ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔

امرت دھارا کے برابر دنیا میں کوئی عجیب دوائی نہیں ہے ایک ہی دوائی تقریباً کل امراض کو اکسیر ہے جسکو ہر وقت لاکھوں انسان استعمال کر کے فائدہ اٹھا چکے ہیں قیمت فی شیشی [illegible] نصف [illegible] نمونہ [illegible]

## ایک ضروری اطلاع

اگلے دو صفحوں میں ہم صرف ادویات کے نام اور اوصاف و قیمتیں درج کر رہے ہیں [illegible] مکمل فہرست [illegible] مفت منگوا کر اس کے مطابق علاج شروع کر دیں۔ یہ رسالہ طالب علم طلب نہ کریں۔

## خط و کتابت یا تار کیواسطے پتہ:۔ امرت دھارا ۵۶ لاہور

# لانبے لانبے گھنگریاں تے وچ سونے دی تار

## امرت دھارا مرہم

[illegible] امرت دھارا مرہم [illegible]

قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ

## امرت دھارا لوزنجز

بازاری مٹھائی بچوں کو نقصان دیتی ہے۔ امرت دھارا کی میٹھی گولیاں بچے مٹھائی کی طرح کھاتے ہیں اور امرت دھارا کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔

دھوئوں کے موقعہ پر اچھا تحفہ ہے۔ ناک [illegible] یا مرد [illegible] امرت دھارا کا فائدہ [illegible] کی امراض کو نافع۔ قیمت صرف ۴ فی ڈبیہ [illegible]

## امرت دھارا صابن

بازار میں طرح طرح کے صابن ملتے ہیں لیکن [illegible] کے واسطے [illegible] امرت دھارا [illegible]

قیمت [illegible]

## امرت دھارا

آزمائش کا زمانہ گذر چکا کوئی سمجھدار انسان اب ایسا نہیں جو یہ مانتا ہو کہ امرت دھارا کا ہر وقت ہر گھر بلکہ ہر جیب میں رہنا ضروری ہے ایک شیشی بذات خود ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے تمام درد اندرونی و بیرونی تمام زہروں کے اثرات اور ہیضہ انفلوئنزا ایسی زہریلی امراض تقریباً تمام جسمانی امراض پر معجزہ نما اثر رکھتی ہے جس نے ایک بار آزمایا ہمیشہ کے واسطے اپنا بنایا اور بہت سے خرچ تکلیف اور تشویش سے اپنے آپکو بچایا۔ باقی چھیوں اکسیروں میں امرت دھارا شامل ہے۔ اور سب امرت دھارا لاہور سے مل سکتی ہیں!

قیمت فی شیشی دو روپے آٹھ آنہ (عیہ)

نصف شیشی ایک روپیہ چار آنے (عہ)

نمونہ کی شیشی آٹھ آنہ (۸)

## امرت دھارا بام

امرت دھارا ملنے سے تمام دردوں کو آرام پہنچاتی ہے۔ اس کو دوسرے دافع درد تیلوں میں شامل کر کے امرت دھارا بام بنا دیا ہے جس سے ملنے میں سہولت ہو گئی ہے اور آزادی سے استعمال ہو سکتی ہے۔

قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ (عہ)

## امرت دھارا پھلیل

جو بھی خوشبو انسانوں کے واسطے نہایت صحت بخش دافع [illegible] پسینہ وغیرہ کے واسطے بدبو ہوتی ہے۔ امرت دھارا ایسے [illegible] اور خوشبودار خاص تیل ملا کر ایک امرت دھارا پھلیل تیل بنایا گیا ہے جس کے [illegible] حصے پر تھوڑا سا اس تیل کو لگا کر سونے سے آپ کو خوشبو کا لطف آئیں گا۔ مگر مچھر دور رہیں گے۔ ڈنگ نہ ماریں گے۔

قیمت فی شیشی آٹھ آنہ (۸)

## امرت دھارا لوشن

لاکھوں روپیہ کے غرارے کرنے یا ناک میں چڑھانے والے لوشن دوسرے ممالک سے ہندوستان میں آتے ہیں ہم غریب کے دلدادہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے گھر میں ان سے بہتر ایک چیز موجود ہے۔ ناک حلق کی امراض کو دور کرنے۔ زکام نزلہ کو ہٹانے کے واسطے بہترین لوشن ہے۔ اعلیٰ لوشنوں کی طرح [illegible] سب کام بھی دے گا۔

قیمت فی شیشی ایک روپیہ

## کرن جوانی

اس کے کھانے سے ہی دل و دماغ معدہ جگر گردہ مثانہ طحال۔ آنت اور باہ پر اچھا اثر ہونے لگتا ہے۔ جگر صاف ہو کر رنگ خوبصورت و سرخ ہونے لگتا ہے۔ زکام نزلہ کھانسی دور ہوتی ہیں۔ بھوک بڑھتی ہے جریان احتلام رقت وغیرہ دور ہو کر باہ بڑھنے لگتی ہے پیشاب کے کل نقائص دور ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں جوانی کی امنگیں اٹھنے لگتی ہیں۔ جوانوں کو اصل جوانی حاصل ہوتی ہے۔ نئی جوانی حاصل کرنے یا جوانی کے قائم رکھنے کے لئے بے نظیر ثابت ہوتی ہے۔ جوانی میں بال سفید ہوں، تو سیاہ ہو جاتے ہیں۔ قیمت ۴۴ گولی ایک روپیہ (عہ) ۱۰۰ گولی چار روپے (للعہ) خوراک ۲ گولی صبح ۲ گولی شام ہے +

خط و کتابت و تار کے لئے پتہ:۔ امرت دھارا (۵۶) لاہور

المشتہر

مینیجر امرت دھارا اوشدھالیہ، امرت دھارا بھون، امرت دھارا روڈ۔ امرت دھارا پوسٹ آفس لاہور

خط و تار کے لئے پتہ: امرت دھارا (۵۶) لاہور

# پنڈت جی کی تیار کردہ بیخطا ادویات جن سے ہزاروں مرد و عورت فائدہ اٹھا چکے ہیں

## ہر ایک دوائی کا نمونہ بھی دیا جاتا ہے۔ جو چاہیں اوّل نمونہ منگوا کر یقین کر لیں!

**اکسیر ۲۴ الف** یہ دوائی جریان کے واسطے اکسیر ہے۔ خواہ کسی وجہ سے ہو۔ نیز بدخوابی کو بھی نافع ہے۔ قیمت ۳۲ گولی دو روپیہ (عہ) نمونہ ۸ر

**اکسیر ۴۰** یہ دوائی بدخوابی کے واسطے ہے۔ غیر شادی شدہ طالب علموں کی حفاظت کرتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ (عہ) نمونہ چار آنے (۴ر)

**اکسیر ۲۲ جوبن جوش کن** تعریف نام سے ہی ظاہر ہے۔ قیمت پھر کر ایک گولی کھائیں سب کمیاں دور ہوں گی قیمت دو روپے۔ نمونہ ۴ر

**طلاء ۱** جس نے اپنے پاؤں آپ کلہاڑا مارا ہے۔ ان کے واسطے یہ عام طلاء ہے قیمت پانچ روپے (صہ) نمونہ ایک روپیہ چار آنے (عہ ۴ر)

**ابلاراحم (رجسٹرڈ)** کثرت حیض کی بیماری کسی قسم کی اور کسی سبب سے ہو اس سے آرام آتا ہے کوئی بے قاعدگی نہیں رہتی۔ قیمت دو روپے۔ نمونہ ۴ر

**سوہاوتی (رجسٹرڈ)** عورتوں کے سفید پانی جریان لیکوریا یا سیلان الرحم کی اکسیر دوائی قیمت عہ نمونہ ۱۲ر

**بال سکھ (رجسٹرڈ)** بچوں کی امراض ہیضہ قبض۔ سبز دست۔ کھانسی بخار وغیرہ کے واسطے بے نظیر دوائی ہے۔ قیمت ایک روپیہ (عہ) نمونہ ۴ر

**سارسا رشٹ مرکب** پرانا آتشک جب خون خراب کر دے۔ یہ دوائی خون صاف کر کے جسم کو کندن کرتی ہے۔ قیمت دو روپے۔ نمونہ ۶ر

**سوزو شاف (رجسٹرڈ)** سوزاک کی بے نظیر دوائی جلن سوزش وغیرہ اول ہی دن موقوف چند دن میں بالکل آرام آتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔ نمونہ ۴ر

**دوائی بواسیر ۳** خونی و بادی ہر قسم کی بواسیر کے واسطے بے نظیر ہے۔ سالوں کی بیماری دنوں میں دور۔ قیمت دو روپے۔ نمونہ ۴ر

**دوائی تلی ۲** تاپ تلی کے واسطے بے نظیر دوائی ہے۔ ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے قیمت فی شیشی دو روپے (عہ) نمونہ چار آنے (۴ر)

**آرام جان (رجسٹرڈ)** جن کو قبض دائمی رہتی ہے۔ وہ اس کو کھایا کریں۔ آہستہ آہستہ بیماری دور ہو جائے گی قیمت ۳۲ گولی ایک روپیہ۔ ۱۶ گولی ۸ر

**بلا دور** ان گولیوں سے افیون چھوٹ جاتی ہے سینکڑوں چھوڑ چکے ہیں قیمت فی شیشی ایک روپیہ آٹھ آنہ

**اکھ روشن** آنکھوں کی عام امراض دھند۔ جالا۔ پانی۔ خارش۔ سرخی وغیرہ کے واسطے مفید ہے۔ قیمت ۱۲ر نمونہ ۱ر

**کرن تیل** کان کی امراض۔ درد۔ پیپ۔ زخم۔ سنائی نہ دینا کمی سماعت کے واسطے بہت اعلیٰ تیل ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔ نمونہ ۴ر

**دنت سُسو (رجسٹرڈ)** اسنوار لینے سے ہلکی چھینک آ کے درد سر آدھا سیسی، داڑھ درد، کان درد، نزلہ، زکام وغیرہ دور ہوتے ہیں قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ۔ نمونہ ۴ر

**گبرس** داد کی لاثانی دوائی۔ نہ جلن نہ درد اور چند دن میں بیماری دور۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ) نمونہ چار آنے (۴ر)

**گولی کھانسی** منہ میں رکھ کر چوسنے سے کھانسی خشک ہو یا تر دور ہو جاتی ہے قیمت ۶۰ گولی صرف ایک روپیہ (عہ) نمونہ ۴ر

**ملیریا ناش** یہ سستی دوائی اس واسطے تیار کی ہے کہ ملیریا کے دنوں میں غریب لوگ بھی فائدہ اٹھا دیں۔ اور کونین کی ضرورت نہ رہے امیر لوگ منگوا کر مفت بانٹیں۔ قیمت ۲ تولہ ۸ر

**اُبٹن اچھت موہنی (رجسٹرڈ)** چہرے کے بدنما داغ کیل چھائیاں وغیرہ دور ہو کر چہرہ صاف ہوتا ہے۔ جھریاں نہیں پڑتیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ) نمونہ صرف ۴ر

**دل سُندری (رجسٹرڈ) حسن افزا** یہ تیل بھی چہرہ کو چمکاتا ہے بد داغ کیل وغیرہ کو دور کرتا ہے قیمت فی شیشی ایک روپیہ نمونہ ۴ر

**بال اڑانے کی بے نظیر دوائی** اس دوائی کو پانی میں گھول کر لگانے سے ایک ہی منٹ کے اندر بغیر تکلیف کے اور بغیر زخم جگہ کے بال صفائی کمال خوبی سے دور ہوتے ہیں قیمت فی ڈبیہ ۶ر نمونہ ۱ر

**منجن ۱** دانتوں کی امراض مثلاً خون جانا، درد دانت، ہلنا، بوئے دہن کو دور کرتا ہے۔ قیمت چار آنے ۴ر نمونہ ۱ر

**منجن ۲** خوشبودار دانتوں کی صفائی کے واسطے بنایا گیا ہے اسکے ملنے سے دانت موتیوں کی طرح ہو جاتے ہیں قیمت ۴ر نمونہ ۱ر

**باغ پھول تیل (رجسٹرڈ)** بالوں پر تمام تیلوں کا سرتاج ہے۔ بالوں کو نرم و ملائم کرتا ہے۔ بڑھاتا ہے۔ سر کو ٹھنڈا رکھتا ہے بینائی کو قائم رکھتا ہے۔ صرف خوشبو ہی نہیں مفید بھی ہے۔ قیمت فی شیشی بارہ آنے ۱۲ر

**کولبیری (رجسٹرڈ)** پاؤں کی بوائی پھٹی ہو یا ہاتھ پھٹ گئے ہوں اسکے استعمال سے بہت جلد آرام آتا ہے۔ قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ (عہ)

**پران سکھ (رجسٹرڈ)** چھاتیوں کو ڈھلکنے سے بچاتا ہے اور ڈھلکی چھاتیوں کو اصلی حالت پر لاتا ہے۔ قیمت [illegible] روپیہ نمونہ ایک روپیہ

خط و کتابت و تار کے لئے پتہ:- **امرت دھارا ۵۶ لاہور**

المشتہر

مینیجر امرت دھارا اوشدھالیہ، امرت دھارا بھون، امرت دھارا روڈ، امرت دھارا پوسٹ آفس۔ لاہور

خط و کتابت کے واسطے پتہ۔ امرت دھارا ۵۶ لاہور

# طبی کتب

[illegible] بیماری کے متعلق پہلی واقفیت [illegible] ذیل کی کتابیں [illegible] سے طلب کریں [illegible] یہ کتب کوئی اردو ہندی گورمکھی [illegible] اس سے پہلے دیسی مکمل کتاب اس مضمون پر [illegible]

**زچہ بچہ کے متعلق علمی و طبی تحقیقات** | [illegible] بچے کے متعلق پہلی واقفیت ہم پہنچائی گئی ہے [illegible] حمل تک کل بیان [illegible] کے متعلق کل بحث [illegible] ساتھ ہی [illegible] قیمت [illegible] ۱۰

**کیا ہم لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی پر پیدا کر سکتے ہیں؟** [illegible] خواہش پیدا کرنے کے متعلق [illegible] ڈاکٹری تحقیقات کا مفصل بیان قیمت اردو ۴ ہندی ۴ گورمکھی ۴ تیسرا ایڈیشن

**رسالہ وضع حمل** | یہ رسالہ ہر گھر میں [illegible] ہر عورت کا [illegible] واقف ہونا ضروری ہے۔ اس میں ۳۳ باتصویر [illegible] قیمت فی جلد [illegible] ہندی ۱۰

**علاج الاطفال** | پیدائش سے لیکر بارہ سال کی عمر تک بچوں کو جو امراض ہوتے ہیں ان کا کامل بیان [illegible] ہر قسم کے ڈاکٹری یونانی ویدک کے علاج درج ہیں اس کتاب کی مدد سے [illegible] علاج کر سکتے ہیں قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

**رسالہ قبض** | [illegible] اس رسالہ کے اندر معدہ و انتڑیوں کی تشریح قبض کی وجوہات [illegible] ان کا علاج ایسے طریق سے بیان کیا ہے کہ ہر خاص و عام [illegible] حکیم صاحبان یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں قیمت فی جلد اردو ۱۰ ہندی ۱۲

**رسالہ برہمچی** | جس میں برہمچی کا مکمل بیان [illegible] اور اس کے استعمال کے [illegible] طریقے لکھے گئے ہیں۔ قیمت اردو [illegible] ہندی ۱

**رسالہ سرعت** | [illegible] اس میں اس کی مکمل تشریح کی گئی ہے اور بعد مفصل علاج [illegible] نسخہ جات بھی [illegible] گئے ہیں [illegible] قیمت فی جلد اردو [illegible] ہندی ۶

**رسالہ طبی نیند و فلسفہ خواب** | اپنی طرز کا پہلا رسالہ ہے آج تک ہندوستان میں نہیں لکھا گیا [illegible] قیمت فی جلد اردو ۱۲ ہندی ایک روپیہ چار آنہ

**رسالہ زہروں کا علاج نمبر اول** | [illegible] زہروں کے علاج [illegible] یونانی ویدک [illegible] سانپ وغیرہ [illegible] قیمت اردو ۳ ہندی [illegible]

**رسالہ زہروں کا علاج نمبر دوم** | [illegible] شراب [illegible] افیون [illegible] علاج [illegible] قیمت فی جلد [illegible] ہندی [illegible] آنے

**رسالہ زہروں کا علاج نمبر سوم** | [illegible] بچھو بھڑ [illegible] چھپکلی اور دیگر زہریلے جانوروں اور حشرات الارض کا مفصل بیان اور ان کے کاٹے کا علاج درج ہے [illegible] قیمت ایک روپیہ چار آنہ

**رسالہ دردِ سر** | درد سر کی اقسام کا [illegible] ویدک یونانی اور ڈاکٹری [illegible] مفصل حالات و علاج درج ہیں۔ قیمت فی جلد اردو [illegible] ہندی ایک روپیہ چار آنہ

**رسالہ آتشک یا فرنگ** | [illegible] ویدک یونانی و ڈاکٹری [illegible] کی کل تشریح اسباب [illegible] علاج وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے [illegible] قیمت فی جلد اردو [illegible] ہندی [illegible]

**رسالہ سوزاک** | [illegible] ویدک یونانی اور ڈاکٹری کی کل تحقیقات [illegible] قیمت فی جلد اردو ۸ ہندی ۱۲

**روشن کمالات علم الاخلاق** | [illegible] قیمت فی جلد اردو ۱۲ ہندی [illegible] دوسرا ایڈیشن ۱۲

**اصطلاحات یونانی** | [illegible] قیمت فی جلد ۱۰

**اصطلاحات ویدک** | [illegible] قیمت ۹

**شودھن وودھی** | [illegible]

**علم و عمل کشتہ جات** | [illegible]

**رسالہ چیچک** | [illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

**سشرت کا ترجمہ حصہ اول** | [illegible]

[illegible] ہر شخص کو فائدہ اٹھانا چاہیے [illegible] قیمت [illegible]

**سشرت کا ترجمہ حصہ دوم** | [illegible] قیمت فی جلد [illegible]

**فزیالوجی یا علم افعال الاعضاء** | جس میں جسم انسانی کے [illegible] کام [illegible] قیمت فی جلد ۱

**شناخت نبض** | نبض کی پہچان ہر ایک حکیم وید اور ڈاکٹر کے واسطے ضروری ہے [illegible] قیمت فی جلد پانچ آنے

**ویدک کے مشہور مرکبات حصہ اول** | [illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

**گنج مجربات** | [illegible] قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ

**علاج المفردات** | [illegible] قیمت صرف ۱۲

**لغات ویدو یونانی** | [illegible] قیمت چار روپیہ

**گوشوارہ تشخیص الامراض** | [illegible] قیمت فی جلد [illegible]

**ادویات یا حصہ اول** | [illegible] قیمت [illegible]

**ادویات یا حصہ دوم** | [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنے

خط و کتابت و تار کے لئے پتہ:- امرت دھارا ۵۶ لاہور

المشتہر:- مینیجر امرت دھارا اوشدھالیہ۔ امرت دھارا بھون۔ امرت دھارا روڈ۔ امرت دھارا پوسٹ آفس۔ لاہور

# راس اور نچھتر معلوم کرنے کا نقشہ

ناظرین! دنیا کی تمام موجودات کو جوتشیوں نے اس نقشہ پر تقسیم کر دیا ہے۔ پس اپنی راس معلوم کرنے والے کو چاہیئے۔ کہ اپنے نام کا اول حرف اس نقشہ میں دیکھے۔ پس اس حروف کے اوپر جو راس لکھی ہے۔ وہی اس شخص کی راس ہوگی۔ اور جو نچھتر اس کے جانب دست لکھا ہے۔ وہی اس کا نچھتر ہوگا۔ مثلاً نام رام چند ہے۔ حروف اول جو ر ہے۔ تلا راس کے جانب راست نچھتر چترا کا ۳ چرن لکھا ہے۔ پس رام چند کی راس تلا اور نچھتر چترا ہے ⁎

| میکھ |  | برکھ |  | متھن |  | کرک |  | سنگھ |  | کنیا |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف |
| اشونی ۱ | چو चू | کرتکا ۲ | ای इ | مرگ شرا ۳ | کا का | پنربس ۴ | ہی ही | مگھا ۱ | ما मा | اترا پھالگنی ۲ | ٹو टो |
| ۲ | چے चे | ۳ | او उ | ۴ | کی की | پکھ ۱ | ہو हू | ۲ | می मी | ۳ | پا पा |
| ۳ | چو चो | ۴ | اے ए | آردرا ۱ | کو कु | ۲ | ہے हे | ۳ | مو मू | ۴ | پی पी |
| ۴ | لا ला | روہنی ۱ | او ओ | ۲ | گھ घ | ۳ | ہو हो | ۴ | مے मे | ہست ۱ | پو पू |
| بھرنی ۱ | لی ली | ۲ | وا वा | ۳ | نگ ङ | ۴ | ڈا डा | پوربا پھالگنی ۱ | مو मो | ۲ | ش ष |
| ۲ | لو लू | ۳ | وی वी | ۴ | چھ छ | اشلیکھا ۱ | ڈی डी | ۲ | ٹا टा | ۳ | ن ण |
| ۳ | لے ले | ۴ | وو वू | پنربس ۱ | کے के | ۲ | ڈو डू | ۳ | ٹی टी | ۴ | ٹھ ठ |
| ۴ | لو लो | مرگ شرا ۱ | وے वे | ۲ | کو को | ۳ | ڈے डे | ۴ | ٹو टू | چترا ۱ | پے पे |
| کرتکا ۱ | ا अ | ۲ | وو वो | ۳ | ہا हा | ۴ | ڈو डो | اترا پھالگنی ۱ | ٹے टे | ۲ | پو पो |

| تلا |  | برچھک |  | دھن |  | مکر |  | کنبھ |  | مین |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف | نچھتر چرن | حروف |
| چترا ۳ | را रा | بشاکھا ۴ | تو तो | مول ۱ | یے ये | اترا اکھاڑ ۲ | بھو भो | دھنشٹا ۳ | گو गू | پوربا بھادرپد ۴ | دی दी |
| ۴ | ری री | انورادھا ۱ | نا ना | ۲ | یو यो | ۳ | جا जा | ۴ | گے गे | اترا بھادرپد ۱ | دو दू |
| سواتی ۱ | رو रू | ۲ | نی नी | ۳ | بھا भा | ۴<br>ابھجت ۱ | جی जी<br>جو जू | شت بکھا ۱ | گو गो | ۲ | تھ थ |
| ۲ | رے रे | ۳ | نو नू | ۴ | بھی भी | ۲<br>۳ | جے जे<br>جو जो | ۲ | سا सा | ۳ | جھ झ |
| ۳ | رو रो | ۴ | نے ने | پوربا اکھاڑ ۱ | بھو भू | ۴ | کھا खा | ۳ | سی सी | ۴ | نیا ञ |
| ۴ | تا ता | جیشٹھا ۱ | نو नो | ۲ | دھا धा | شرون ۱<br>۲ | کھی<br>کھو | ۴ | سو सू | ریوتی ۱ | دے दे |
| بشاکھا ۱ | تی ती | ۲ | یا या | ۳ | پھا फा | ۳ | کھے | پوربا بھادرپد ۱ | سے से | ۲ | دو दो |
| ۲ | تو तू | ۳ | یی यी | ۴ | ڈھا ढा | ۴<br>دھنشٹا ۱ | کھو<br>گا | ۲ | سو सो | ۳ | چا चा |
| ۳ | تے ते | ۴ | یو यू | اترا اکھاڑ ۱ | بھے भे | ۲ | گی | ۳ | دا दा | ۴ | چی ची |

## بارہ راشیوں کے ماہواری حالات

اکثر معتقدان علم جوتش اس علم کے جاننے والوں سے اپنے نیک و بد حالات دریافت کیا کرتے ہیں۔ اس لئے مشہور عالم جنتری میں ہر سال بلحاظ گردش کواکب بارہ راشیوں کے مختصر حالات بمعہ کنڈلی گرہ و راسہائے نہایت آسان ترکیب سے درج کئے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر ہر ایک شخص اپنی راس کی گرہ چال اور اس کے نیک و بد پھل و پیش بغیر کسی جوتشی سے دریافت کئے معلوم کر سکتا ہے۔ اور ان نام نہاد جوتشیوں کے پھندوں سے بچ جاتا ہے۔ جو خواہ مخواہ اپنی مطلب براری کے لئے لوگوں کے سروں پر سنیچر و منگل کا بھوت سوار کر کے ان کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ مشہور عالم جنتری میں برابر چھبیس سال سے جاری ہے۔ جس کو پبلک نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ کہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو۔ ماہران علم جوتش نے کرہ فلک کے بارہ حصے کر کے ہر ایک حصہ کی ہر ایک راشی مقرر کر دی ہے۔ اور تمام مخلوقات عالم کو ان بارہ راشیوں پر تقسیم کر دیا ہے ہر ایک چیز کے نام کا پہلا حرف اس کی راشی پر دلالت کرتا ہے۔ جونکہ نقشہ بالا سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ جو صاحب اپنے حالات دیکھنا چاہیں۔ ان کو چاہیئے۔ کہ نقشہ مندرجہ بالا میں سے اپنے نام کے پہلے حرف سے اپنی راشی معلوم کر لیں۔ پھر اگلے صفحوں میں وہ مہینہ نکال کر اپنی گرہ چال اور نیک و بد حالات دیکھ لیں یہ امر واضح رہے۔ کہ یہ حالات سنکرانتی مہینہ کے حساب سے لکھے گئے ہیں۔ اور جس تاریخ تک درج ہیں۔ وہ بھی سنکرانتی مہینہ کی ہیں۔

## لابھ و خرچ سنہ ۱۹۳۶ء

یہ ایک مجمل طریقہ آمدن و خرچ دیکھنے کے لئے ہے۔ اس نقشہ سے سوائے اس کے کہ اس سال میں آمدن و خرچ کیسا رہیگا۔ اور کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ ناظرین کی دلچسپی کے لئے نقشہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے

## بارہ راشیوں کے مرد و عورت کا لابھ و خرچ کا نقشہ بابت سمت ۱۹۹۳ بکرم

| نام راس | میکھ | برکھ | متھن | کرک | سنگھ | کنیا | تلا | برچھک | دھن | مکر | کنبھ | مین | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لابھ | ۲ | ۱۱ | ۲ | ۱۱ | ۱۴ | ۲ | ۱۱ | ۲ | ۱۴ | ۸ | ۸ | ۱۴ | مردوں کیلئے |
| خرچ | ۱۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۱۴ | ۲ | ۵ | ۵ | ۲ |  |
| لابھ | ۸ | ۲ | ۵ | ۱۴ | ۲ | ۵ | ۲ | ۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۱ | عورتوں کیلئے |
| خرچ | ۱۴ | ۸ | ۵ | ۲ | ۱۴ | ۵ | ۸ | ۱۴ | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۵ |  |

**طریقہ۔** اپنی راس کے اعداد لابھ و خرچ کو جمع کر کے ایک کم کر دو۔ اور باقی کو ۶ پر تقسیم کرو۔ اگر باقی ۱ یا ۲ یا ۳ رہیں۔ تو آمدنی زیادہ۔ اگر ۴ یا ۵ رہیں۔ تو خرچ زیادہ۔ اگر پوری تقسیم ہو۔ تو وہ سال آمدنی کے لئے نہایت منحوس خیال کرنا چاہیئے۔

## بارہ راشیوں میں بعض کیلئے سمت ۱۹۹۳ بکرم میں گرہوں کی نحس تاثیر

سمت ۱۹۹۳ بکرم میں سنیچر کنبھ راشی میں ہی رہیگا۔ اس لئے مکر کنبھ و مین راشی والوں کو ناقص ہے۔ بسبب خرابی دھن کی مالی فکر و تشویش ہوگی۔ راہو دھن میں کیتو متھن راشی میں رہیگا۔ اس لئے راہو۔ مکر۔ برکھ۔ کنیا اور کیتو میں کرک برچھک راشی کو ناقص پھل کریگا۔ کاروبار میں نقصان۔ خسر بیروزگی اور دل کو بے چینی رہیگی۔

## گرہوں کی نحوست

اکثر لوگ گرہوں کی نحوست کو پوجن وغیرہ سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ غلطی کرتے ہیں۔ کیونکہ گرہ اپنی مقررہ میعاد سے پیشتر اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ اور اپنا پھل ضرور کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دان سے کلیان ہوتی ہے۔ اس لئے ایسے وقت میں غریبوں اور محتاجوں کو دان دو۔ تاکہ ان کی دعا سے غیب سے تمہاری مشکل آسان ہو۔

# بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ براسئے ثابت ماگھ سمت ۱۹۹۲ بکرم

### میکھ



کاروبار میں کشائش - دھن کا لابھ ہو راج دربار میں مان - عزت مرتبہ بلند - نقل وحرکت زیادہ کرنی پڑے بھائیوں کا لابھ صحت خراب اور دیانت میں دھن کا خرچ - دھرم کے کاموں میں ہانی ہو - اس ماہ کی ۱۴-۱۸-۲۴-۲۶ تاریخ خراب ہے

### برکھ



کاروبار مدھم - آمدن کم خرچ زیادہ ہے راج دربار میں ترقی مرتبہ - عورت سے محبت زیادہ اولاد سے سکھ ملے - کسی مایوس امید میں کامیابی - صحت بھی اچھی ہے - کوئی خوشی کی خبر ملے - اس ماہ کی یکم ۲-۵-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے -

### متھن



کاروبار میں نقصان - دھن کی ہانی ہو سفر میں جانے سے جھگڑا اور صحت خراب ہو جاتی ہے - دشمنوں سے تکلیف پہنچے - عورت سے جھگڑا کریں درد دل کا فکر تشویش لگی رہے - رنج پہنچے اس ماہ کی ۴-۱۳-۱۴ تاریخ خراب ہے -

### کرک



کاروبار میں کشائش - دھن کا لابھ ہو گا - گو خرچ بھی بہت ہو جاویگا - سفر پیش آئے - عورت بیمار - اولاد کی طرف سے شکستہ رہے - پیٹ میں تکلیف - دشمن تو بہ و میں کسی جگہ سے ہانی ہو - اس ماہ کی ۴ و ۷، ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ تاریخ خراب ہے -

### سنگھ



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ ہو - دشمن ناش - کوئی خوشی کی خبر ملے - عورت بیمار ہو اور اس سے جھگڑا ہو جائے - بیماری میں دھن کا خرچ - اولاد کی طرف سے فکر والدین کو کشٹ ہو - دل کو خوف لگا رہے اس ماہ کی ۹-۱۱-۱۲-۳۰ تاریخ خراب ہے -

### کنیا



کاروبار میں دھن کا لابھ - علم و عقل کی ترقی - بھائیوں سے محبت اور ان سے فائدہ پہنچے - دشمن ناش - سفر میں جانے سے رنج پہنچے - اولاد کو کشٹ - درد سر سے تکلیف - مایوس امیدیں کامیابی - اس ماہ کی ۳-۱۲-۲۱-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے

### تلا



کاروبار میں رکاوٹ - دھن کی ہانی ہو والدین سے رنجش - سفر میں جانے سے مایوسی آنکھوں میں روگ - کوئی کام بگڑ جاوے نقصان ہو - اولاد کو کشٹ - بھائیوں کی امداد ملے - صحت خراب رہے - اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۳-۱۹ تاریخ خراب ہے -

### برچھک



کاروبار میں ترقی - دھن لابھ - آمدن ذریعہ مال ہو - دشمن ناش - دلی مراد میں کامیابی - راج دربار کے کاموں میں کامیابی - عورت سے محبت - صحت اچھی رہے - والدین کو کشٹ ہو - اس ماہ کی ۱۶-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے -

### دھن



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ اچھا ہو گا - لیکن خرچ بھی بہت ہو جاویگا آنکھوں میں روگ - بھائیوں سے جھگڑا - عورت سے رنجش - دشمنوں سے نقصان پہنچے - دل کو خوف لگا رہے - اس ماہ کی ۱۵-۱۶-۱۸-۲۱ تاریخ خراب ہے

### مکر



کاروبار میں ہانی - دھن کا لابھ ہو - سفر میں جانے سے بیماری ہو جائے - عورت کی صحت خراب رہے - راج دربار میں عزت ملے مراد پوری ہو - دشمنوں کا فکر لگا رہے - درد سر سے تکلیف ہو - اس ماہ کی ۶-۷ ۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے

### کنبھ



کاروبار مدھم - دھن لابھ تھوڑا ہو گا کچھ بیماری ہو جائے - اولاد کی طرف سے فکر - دشمنوں کا خوف لگا رہے نزلہ و زکام سے سر میں درد ہو - اور دیانت میں دھن کا خرچ زیادہ رہے اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۱-۱۷ تاریخ خراب ہے -

### مین



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ - خرید و فروخت کے کاموں میں فائدہ ہو - دشمن مغلوب - دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ لگا رہے - سفر میں جانے سے رنج و بیماری ہو جاوے - عورت سے میل ملے - اس ماہ کی ۱۳-۱۴-۲۰-۲۵ تاریخ خراب

# تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

**پیارے ناظرین!** مشہور عالم جنتری میں ہر سال گلزار کے نئے نئے مضامین کا اندراج ہوتا چلا آتا ہے - یہ فالنامہ جو ان کالموں میں درج ہوتا چلا آتا ہے نہایت مفید اور عجیب غریب ہے - جس کے بدون امداد دیگرے ہر ایک شخص خود بخود اپنے مطلب اور امورات خیر و شر کو دیکھ سکتا ہے - جس کا نتیجہ بالکل درست نکلتا ہے - اس لئے اس فالنامہ کا ہمیشہ کے لئے مشہور عالم جنتری میں درج ہونا ضروری ہے - یہ فالنامہ علماء و متقدمین علم آنکر نے ایسے طریق پر استخراج کیا ہے - کہ جس سے ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے - اور وہ تمام نہاد جوتشیوں کے ڈھکوسلوں سے بچ نکلتا ہے - اس لئے اس کا اندراج شائقین کی فرمائش سے ہر سال کیا جاتا ہے - اور ساتھ ہی اس کے یہ بتلا دینا ضروری ہے - کہ ہم نے اس فالنامہ کو کتاب کی صورت میں علیحدہ بھی چھاپ دیا ہے - جو معمولی سی قیمت پر کارخانہ سے درخواست کرنے پر مل سکتا ہے -

## فالنامہ دیکھنے کا طریقہ

یہ قرعہ ہفت دھات کا شرف آفتاب یا زہرہ یا مشتری کی ساعت بروز جمعہ یعنی شکروار یا قمر تا ثیر النور میں اس طرح سے بنوالیں - کہ اسکے تین خانے کے چاروں طرف حرف (ا ب ج د) کندہ کرالیں اور پھر تینوں دانوں کو ایک آہنی تار میں اس طرح پرو دیں کہ وہ گردش کر سکیں جن کی صورت حسب ذیل ہے -



پس جب کبھی امر نیک و بد کے نتیجہ کو دیکھنا ہو - تو بصدق دل یکسوئی قلب سے اس کو ہاتھ میں لیکر اپنے مطلب کو مد نظر رکھ کر اس کو گردش دیکر کسی تختی یا ہموار جگہ پر ڈال دیں - اور دیکھیں کہ اس کے اوپر کون کونسا حرف آیا ہے - جو حروف آئے ہوں - انکو بالترتیب جنتری کے ان کالموں میں دیکھیں وہ درج کئے ملینگے پس ان حرفوں کے زیر جو شرح لکھا ہے انکو دیکھ لیں

## رفع تکلیف

مشہور عالم جنتری کے ناظرین کو قرعہ تیار کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی ہے - پس جن احباب کو خود بخود بنوانا مشکل معلوم ہو - ان کی رفع تکلیف کیلئے یہ قرعہ تیار کرائے گئے ہیں جن کی قیمت ۸ روپے اور محصول ڈاک بذمہ خریدار ہے - پس درخواست بھیجکر پتہ ذیل سے منگالیں -

ملنے کا پتہ

**منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

# بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ اسپھٹ بابت ماہ پھاگن سمت ۱۹۹۲ بکرم

## میکھ



کاروبار میں دھن کا لابھ ہوگا - راج دربار میں مان - مرتبہ بلند - بھائیوں سے فائدہ پہنچے - نقل و حرکت زیادہ کرنی پڑے - دشمن مغلوب - بلغمی امراض سے تکلیف پہنچے - دل رنجیدہ رہے - اس ماہ کی ۱۶-۱۷-۱۹-۲۵ تاریخ ہے -

## برکھ



کاروبار میں کشائش - دھن کا لابھ ہو - مگر خرچ بہ نسبت آمدن کے بڑھ جائے - راج دربار سے مان اولاد سے سکھ ملے - عورت سے محبت بڑھے - دھرم کے کاموں میں ہانی ہو - پیٹ میں تکلیف ہو - اس ماہ کی ۲۲-۲۷ تاریخ خراب ہے -

## متھن



کاروبار مدہم - دھن کا لابھ کم ہو - دشمنوں سے تکلیف پہنچے - سفر میں جانے سے جھگڑا - دھن کی ہانی اور صحت جسمانی بگڑ جائے - عورت سے کلیش - پیٹ میں روگ ہو - اس ماہ کی ۳-۱۱-۱۲-۳۰ تاریخ خراب ہے -

## کرک



کاروبار میں کشائش - دھن کا لابھ ہو - اولاد کی طرف سے سکھ ملے - دشمنوں سے تکلیف - دل کو فکر لگا ہے - عورت سے سلوک - مو کسی مایوس امید میں کامیابی ہونے سے دل کو خوشی ہو - اس ماہ کی ۵-۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تاریخ خراب ہے -

## سنگھ



کاروبار مدہم - دھن کا لابھ معمولی ہو - دشمنوں کی طرف سے دل کو خوف لگا ہے - عورت سخت بیمار رہے - اولاد سے رنجش - ودیا میں دھن کا خرچ - اولاد کا فکر پڑے - پیٹ میں روگ ہو - اس ماہ کی ۷-۹-۱۰-۲۰ تاریخ خراب ہے -

## کنیا



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ ہوگا - دشمن ناش - راج دربار میں کامیابی - عورت سے شکوہ - اولاد کی طرف سے خوشی حاصل ہو - صحت اچھی ہے - سفر میں جانے سے رنج پہنچے - اس ماہ کی ۱۰-۲۰-۲۱-۲۴ تاریخ خراب ہے -

## تلا



کاروبار مدہم - دھن کا لابھ کم ہوگا - مدعی چین ہے - کوئی بنا بنایا کام بگڑ جائے - عورت سے سکھ ملے - بھائیوں سے امداد - اولاد کو کشٹ اور فکر لگا رہے - آنکھوں میں درد کی شکایت - اس ماہ کی ۷-۸-۱۱-۱۵ تاریخ خراب ہے -

## برچھک



کاروبار مدہم - دھن کا لابھ نہ ہو - خرچ بہ نسبت آمدن کے بڑھا رہے - والدین سے رنجش - دشمن پیدا ہو جاویں - جھگڑے سے ہانی - نزلہ و زکام سے کچھ تکلیف ہو - اس ماہ کی ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ تاریخ خراب ہے -

## دھن



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ - دور دل سے دشمن ناش - دل کو خوشی ہو - سے کچھ جھگڑا اور رنج پہنچے - عورت سے رنج - راج دربار میں مان بڑھے - کسی دوست کا ملاپ ہو - اس ماہ کی ۱۲-۱۵-۱۷-۱۸ تاریخ خراب ہے -

## مکر



کاروبار میں نقصان - دھن کی ہانی - آمدن کم - خرچ زیادہ رہے - کسی جگہ سے تہمت لگا کر بے عزتی ہو - آنکھوں میں روگ - دشمنوں کا خوف - دل کو رنج پہنچے - اس ماہ کی ۱۸-۲۵-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے -

## کنبھ



کاروبار میں رکاوٹ - دھن کی ہانی - سفر میں جانے سے زیر باری - اولاد کی طرف سے رنج - پیٹ درد سے - پسلی سے تکلیف - دشمنوں سے دہشت ہو - اچانک مصیبت پیش آوے - اس ماہ کی ۷-۸-۱۷ تاریخ خراب ہے -

## مین



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ ہو - راج دربار میں مان - مرتبہ بلند - دلی امیدوں میں کامیابی - دشمن سے آزار - سفر میں جانے سے رنج - زیر باری ہو - عورت سے سکھ ملے - اس ماہ کی ۱۱-۱۴-۱۷-۲۲ تاریخ خراب ہے -

# تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

## قرعہ اشکال حروفی

### ا ا ا

خوش قسمتی کا ایک نشان ہے - روزگار میں ترقی اور مایوس امیدوں میں کامیابی ہوگی - اگر یقین نہ ہو تو دیکھو تمہارے داہنے پاؤں پر تل کا نشان ہے -

### ا ب ا

جس چیز کی یاد میں حیران ہو - وہ جلد ملے گی - اور خواہش تمہاری جلد پوری ہوگی - فکر مت کرو - اور اس کی صداقت کے لئے تمہاری داہنی آنکھ کے اوپر کی طرف ایک نشان ہے -

### ا ج ا

تمہارا کام آسان ہوگا - دشمنوں کی تکلیف دور ہوگی - یہ سال تمہاری امیدوں کی بہتری کے لئے مبارک ہے - کسی عورت سے تم کو محبت ہوگی اور گئی ہوئی چیز مل جائیگی - یقین نہ ہو - تو دیکھ لو تم کو استقلال نہیں -

### ا د ا

کاروبار میں ترقی - آمدن اچھی ہوگی - تجارت میں فائدہ ہوگا - جسم کی تکلیف دور ہوگی - دشمن دور ہونگے - یقین جان لو کہ ایک ماہ کے بعد تم کو فائدہ ہوگا - تصدیق یہ ہے - کہ تمہاری عورت سے محبت نہیں ہے -

### ب ا ا

کارج سدھ ہوگا - سفر سے فائدہ ہوگا - دل کا فکر کچھ روز کے بعد دور ہوگا - کسی عزیز سے ملاقات ہونے والی ہے - بیوپار سے لابھ ہوگا - نشان یہ ہے - کہ تمہاری عورت تم کو بخشش دیتی ہے -

### ب ب ا

تم ایک سال سے حیرانی و پریشانی میں ہو - اور سخت تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں - اب وقت بہتری کا آگیا ہے - اس لئے تمہارا فکر دور ہوگا - نشان یہ ہے - کہ تم دس سال کی عمر میں پانی میں ڈوب گئے تھے -

### ب ج ا

تم کو تکلیف ہے - جس سے نیکی کرتے ہو اس کا بدلہ بدی ملتا ہے - عورت کی طرف تمہارا خیال بہت رہتا ہے - چند یوم میں تمہارا مطلب پورا ہوگا - نشان دیکھو - تمہارے سر میں اکثر درد کی شکایت رہتی ہے -

### ب د ا

تم کو کسی جگہ سے لابھ کی امید ہے - وہاں سے کام ہونا مشکل ہے - مگر ایک دوست کی مدد سے کچھ صورت بہتری کی ہوگی - یقین

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ رسہائے ماہ بابت چیت سمت ۱۹۹۲ بکرم

### میکھ



کاروبار میں دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں عزت بڑھے۔ عہدہ کی ترقی بھائیوں سے فائدہ پہنچے۔ اسراف بلغمی سے تکلیف۔ دل کو فکر۔ اولاد میں خرچ زیادہ ہو۔ رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ دشمن مغلوب۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند۔ عورت سے محبت زیادہ صحت میں فتور۔ ہوا سے تکلیف بیماری میں دھن کا خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۲۲-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ راج دربار سے مان۔ دھرم کے کاموں میں توجہ زیادہ رہے۔ عورت سے محبت۔ نقل و حرکت زیادہ کرنی پڑے صحت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۶-۹-۱۰-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ اولاد سے سکھ ملے۔ دشمنوں کا خوف لگا رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ پیٹ میں روگ۔ دل کو رنج بیماری میں دھن کی ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۲-۱۰-۲۲-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں کشاکش لیکن دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ والدین سے محبت سفر میں جانے سے صحت خراب اور جھگڑا پیش آئے۔ عورت سے سکھ ملے۔ اولاد کا فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۴-۷-۸-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار مدھم۔ دھن لابھ کم۔ خرچ زیادہ رہے۔ عورت کی صحت خراب۔ دشمنوں سے آزار۔ اور دل کو خوف لگا رہے۔ سفر میں رنج درد گردہ سے تکلیف۔ پیٹ میں پیڑا ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۵-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہو۔ مگر قرض بھی بہت بڑھتا ہے۔ دشمن مغلوب اولاد کو کشٹ۔ بھائیوں سے دھن لابھ۔ دھرم کے کاموں میں دل نہ لگے۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۴-۵-۸-۱۱ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار مدھم۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ دھن کی ہانی ہو۔ امیدوں میں ناکامی۔ کوئی کام بگڑ جائے۔ عورت سے کلہ اولاد سے رنج و فکر۔ والدین کو کشٹ بلغمی و بادی روگ سے صحت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۵-۱۶ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار معمولی۔ آمدن خرچ برابر رہے والدین سے رنجش۔ آنکھوں میں روگ دشمن پیدا ہو جاویں۔ سفر میں جانے سے نقصان۔ دھن ہانی۔ عورت سے جھگڑہ بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ دشمن ناش۔ بھائیوں سے کچھ رنجش رہے کسی امید میں کامیابی۔ دل کو خوشی ہو۔ صحت کچھ خراب رہے۔ بیماری میں دھن کا خرچ زیادہ۔ زیر باری ہو۔ اس ماہ کی ۱۶-۲۲-۲۳ تاریخ نحس ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں ترقی۔ زر و مال کی آمد ہو لیکن خرچ بھی بہت ہو جاوے۔ اولاد کی طرف سے فکر و اندیشہ۔ کسی جگہ سے بے عزتی ہو۔ دھن ہانی۔ بیماری پر خرچ زیادہ تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۴-۵-۱۳-۱۸-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں دھن کی ہانی۔ لابھ کم ہو۔ سفر میں جانے سے نقصان پہنچے۔ پھوڑا پھنسی۔ فساد خون سے تکلیف۔ آنکھوں میں روگ۔ خوف۔ دشمن سے آزار پہنچے۔ عورت بیمار رہے۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۷-۲۱ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

نہ ہو۔ تو دیکھو۔ تمہاری داہنی آنکھ پر تل ہے۔

### ج ا ا

وقت تو اچھا آگیا ہے۔ زمین کا لابھ ہوگا۔ سفر کا خیال ہو۔ تو جاؤ فائدہ ہوگا۔ مگر اولاد کا فکر ہے۔ کہ عورت کی طرف جو چنتا کرتے ہو۔ وہ دور ہوگی۔ کیونکہ تمہاری استری بہت ہوشیار ہے۔

### ج ب ا

اے صاحب فال! تیرا زمانہ بہت ناقص ہے۔ جس کام کو تو کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر دیکھو۔ پانچ ماہ کے بعد تیری بہتری کی سبیل نکل آئیگی۔ اگر یقین نہ ہو۔ تو دیکھ لے۔ تیری طبیعت اداس ہے۔

### ج ج ا

دو سال سے تیرے اوپر نحوست آئی ہوئی ہے اور کاروبار میں خلل ہوتا ہے۔ اور جو ارادہ کرتا ہے۔ وہ درمیان میں ہی خراب ہو جاتا ہے مگر یہ چنتا تیری جلد دور ہوگی۔ دیکھ تمہارے داہنے ہاتھ کی پشت پر کوئی نشان ہے۔

### ج د ا

چند روز سے عجیب معاملات تمہارے درپیش آتے ہیں۔ جو کام کرتے ہو ادھورا رہتا ہے اس وقت تم کو ایک چیز کی چنتا ہے۔ جو ایک ماہ کے بعد دور ہو جائیگی۔ یقین نہ ہو۔ تو دیکھو۔ تمہارے کندھے پر زخم کا نشان ہے۔

### د ا ا

گھر میں ہر طرح تکلیف اور دل کو فکر رہتا ہے۔ بلکہ تم کو بھرم آئین رہتا ہے۔ یہ وقت منحوس ہے۔ دھن کی ہانی اور چنتا دل کو لگ گئی ہے اس کا دور ہونا مشکل ہے۔ یقین نہ ہو تو دیکھو۔ تمہارے داہنے بازو پر تل ہے۔

### د ب ا

تم کو ایک جیو سے دھن کی پراپتی کا خیال لگا ہوا ہے۔ ایک ماہ تک صبر کرو۔ تمہارے بگڑے ہوئے کام درست ہونگے۔ عورت سے لابھ ہوگا۔ دیکھو تمہارے عضو تناسل پر تل ہے۔

### د ج ا

تمہارے دل میں جس شخص سے مدد لینے کا خیال ہے وہ تم کو لیت و لعل میں ٹال دیگا۔ اور تم کو رنج پہنچیگا۔ چند روز صبر کرو۔ امداد پہنچیگی تمہارا کام سدھ ہوگا اور کارج سدھ ہوگا۔ مگر یاد رکھو۔ کہ تمہاری استری دروغگو ہے۔

### د د ا

گم گشتہ ہوئی چیز کا ملنا مشکل ہے۔ دھن کی پراپتی

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ سپشٹ بابت ماہ بیساکھ سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار سم۔ دھن کا لابھ تھوڑا۔ پیشہ میں جانے سے بیماری۔ دشمنوں کا خوف لگا ہے۔ آنکھوں میں روگ۔ راج دربار سے مان۔ بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار میں ہانی۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ ادویات میں دھن کا خرچ۔ زیر باری۔ دل رنجیدہ رہے۔ دشمنوں سے خوف۔ والدین سے رنجش ہو۔ اس ماہ کی ۱۷-۲۱-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ تجارتی کاموں میں فائدہ۔ دل کو خوشی ہو۔ عورت سے سکھ ملے۔ دلی مراد بر آئے۔ صحت کچھ خراب رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ اس ماہ کی ۲-۴-۷-۲۵-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ نزدیک کے کام سے تکلیف۔ راج دربار سے مان۔ مرتبہ بلند۔ نقل حرکت زیادہ کرنی پڑے۔ پیٹ میں اور کمر میں درد کی تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۱۷-۱۹-۲۰-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ عورت بیمار۔ اولاد کی طرف سے فکر رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ گرانی فکر کبھی مایوسی امید میں بہتری ہو۔ دشمنوں کا فکر لگا ہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۵-۱۱-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ سفر میں جانے سے جھگڑا پیش آئے۔ صحت خراب رہے۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش ہوں۔ راج دربار میں کامیابی۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۱۶ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار سم۔ دھن کا لابھ کم ہوگا۔ عورت بیمار رہیگی۔ دل کو فکر لگا ہے۔ اولاد کی طرف سے تشویش۔ بھائیوں سے امداد ملے۔ سفر جانا پڑے۔ دشمنوں سے نقصان۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۷-۲۹-۳۰ تاریخ ہے۔

### برچھک



کاروبار میں رکاوٹ۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ کسی جگہ سے اچانک کچھ فائدہ ہو جائے۔ اولاد کی طرف سے خوشی۔ والدین سے بگاڑ۔ دشمن ناش ہوں۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۲-۱۳ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار سم۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ کوئی بنا بنایا کام بگڑ جاوے۔ عورت سے سکھ ملے۔ والدین کو تکلیف۔ سوچ بچار میں وقت زیادہ گذرے۔ بھائیوں سے رنجش۔ اس ماہ کی ۸-۹-۱۱ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں نقصان۔ دھن ہانی ہوگی۔ سفر میں جانے سے مایوسی۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ بیماری میں دھن خرچ۔ والدین کو تکلیف۔ بھائیوں سے لابھ۔ آنکھوں میں روگ ہو۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۸-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں ترقی۔ دھن لابھ۔ دشمن ناش ہوں۔ جھگڑے میں کامیابی۔ اولاد سے رنج۔ دلی مرادوں میں کامیابی۔ عورت کی صحت خراب۔ اپنے جسم میں بھی تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۱۰-۲۳-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ۔ راج دربار سے مان۔ مرتبہ بلند۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش۔ سفر میں جانے سے رنج پہنچے۔ کسی جگہ سے کچھ دھن پراپت ہوگا۔ اس ماہ کی ۴-۷-۱۰-۱۸ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

کے لئے بیوپار سے لابھ ہوگا۔ دشمن بہت تکلیف دیگے۔ مگر تم بزرگوں کی خدمت کیا کرو۔ اور فقیروں کو روٹی کھلا دیا کرو۔ تمہارا کارج سدھ ہوگا۔ نشانی دیکھو۔ تم کو جریان کی تکلیف ہے۔

### ا ا ب

آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ جو کام کرتے ہو اس میں تکلیف اٹھاتے ہو۔ ان دنوں تمہارا مدعا ہونا محال ہے۔ صبر کرو۔ پردیس میں جانے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو تمہارے جسم میں کچھ روگ ہے۔

### ا ج ب

اے صاحب فال۔ جس کام کی نسبت تو دریافت کرتا ہے۔ وہ کام تیرا دو ماہ کے بعد سرانجام ہوگا۔ اور یاد رکھ۔ کہ ایک خوبصورت عورت سے وصل ہوگا۔ اور مشرق کے سفر سے کچھ لابھ ہوگا۔ دیکھو تمہاری بغل کے نیچے ایک نشان ہے۔

### ا د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم دل کے خواہشمند ہو۔ اور کسی بیوی کی چنتا تم کو لگی رہتی ہے۔ لیکن تمہارا مطلب سدھ ہوگا۔ اور وہاں سے تم کو دھن بہت ملیگا۔ دیکھو۔ تم کو کسی شخص پر اعتبار نہیں ہے۔

### ب ا ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم حصول زر اور ترقی کاروبار کے لئے پردیس جانے کا ارادہ کرتے ہو۔ بیشک جاؤ۔ تمہارا مطلب سدھ ہوگا۔ اور وہاں سے تم کو دھن بہت ملیگا۔ دیکھو۔ تمہارے دل میں کسی دوست سے ملنے کا خیال ہے۔

### ب ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ دشمن در پے آزار رہیں۔ اور ان سے تم کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ قرض خواہوں سے وحشت ہوتی ہے۔ جس کام کا تم کو خیال ہے۔ ابھی اس میں توقف ہے۔ دیکھو۔ کہ تمہاری ران پر دنبل کا نشان ہے۔

### ب ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارا طالع نحوست میں ہے۔ اور بہت دنوں سے تم کو نقصان ہو رہا ہے۔ کہ ایک شخص سے لڑائی جھگڑے میں تم کو تکلیف ہوئی۔ تم کارج سدھ ہونے کے لئے جو دریافت کرتے ہو۔ وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ دیکھو تمہارا دل اداس ہے۔

### ا ب ب

خدمت کرو۔ مدد و نصرت کا وقت آگیا ہے۔ عنقریب تمہارا کارج سدھ ہوگا۔ اور تم کو کسی دوست سے امداد ملیگی۔ اور سفر با منفعت پیش آنے والا

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ راسہائے بابت ماہ جیٹھ سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار سم۔ دھن کا نقصان ہو گا۔ چور اگنی سے بچے رہو۔ راج دربار میں ان آنکھوں میں تکلیف۔ عورت بیمار۔ بھائیوں سے لابھ۔ دشمن ناش۔ تلی میں تکلیف رہے۔ اس ماہ کی ۳-۷-۸-۱۶-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو گا۔ عورت بیمار رہیگی۔ دل کو فکر لگا رہے۔ فساد خون اور درد سر سے تکلیف پہنچے۔ اولاد سے رنج۔ سفر میں روگ۔ کام چیشٹا بڑھے۔ اس ماہ کی ۲-۱۸-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں رکاوٹ۔ دل پسند چیزوں کی خرید و فروخت سے کچھ فائدہ پہنچے۔ خویش و اقارب سے جھگڑا۔ عورت سے سکھ ملے۔ راج دربار میں مان بھنگ ہو۔ پت و بلغم کے روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۲-۳-۴-۲۱-۳۰-۳۱ تاریخ ہے۔

### کرک



کاروبار تجارت میں لابھ۔ دھن دھان کی ترقی ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں مان۔ چوپایہ کا سکھ ملے۔ دوستوں سے ملاپ۔ ست سنگ۔ صحت اچھی ہے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۵-۱۶-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار کشادہ۔ دھن کا لابھ ہو گا۔ راج دربار میں عزت بڑھے۔ اولاد سے سکھ ملے۔ عورت کو تکلیف۔ دشمنوں سے نقصان۔ کوئی چیز چوری جاوے۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی یکم-۵-۲۵-۲۸-۲۹-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار سم۔ دھن کا خرچ زیادہ ہے۔ دشمن ناش۔ اولاد کی طرف سے خوشی۔ عورت سے جھگڑا۔ سفر میں جانے سے رنج۔ بدھی ملین رہے۔ بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی یکم-۱۰-۱۱-۱۲-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



تجارتی کاروبار میں کچھ کشائش رہے۔ دھن لابھ تھوڑا ہو۔ بھائیوں سے کچھ۔ پرمیہ کا روگ۔ اولاد کی طرف سے فکر و تشویش۔ راج دربار سے بھے۔ جسمی تکلیف۔ سفر میں جھگڑا ہو۔ اس ماہ کی ۴-۲۵-۲۶-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار تجارت میں فائدہ۔ دھن لابھ ہو گا۔ عورت بیمار رہے۔ آنکھوں میں دکھ۔ دوستوں سے امداد ملے۔ دشمنوں سے نقصان پہنچے۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۹-۱۰-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ بھائیوں اور دوستوں سے بگاڑ۔ اولاد کا سکھ ملے۔ عورت بیمار رہے۔ خویش اقارب سے آزار ملے۔ دشمن ناش ہوں۔ امیدوں میں کامیابی ہو۔ اس ماہ کی ۴-۵-۶-۸-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن زیر ہوں۔ عورت و اولاد کو تکلیف و رنج و کلفت۔ دوستوں سے بگاڑ۔ دھن کا خرچ زیادہ رہے۔ نزلہ و زکام سے تکلیف۔ راج دربار سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۳-۱۶-۱۷ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کی ہانی۔ خویش و اقارب سے جھگڑا۔ عورت کا سکھ ملے۔ دشمنوں سے تکلیف۔ سر میں درد۔ آنکھوں میں تکلیف۔ سفر میں جانے سے زیر باری۔ بدھی ملین رہے۔ اس ماہ کی ۷-۱۴-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو گا۔ دشمن مغلوب۔ راج دربار سے مان سمان ملے۔ سیر باغ کا شوق ہو۔ عورت سے سکھ۔ بھائیوں سے تکرار۔ صحت کچھ خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۴-۶-۸-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

ہے۔ دیکھو تم اپنی عورت کی محبت میں سرشار رہتے ہو۔

### ب د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ زمانہ گذشتہ میں تم نے پراستری کے خیال میں دھن کا نقصان کیا اور تمہارے کاروبار میں خلل ہو گیا۔ مگر وقت اچھا آگیا ہے۔ کارج سدھ ہو گا۔ دیکھو۔ تمہارے دائیں کندھے پر تل کا نشان ہے۔

### ج ا ب

اے صاحب فال! تمہاری موجودہ حالت عجیب قسم کی ہو گئی ہے۔ تمہارے خیالات گاہے چنیں گاہے چناں ہوتے ہیں۔ اور جس شخص سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وہ مشکل ہے۔ ہاں چند روز کے بعد کوئی دیگر صورت ظہور میں آئیگی۔ دیکھو۔ اس وقت تمہارے خیالات پراگندہ ہیں۔

### ج ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو کسی گئے ہوئے جیو کی چنتا رہتی ہے۔ اور کسی خبر و خط کے ہر وقت انتظار میں رہتے ہو۔ بلکہ تم کسی چیز کی خرید و فروخت کا جو خیال کرتے ہو۔ وہ اس وقت نہیں ہو گی۔ دیکھو۔ تمہارے سر پہ ایک داغ کا نشان ہے۔

### ج ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم حصول زر اور کشائش کاروبار کے لئے بڑی جستجو کرتے ہو۔ مگر گردش ایام تمہاری تم کو فائدہ نہیں ہونے دیتی۔ اور جس شخص کو ملنے کی خواہش کرتے ہو۔ وہ عنقریب تم کو ملیگا۔ مگر یاد رکھو۔ کہ اس سے فائدہ نہیں ہو گا۔ دیکھو اس وقت تمہاری توجہ اس شخص کی طرف لگی ہوئی ہے۔

### ج د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ایک جیو کی چنتا ہے۔ اور کشائش روزگار کی طرف تمہارا خیال لگا رہتا ہے۔ یہ دن اچھے ہیں۔ کارج سدھ ہو گا۔ کسی دوست کے وصل سے خوشی ہو گی۔ دیکھو تمہاری اندری پر تل ہے۔

### د ا ب

یہ شکل دلالت کرتی ہیں۔ کہ تم کو زن و فرزند کی چنتا ہے اور تمہارے پاس دھن تھوڑا ہے۔ ست سنگ میں دل لگاتے ہو۔ مگر چنتا تم کو کچھ نہیں کرنے دیتی۔ دو ماہ تک صبر کرو۔ پھر دن اچھے آئیں گے۔ دیکھو تمہارے پاؤں پر کوئی داغ ہے۔

### د ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے دل میں ایک گپت نفسانی لگ رہی ہے۔ اور تم کسی دشمن کو زیر کرنے کا خیال بھی بہت کرتے ہو۔ مگر لابھ کیلئے جو فکر تم کو ہے

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات مع گرہ اسپھلٹے بابت ماہ پھاگن سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار میں ہانی آمدن کم۔ خرچ زیادہ۔ دشمن ناش ہوں۔ راج دربار سے لابھ۔ عورت بیمار۔ مایوس امیدوں میں کامیابی۔ سفر میں مایوسی۔ آنکھوں میں روگ۔ اولاد سے رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۳-۷-۱۱-۲۴-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ خرید و فروخت کے کاموں میں کچھ ہانی ہوگی۔ چور و اگنی سے بچے۔ سواری کا کھٹکا۔ عورت بیمار۔ دوستوں سے رنجش ہو۔ سفر میں نقصان۔ اس ماہ کی ۵-۱۳-۱۷-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار مدھم۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ دل کو فکر۔ سفر میں زیر باری۔ سفر میں تکلیف۔ اولاد کو تکلیف۔ عورت سے کلیش ہو۔ بیماری میں دھن کا خرچ۔ صحت خراب۔ خویشوں سے جھگڑا۔ اس ماہ کی ۱۵-۱۶-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کی بڑھتی ہوگی۔ عورت سے محبت۔ سیر دربار و باغ کا شوق۔ اولاد سے سکھ ملے۔ صحت ٹھیک ہو۔ دھرم کے کاموں میں دل لگے۔ مرتبہ میں ترقی۔ عورت کی صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۴-۱۱-۱۲-۱۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



تجارتی کاروبار سے منافع۔ دھن کی بڑھتی ہوگی۔ راج دربار سے لابھ۔ مرتبہ بلند اور [illegible] سے کامیابی ہو۔ دشمنی کی طرف سے فکر۔ عورت بیمار۔ اولاد سے رنجش۔ پشو سے تکلیف پہنچے۔ اس ماہ کی ۲۱-۲۲-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہو۔ عورت سے محبت۔ کسی دوست کا ملاپ ہو۔ اولاد سے سکھ ملے۔ دشمن ناش ہوں۔ جھگڑوں میں کامیابی۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ دلی مراد پوری ہو۔ اس ماہ کی ۳-۴-۷-۲۴-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار مدھم۔ دھن کا خرچ زیادہ رہے۔ دل بے چین۔ عورت سے جھگڑا۔ راج دربار سے کھٹکے۔ چوری کا اندیشہ ہے۔ اولاد کو تکلیف۔ پیٹ میں روگ۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ اس ماہ کی ۲-۱۰-۲۱-۲۲-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار معمولی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ اولاد سے سکھ ملے۔ راج دربار میں مان۔ عورت بیمار۔ سفر پڑے۔ بلغمی روگ سے کشٹ ہو۔ والدین کو تکلیف۔ اس ماہ کی ۴-۵-۲۱-۲۸-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار مدھم۔ دھن ہانی۔ خرچ زیادہ۔ آنکھوں میں روگ۔ [illegible] عورت بیمار رہے۔ اولاد سے سکھ ملے۔ خویشوں سے نقصان۔ دل کو فکر [illegible] ہو جائے۔ بیماری میں خرچ زیادہ۔ اس ماہ کی ۲-۲۳-۲۶-۲۸-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ صحت خراب رہے۔ اولاد کو کشٹ۔ دشمن ناش ہوں۔ مرض جریان سے کچھ تکلیف پہنچے۔ کوئی کام بگڑے۔ چوپایہ کا سکھ۔ خویشوں سے رنجش۔ اس ماہ کی ۵-۶-۱۱-۱۲ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار سے ترقی۔ خویشوں سے امداد ملے۔ سفر میں جانے سے نقصان ہو۔ دوستوں سے بگاڑ۔ عورت کی صحت خراب۔ چوپایہ کا سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۲-۱۱-۲۱-۲۲-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار مدھم۔ آمدن خرچ برابر رہے۔ سفر میں جانے سے دھن ہانی۔ عورت سے محبت۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ دشمن ناش ہوں۔ راج دربار سے لابھ۔ جھگڑے سے بچے۔ کامیابی۔ دشمنوں سے رنج۔ [illegible] کام [illegible] سے تکلیف [illegible] کی ۱۰-۲۲-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

وہ توقف سے رفع ہوگا۔ دیکھو تو بھلا تمہاری کمر پر کوئی نشان ہے۔

### د ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ عنقریب تم کو کسی عزیز کا خط پہنچیگا۔ دشمنوں کی طرف سے جو چنتا تم کو لگی ہے۔ وہ جلد رفع ہو جائیگی۔ مگر شک جاتا ہے۔ کہ تمہاری عورت تم سے محبت نہیں رکھتی۔

### د د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ کچھ دنوں سے تمہارا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے۔ اور تم روزگار کے لئے کوشش کرتے ہو۔ مگر باعث گردش کام سرانجام نہیں ہوتا۔ لیکن اب کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ چنتا مت کرو۔

### ا ا ج

یہ شکل کرتی ہے۔ کہ تم بلندی مرتبہ کے لئے اور مال و املاک کی بہتری کے واسطے ایک عرصہ سے کوشش کر رہے ہو۔ اس وقت تک طالع گردش میں ہے۔ چھ ماہ کے بعد کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ آٹھ یوم ہوئے۔ کہ تمہاری جیب سے کوئی چیز گر گئی تھی۔

### ا ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارا دل کسی شخص کی محبت میں بیقرار ہے۔ اور وہ تم سے التفات نہیں رکھتا۔ اور تم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ طالع گردش میں ہے۔ خیال چھوڑ دو۔ نقصان اٹھاؤ گے۔ دیکھو آج کئی روز سے تم کو قبضی کی شکایت ہے۔

### ا ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ایک چنتا ہے۔ اور تم اپنے دشمنوں کو دفع کرنے کیلئے کوشش کرتے ہو۔ کچھ دن ہوئے۔ تمہارا کچھ نقصان بھی ہو گیا تھا۔ اب دن اچھے آگئے ہیں۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو تم کو کھانسی کی تکلیف ہے۔

### ا د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ کسی نے تمہاری مملوکہ چیز پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور تم کو ہر وقت اس کی چنتا رہتی ہے۔ اور تم اپنی بہتری کی کوشش کرتے ہو۔ مگر باعث گردش ایام کام نہیں ہوتا۔ ایک سال کے بعد امید بہتری رکھیں۔ دیکھو۔ تم کو بھوک کم لگتی ہے۔

### ب ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم دنیاوی دھندوں میں عجیب کشمکش میں پڑے ہو۔ اور یہی کامیابی کے لئے کوشش کرتے ہو۔ اچھا دن اچھے آگئے

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی ہر یک و بدنت حال ماہ گرہ راسلئے بابت ساون سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ


۱۲
۱
۱۱ سنیچر
۱۰
۹ راہو
۷
۶
۵
۸
۲ چندرمان
سورج شکر

کاروبار درہم۔ آمدنی و خرچ برابر رہے۔ طبیعت اداس۔ اولاد سے رنج۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ بدھی ملین۔ عورت سے سکھ ملے۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں ان مرتبہ بلند ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۸-۲۶-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ


۱
۱۲
۲ چندرمان
۱۱ سنیچر
۵
۸ برہسپت
۴
۱۰
۹ راہو
۷

کاروبار میں نقصان۔ آمدن کم خرچ زیادہ رہے۔ راج دربار سے مان۔ دشمن ناش۔ عورت سے الفت بڑھے۔ آنکھوں میں روگ۔ دور سے بھائیوں سے بگاڑ ہو تو اپنے سے رنج ہو۔ کھانسی سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۱-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### متھن


۲ سورج
۲ چندرمان
۳ منگل بدھ کیتو
۵
۱
۶
۱۲
۷
۹ راہو
۱۱ سنیچر
۸
۱۰

کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ لیکن خرچ بھی بہت زیادہ رہیگا۔ کسی جگہ سے تہمت لگ کر بے عزتی ہو۔ عورت بیمار۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ جھگڑے میں دھن کی ہانی۔ اس ماہ کی ۹-۱۳-۲۱-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### کرک


۵
۳ منگل بدھ کیتو
۴ سورج شکر
۲ چندرمان
۶
۷
۱
۸ برہسپت
۱۰
۱۲
۹ راہو
۱۱ سنیچر

کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار میں ہانی۔ بیٹوں سے جھگڑے۔ اولاد کا سکھ۔ راج دربار سے بھے۔ بیماری میں دھن خرچ۔ دل کو فکر۔ سفر پیش آوے۔ ضرر بیماری ہو۔ اس ماہ کی ۸-۱۰-۱۵-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ


۶
۴ سورج شکر
۳ منگل بدھ کیتو
۷
۵
۸ برہسپت
۲ چندرمان
۹ راہو
۱۱ سنیچر
۱
۱۰
۱۲

کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں کامیابی۔ مقدمہ فتح ہو۔ دشمن ناش۔ اولاد سے سکھ ملے۔ خویشوں سے جھگڑا۔ مال و املاک کی ترقی۔ آنکھوں میں درد۔ سفر میں خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۱۷-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا


۷
۵
۸ برہسپت
۶
۴ سورج شکر
۹ راہو
۳ منگل بدھ کیتو
۱۰
۱۲
۲ چندرمان
۱۱ سنیچر
۱

کاروبار میں دھن کا لابھ۔ تجارتی کاموں میں فائدہ پہنچے۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش۔ بھائیوں سے محبت۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ چوپائے کا سکھ۔ سیر و تفریح کا شوق ترقی پر۔ اس ماہ کی ۳-۴-۲۰-۲۴-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### تلا


۸ برہسپت
۶
۹ راہو
۷
۵
۴ سورج شکر
۱۰
۳ منگل بدھ کیتو
۱۱ سنیچر
۱
۱۲
۲ چندرمان

کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ دشمن ناش۔ خویشوں سے سکھ ملے۔ سفر میں آرام پہنچے۔ دھرم کے کاموں کی بڑھتی۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۷-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک


۹ راہو
۷
۸ برہسپت
۱۰
۶
۱۱ سنیچر
۵
۲ چندرمان
۱۲
۳ منگل بدھ کیتو
۱
۴ سورج شکر

تجارتی کاموں میں فائدہ۔ دھن کا لابھ ہو۔ والدین کو کشٹ۔ عورت و اولاد سے سکھ ملے۔ بگاڑ خون پھوڑا پھنسی سے تکلیف۔ دھرم کے کاموں کی ہانی۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں کامیابی۔ اس ماہ کی یکم-۳-۱۵-۲۵-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### دھن


۱۰
۸ برہسپت
۹ راہو
۱۱ سنیچر
۷
۱۲
۶
۳ منگل بدھ کیتو
۵
۲ چندرمان
۴ سورج شکر

کاروبار میں ترقی۔ تجارتی کاموں میں دھن لابھ۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ سفر میں جانے سے تکلیف۔ دھن ہانی۔ عورت بیمار رہے۔ دشمنوں سے آزار ملے۔ پیٹ کی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۱۷-۲۴-۲۵-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### مکر


۱۱ سنیچر
۹ راہو
۱۲
۱۰
۸ برہسپت
۱
۷
۲ چندرمان
۴ سورج شکر
۶
۳ منگل بدھ کیتو
۵

تجارت کی ترقی۔ دھن کی بڑھتی ہو۔ راج دربار سے مان۔ اولاد کا سکھ ملے۔ دشمن ناش ہوں۔ چوپایہ کا سکھ۔ عورت سے محبت۔ سر درد سے تکلیف رہے۔ سفر جانا پڑے۔ اس ماہ کی یکم-۷-۸-۹-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ


۱۲
۱۱ سنیچر
۱۰
۱
۹ راہو
۲ چندرمان
۸ برہسپت
۳ منگل بدھ کیتو
۵
۷
۴ سورج شکر
۶

کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ کوئی کام بگڑ جاوے۔ خویش و اقارب سے رنج۔ سفر میں جھگڑا ہو جاوے۔ چوپایہ کا سکھ۔ راج دربار میں مان۔ اس ماہ کی ۵-۱۷-۱۸-۲۶-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### مین


۱
۱۱ سنیچر
۲ چندرمان
۱۲
۱۰
۳ منگل بدھ کیتو
۹ راہو
۴ سورج شکر
۶
۸ برہسپت
۵
۷

کاروبار میں ترقی۔ دھن لابھ۔ دوستوں سے بگاڑ۔ والدین کو کشٹ۔ بھائیوں سے محبت۔ عورت سے سکھ ملے۔ چوپایہ کا سکھ۔ اولاد کی طرف سے خوشی ہو۔ دھرم کے کاموں میں دل لگے۔ ہر طرح کامیابی۔ اس ماہ کی ۲-۱۶-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

ہیں۔ چند یوم میں کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ رات تم نے خواب میں ایک مہاتما کا درشن کیا ہے۔

### ب ب ج

یہ شکل نحوست طالع پر دلالت کرتی ہے۔ جو کام تم نے بچارا ہے۔ اس کا پورا ہونا مشکل ہے۔ لین دین کے معاملہ میں بھی تم کو تکلیف ہوگی۔ دوستوں سے رنج پہونچیگا۔ دیکھو۔ رات خواب میں تم نے ایک روز خوف کھایا تھا۔

### ب ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو فکر اور رنج رہتا ہے۔ جس میں اکثر تکلیف اور کسی بیماری کی طرف سے چنتا کرتے ہو۔ مگر خیال رکھو کہ ایام نحوست بہتری کی صورت میں نہیں ہونے دیتے۔ دیکھو۔ تم کو عورت کی طرف سے سکھ نہیں ملتا۔

### ب د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ با اوس امیدوں میں کامیابی ہوگی۔ دشمن و فتح۔ حاکم سے فائدہ۔ اور جس جیز کے ملنے کی خواہش ہے۔ وہ جلد ملیگا۔ بشرطیکہ تم منگلوار کو برت رکھا کرو۔ دیکھو۔ تمہاری اندری پر تل ہے۔

### ج ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے جسم میں کشٹ رہتا ہے۔ کسی کام کا ہر وقت فکر رہتا ہے۔ طاقت مردمی کام دیو کی چنتا سے بہت کم ہو گئی ہے۔ علاج سے فائدہ نہیں۔ گردش کا باعث ہے۔ دیکھو۔ تمہارے دل میں ایک بھرم ہو رہا ہے۔

### ج ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو کسی عورت کے ملنے کا شوق ہے۔ اور تم ہر وقت ترقی روزگار کے لئے بھی کوشش کرتے ہو۔ اور تمہارا دل ایک جگہ نہیں لگتا۔ رات کو خواب میں بھی بڑبڑاتے ہو۔ کسی شخص کی مدد سے تمہارا کارج سدھ ہوگی۔

### ج ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ بہت دنوں سے کوئی شخص تم کو نقصان دیتا ہے جس کی چنتا تم کو لگی ہوئی ہے۔ اور روزگار بھی تمہارا اچھا نہیں۔ مگر اب وقت اچھا آگیا ہے۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا اپنا سوانس چل رہا ہے۔

### ج د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے مکان میں دھن گڑا ہوا ہے۔ تم نے کئی مرتبہ اس کے لینے کی خواہش کی۔ مگر نہیں ملا۔ ہر وقت تم کو چنتا لگی رہتی ہے۔ لیکن وہ دھن تم کو نہیں ملیگا۔ چھپا پڑا رہے۔ دیکھو۔ تمہارے مکان کا دروازہ پورب کو ہے۔

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ سپشٹ بابت ماہ بھادوں سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار مدہم دھن کا لابھ تو ہو مگر خرچ بھی بہت ہو جائے۔ اولاد کو کشٹ والدین سے جھگڑا۔ دوستوں سے رنج۔ سفر میں جانے سے تکلیف پہنچے۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ چوپایہ کا سکھ ملے عورت بیمار ہے۔ اس ماہ کی ۳-۱۲-۲۱-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار کی ترقی دھن کا لابھ ہو۔ دشمن مغلوب والدین کو کشٹ عورت سے سکھ ملے۔ راج دربار سے مان سفر میں جانے سے کسی جھگڑا فساد ہو جائے بھائیوں سے بگاڑ دل بے چین رہے۔ اس ماہ کی ۵-۶-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ لیکن خرچ بھی بہت ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار سے ترقی مرتبہ بلند عہدوں میں کامیابی۔ چوپاؤں سے نقصان ہو۔ گھر میں والد عورت کو تکلیف دوستوں سے رنج ہو۔ اس ماہ کی ۲-۸-۱۷-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمنوں سے کچھ نقصان پہنچے۔ عورت کو تکلیف۔ خویشوں سے آرام ملے۔ راج دربار میں مان کوئی چیز گم ہو جائے۔ درد سر اور پھوڑے پھنسی سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۳-۴-۱۰-۱۸-۳۰-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ راج دربار سے عزت۔ سفر میں جانے سے پریشانی اور بے عزتی ہو۔ کوئی دوست ملے۔ درد سر نزلہ زکام وغیرہ سے جسم کو تکلیف۔ دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار مدہم۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ سفر میں جانے سے خرچ ہو۔ دشمنوں کا خوف دل کو لگا رہے گا۔ وہ خود ہی ذلیل ہوں۔ خویش و اقارب سے رنجش۔ صحت خراب۔ آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۱۵-۱۷-۲۰-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار تجارت سے لابھ ہو۔ سفید چیزوں کی خرید و فروخت سے فائدہ ہو۔ دشمن ناش۔ دوستوں کا ملاپ۔ عورت سے محبت۔ چوپایہ کا سکھ۔ صحت ٹھیک ہو۔ راج دربار سے عزت مرتبہ میں ترقی دل کو خوشی ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۲-۱۳-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار میں کشائش۔ زر و مال کا فائدہ۔ راج دربار سے ترقی امید پوری۔ دشمن ناش۔ عورت سے محبت زیادہ۔ سفر میں جانے سے فائدہ اور آرام ملے۔ خویش و اقارب سے صحت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۷-۱۴-۲۳-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ دل بے چین۔ راج میں ہانی۔ دشمنوں کا خوف [illegible] سے جھگڑا۔ صفراوی رنگ۔ پھوڑے سے تکلیف۔ اولاد سے سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۹-۲۰-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ سفر میں جانا پڑے۔ عورت بیمار رہے۔ راج دربار سے ہانی۔ دل کو فکر و تشویش رہے۔ رنگ سے کشٹ۔ دشمن مغلوب رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۲-۳-۷-۲۰-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



تجارتی کاروبار میں دھن کا لابھ۔ دشمن ناش۔ عورت و اولاد سے سکھ۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند۔ سفر میں جانے سے فائدہ۔ سر میں درد اور آنکھوں میں تکلیف رہے۔ دل کو فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ دشمن پیدا ہو کر ناش ہو جاویں۔ اولاد کو کشٹ۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند کوئی کام بگڑ جائے۔ خویش و اقارب سے بگاڑ۔ طبیعت کا ملال اور خرابی [illegible] تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۱-۱۴-۱۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

### و ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم کو راج دربار سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور عورت کی چنتا بھی ہر وقت لگی رہتی ہے۔ تا اس وقت گذر گیا۔ اب کا رنج دور ہوا چاہتا ہے۔ دل کی خواہش پوری ہوگی۔ مگر تمہارا سیدھا دست چنچل ہے۔

### د ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم متلاشی روزگار اور ترقی کاروبار کے لئے کسی شخص کی امداد کے طلبگار رہتے ہو۔ مگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ عنقریب ایک معاون پیدا ہوگا۔ اور تمہارا کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارے سر میں درد ہے۔

### د ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم کو ان دنوں کچھ تکلیف ہے۔ اور ابھی تمہارے دن بہت خراب ہیں۔ سفر میں روگ ہوگا۔ دشمن سے دہشت ہوگی۔ ایشور کی یاد کرو۔ شاید تمہارا مطلب سدھ ہو جائے۔ دیکھو۔ رات تم کو نیند بہت کم آتی ہے۔

### د د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ گذشتہ وقتوں میں تم نے دشمن کا نقصان اٹھایا۔ مگر اب تمہاری تمام تکلیفیں دور ہونے والی ہیں۔ چند روز میں منگل چار ہوگا۔ اور عورت و اولاد کا سکھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہاری انگلی پر تل ہے۔

### ا ا د

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ عنقریب ایک غیر معمولی ترقی اور عزت پاؤ گے۔ اور تمہارے رکے ہوئے کام سر انجام ہونگے۔ عورت اور اولاد کا سکھ کسی دوست سے ملاقات ہو۔ دیکھو۔ تمہاری گردن پر تل ہے۔

### ا ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم کو تجارت [illegible] کا بہت شوق ہے۔ تمہارا دل [illegible] بہت زیادہ چاہتا ہے جس دل [illegible] فکر و تشویش سے عنقریب یہاں سے [illegible] چند روز کے بعد تم کو ایک جگہ سے فائدہ پہنچیگا۔ دیکھو۔ تمہاری طاقت مردمی کمزور ہے۔

### ا ج د

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم کو ایک عورت کی طرف سے فکر اور اولاد کی طرف سے رنج اور کبھی خوشی کی چنتا رہتی ہے۔ بلکہ تم [illegible] کو تیار ہوتے ہو۔ مگر ایام گردش میں۔ کارج سدھ نہیں ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا دل بیقرار ہے۔

### ا د د

اس شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ تم زمانہ کی گردش سے بہت کم [illegible] نہیں کام کرتے [illegible]

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات از روئے گرہ چار بابت ماہ اسوج سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار میں ترقی ہوگی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ اولاد کو تکلیف۔ دوستوں سے بگاڑ۔ دل کو فکر۔ صحت خراب۔ اور بیوپار میں دھن کا خرچ زیادہ۔ کسی سے نقصان۔ طبیعت رنج و کشٹ ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۲-۱۸-۲۸ تاریخ خراب ہے

### برکھ



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ اولاد سے سکھ ملے۔ راج دربار سے عزت بڑھے۔ عورت سے محبت زیادہ۔ لیکن وہ بیمار رہے۔ والدین سے جھگڑا۔ سفر میں تکلیف۔ دشمن سے ہانی۔ چوپایہ کا سکھ ہے۔ اس ماہ کی ۲-۱۳-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ سفر میں جانے سے کسی سے جھگڑا فساد ہو جائے۔ عورت سے رنجش۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ دشمن سے گزند پہنچے۔ والدین کو کشٹ۔ بدھی ٹھیک ہے۔ اس ماہ کی ۳-۱۳-۱۷-۲۲ تاریخ خراب ہے

### کرک



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہوگا۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ اولاد سے خوشی حاصل ہو۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ عورت بیمار رہے گی اور چوپایہ ہانی ہونے کا خطرہ ہے۔ اس ماہ کی ۶-۱۳-۲۴-۲۶ تاریخ خراب ہے

### سنگھ



کاروبار میں لابھ تھوڑا۔ دھن کی ہانی۔ راج دربار سے امید پوری ہو۔ خوش رہے۔ افسران سے آرام ملے۔ عورت بیمار ہے۔ اولاد کی طرف سے فکر درد سر اور نقصان [illegible] سے تکلیف۔ جسم میں تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۱-۱۲ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ سفر میں جانے سے بیماری۔ نزلہ زکام سے تکلیف۔ اولاد نہیں۔ دھن کا خرچ کسی جگہ سے عزت ہو۔ کام چنتا کی بڑھتی۔ دشمن ناش۔ دل کو فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۳-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ [illegible] دشمنوں سے خوف۔ راج دربار میں بگڑے ہوئے کام کی کامیابی۔ سفر میں [illegible] اور بیوی کی خوشی [illegible] اولاد سے تکلیف [illegible] اس ماہ کی ۲-۹-۱۰-۱۳-۲۴-۲۹ تاریخ خراب ہے

### برچھک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ دشمن ناش۔ سواری کا سکھ ملے۔ عورت سے محبت زیادہ۔ دل خوش۔ بہت سنگ ہو۔ سیر باغ کا شوق زیادہ۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ صحت اچھی ہے۔ اس ماہ کی ۳-۱۶-۲۰-۲۱-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں کشٹ۔ دھن کا لابھ ہو۔ امید دلی میں کامیابی۔ دشمن ناش۔ عورت سے سکھ۔ دوستوں سے ملاپ۔ سفر میں طبیعت خوش ہو۔ آرام ملے۔ عزیز میں بلندی۔ خویشوں سے محبت زیادہ ہے۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۱۲-۱۸-۳۰ تاریخ خراب ہے

### مکر



کاروبار معمولی۔ دھن کا لابھ ہو۔ عورت سے رنجش۔ دشمنوں کا فکر۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ بدھی ٹھیک۔ راج دربار سے امید پوری ہو۔ بھائیوں اور [illegible] سے طبیعت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۱۴-۲۰-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے

### کنبھ



کاروبار مدھم۔ آمدن خرچ برابر ہے۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ عورت بیمار۔ راج دربار سے ہانی۔ سفر میں جانے سے طبیعت خراب۔ دشمن ناش۔ اولاد سے [illegible] جنسی مرض سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۷-۱۹ تاریخ خراب ہے

### مین



تجارتی کاموں میں لابھ۔ دھن کی بڑھتی۔ سفر جانا پڑے۔ عورت بیمار۔ دشمن کا ناش۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ راج دربار میں مان۔ بدھی اور آنکھوں میں روگ ہو۔ اس ماہ کی ۴-۱۳-۱۴-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فال نامہ

سے ہو۔ اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں سے بھی تکلیف ہے۔ ابھی ایک سال اس طرح سے گذرے گا۔ دیکھو تمہاری مزاج میں تندرستی زیادہ ہے

### ب ا د

اے صاحب فال! دیکھ۔ زمانہ اس قابل نہیں کہ کسی کے بھروسہ پر کام کیا جائے۔ تیری سادہ دلی نے تجھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ رحم دلی نے مخالفت پیدا کر دی ہے۔ مگر خیال رکھ کہ تیرے دل کی چنتا اب دور ہوگی۔ دیکھ۔ تیرے سینہ میں کچھ روگ ہے

### ب ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ تم کو عورت کی چنتا زیادہ رہتی ہے۔ سفر جانے میں تمہارا دل بہت چاہتا ہے۔ مگر کام دیری سے ہوگا۔ اور کسی دوست یا عزیز کا خط بہت جلد ملا چاہتا ہے۔ دیکھ۔ تیرے بائیں بازو کے نیچے تل ہے

### ب د د

اے صاحب فال! تیرے ایام گردش کے ہیں۔ جو کچھ دل میں بچارتا ہے۔ اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور تیرے جسم اور دھن کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی دو سال باقی ہیں۔ دیکھو۔ تقدیر سے دن گذرے۔ تم کو چوٹ لگی تھی۔

### ج ا د

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ جس امر کے لیے تم دریافت کرتے ہو۔ وہ بہت جلد سر انجام ہوگا۔ اور دشمن مغلوب ہوا۔ اور دھن کی بڑھتی کا وقت آگیا ہے۔ دیکھو۔ چار یوم سے تمہارے دل کو گھبراہٹ ہے۔

### ج ب د

اے صاحب فال! دیکھ۔ تیری مصیبت اور تکلیف کے دن دور ہو گئے ہیں۔ اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ تجھ کو بیوپار سے لابھ۔ حاکم سے فائدہ۔ اور کسی دوست سے مدد ملے گی۔ دیکھو۔ تمہارے جسم میں کچھ تکلیف ہے۔

### ج ج د

یہ شکل بتلاتی ہے کہ تم کو گمی ہوئی چیز کا خیال ہے۔ اور تم کو انتقال کے کام کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہو۔ مگر دن اچھے نہیں۔ اس لیے جلد کام نہیں ہوگا۔ دیکھو۔ چند یوم ہوئے تم نے جھوک کیا تھا۔

### ب ج د

یہ شکل بتلاتی ہے کہ دریافت کنندہ کے خیالات منتشر ہیں۔ اور کسی چیز کی چنتا میں صبح و شام بیٹھا ہے۔ اور حصول ملک و مال کی زیادتی کی خواہش کرتا ہے۔ مگر دیر سے کام سر انجام ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا دل [illegible] چاہتا ہے۔

# بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات مع گرہ [illegible] ماہ کا [illegible] سمت ۱۹۹۳ بکرم

## میکھ



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ ہو راج دربار سے مان۔ سفر میں جانے سے فائدہ۔ عورت سے سکھ۔ اولاد کو تکلیف رہے۔ خویشوں سے رنج۔ کوئی کام بگڑے۔ بیماری میں دھن خرچ اس ماہ کی یکم-۱۵-۱۶-۲۳-۲۶ تاریخ خراب ہے

## برکھ



کاروبار میں نقصان۔ دھن کی ہانی ہو۔ دشمن سے گزند پہنچے۔ راج دربار سے مان۔ عورت سے محبت زیادہ اولاد کو کشٹ خویشوں سے رنج پہنچے سفر میں فائدہ کوئی خوشی کی خبر ملے۔ اس ماہ کی ۹-۲۵-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

## متھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان عزت بڑھے۔ دشمن پیچھے آزار رہیں۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ عورت سے رنجش۔ بیوپار کا سکھ۔ اولاد کو کشٹ عورت کی صحت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۳-۷-۱۱-۱۳-۱۸-۲۹ تاریخ خراب ہے

## کرک



کاروبار میں رکاوٹ آمدن کم خرچ زیادہ رہے۔ اولاد کی طرف سے سکھ ملے۔ عورت سے جھگڑا۔ دشمن مغلوب دوستوں سے رنج۔ سفر میں جھگڑا۔ کوئی چیز گم ہو جاوے [illegible] اس ماہ کی ۴-۸-۲۳-۲۸ تاریخ خراب ہے

## سنگھ



کاروبار میں ترقی دھن کا لابھ ہو دشمن مغلوب راج دربار میں مان مرتبہ بلند دوستوں سے رنج و دھوکے کاموں میں خیال زیادہ [illegible] کو تکلیف بھائیوں سے بگاڑ۔ شادی [illegible] سے صحت خراب ہے اس ماہ کی ۲-۷-۸-۹ تاریخ خراب ہے

## کنیا



کاروبار میں تشویش لیکن دھن کا لابھ ہو۔ دشمن اشٹ۔ راج دربار کے کاموں میں ہانی بے عزتی۔ [illegible] عورت سے سکھ ملے [illegible] نقصان جھگڑے [illegible] کامیابی [illegible] اس ماہ کی ۷-۹-۱۹-۲۰ کی تاریخ خراب ہے۔

## تلا



کاروبار میں درمیانہ دھن کا لابھ کم ہو سفر میں جانے سے بیماری۔ صحت کچھ خراب۔ اولاد سے دھن کا فائدہ اولاد کی طرف سے فکر و تشویش [illegible] سے طبیعت خراب رہے دل کو فکر ہو۔ اس ماہ کی ۲-۶-۷-۱۰-۲۲ تاریخ خراب ہے

## برچھک



بیماری کاروبار میں دھن کا لابھ ہو دشمن سے محبت دوستوں کی طرف سے تکرار [illegible] والدین کو کشٹ خویشوں سے جھگڑا ہو سفر میں [illegible] کا سامنا ہو [illegible] صحت خراب [illegible] کی ۱۲-۱۴-۱۹-۲۲ تاریخ خراب ہے

## دھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو دشمن [illegible] دوستوں سے غالب راج دربار میں مرتبہ [illegible] امیدوں [illegible] دل خوش [illegible] زیادہ [illegible] ۱۲-۱۳-۱۹-۲۵ کی تاریخ خراب ہے

## مکر



کشائش کاروبار دھن کا لابھ۔ دشمن مغلوب راج دربار میں مرتبہ بلند امید میں کامیابی دوستوں سے غالب سفر میں آرام و خوشی۔ خویشوں سے آرام ملے [illegible] اس ماہ کی ۱۰-۲۰-۲۳-۲۴ [illegible]

## کنبھ



کاروبار میں کم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ عورت [illegible] اولاد [illegible] راج دربار سے فائدہ [illegible] کی ۷-۱۳-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

## مین



کاروبار میں رکاوٹ دھن کا لابھ ہو [illegible] والدین کو کشٹ [illegible] ۱۱-۱۳-۲۲-۲۴-۲۷ [illegible]

# تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

## ج د و

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو دادوستد کے معاملات میں نقصان اور رنج دشمن کی طرف زیادہ خیال رہے۔ اور حصول مدعا کے لئے ایک مرد بزرگ سے مدد ملیگی۔ دیکھو۔ ایک ہفتہ ہوا تمہارے شکم میں درد تھی۔

## د ا و

اس شکل کی کیفیت یہ ہے۔ کہ تمہارا دل کسی جیو کی چنتا میں پڑا ہوا ہے۔ اور تم پردیس میں جانا چاہتے ہو۔ صبح و شام اسی خیال میں تم کو تشویش ہوتی رہتی ہے۔ مگر کامیابی مشکل ہے دیکھو۔ تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے۔

## د ب و

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ اے صاحب فال! تیرے دشمن دور ہونگے۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ کسی جیو سے ملاقات ہوگی۔ اور کسی جگہ سے تم کو فائدہ پہنچیگا۔ دیکھو۔ اس وقت تمہاری جیب بالکل خالی ہے۔

## د ج و

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو عورت اور اولاد کی چنتا رہتی ہے۔ اور دشمن کی [illegible] کے واسطے تم سفر کیا چاہتے ہو۔ مگر [illegible] اس لئے کامیابی مشکل ہے۔ ایک سال کے اندر تم کو تکلیف ہوگی۔ دیکھو۔ تم ایک جیو پر مفتون ہو۔

## د د و

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ جو کام تم نے دل میں چاہا ہے۔ وہ جلد پورا ہوگا۔ [illegible] دشمن [illegible] کا [illegible] ہوگا۔ دیکھو تمہارا دل ایک [illegible] کرتا۔

قرعہ حروفی
بنا بنایا منگالو
قیمت معہ محصول ڈاک ایک روپیہ
پتہ ذیل سے مل سکتا ہے:-
منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راسہائے بابت ماہ ماگھ سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



تجارتی کاروبار میں دھن کا لابھ۔ دشمن ناش۔ عورت سے محبت۔ اولاد سے سکھ ملے۔ بھائیوں سے جھگڑا۔ دھرم کے کاموں میں ترقی۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ بہت دیکھنے کے روگ سے کشٹ۔ خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



تجارت میں مندی۔ دھن کا لابھ ہو۔ شخص کی طرف سے فکر و تشویش۔ کوئی کام بگڑ جائے۔ عورت کی صحت خراب۔ اولاد کو کشٹ۔ سفر میں جانا پڑے۔ سر درد۔ آنکھ میں تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۴-۷-۲۳-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں ترقی۔ خرید و فروخت سے دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں ترقی۔ عورت سے محبت۔ لیکن اس کی صحت کچھ خراب رہے۔ اور اولاد سے سکھ۔ والدین سے جھگڑا۔ چند دن تکلیف رہے۔ اس ماہ کی ۸-۹-۱۳-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں فائدہ بدرجہ اوسط ہے۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ راج دربار میں مان۔ دشمن پیدا ہو کر ناکام ہو جاویں۔ عورت سے سکھ۔ دوستوں سے امداد ملے۔ بھائیوں سے نقصان پہنچے۔ اولاد کو کشٹ۔ بال کی ۳-۱۳-۲۱-۲۲-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں مندا۔ لین کم۔ خرچ زیادہ ہو۔ سفر میں جانے سے نقصان۔ عورت بیمار۔ جھگڑے سے ہی کامیابی۔ طبیعت اداس رہے۔ والدین کو کشٹ۔ بیٹے کو آگ سے بچے۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۳-۵-۶-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن مغلوب ہو۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ امید و بیم میں کامیابی۔ عورت بیمار۔ والدین کو کشٹ۔ دھرم کے کاموں کی بدھتی۔ سے بخشش۔ صحت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۳-۶-۱۲-۱۶-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار میں دھن کی ہانی۔ دشمنوں سے نقصان۔ مال و دولت کی فکر۔ چور اور آگ کی مصیبت ہو۔ بھائی سے رنجش۔ دوستوں سے صحت خراب۔ گلے میں درد۔ سے تکلیف۔ خرچ زیادہ ہو۔ اس ماہ کی ۳-۴-۷-۸ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ۔ سفر میں جانے سے بیوپاری ہو جائے۔ درد سر تو دن کام سے تکلیف۔ راج دربار سے فائدہ۔ دل لگی کے کاموں میں زیادہ لگے۔ دشمن ناش۔ عورت سے سکھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۴-۱۵-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار بدرجہ اوسط۔ راج دربار میں کامیابی۔ بھائیوں سے خوشی رہے۔ دوستوں سے لابھ۔ آنکھوں میں تکلیف۔ عورت سے جھگڑا۔ دھن خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۳-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں دھن کا لابھ۔ دشمن ناش۔ اولاد کا سکھ۔ دوستوں سے ملاپ۔ سیر و باغ کا شوق زیادہ۔ سفر میں جانے سے دھن کا خرچ۔ دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ۔ خویشوں سے رنجش۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۲۰-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان و امید پوری۔ دشمن ناش ہو۔ سے رنجش۔ اولاد کو کشٹ۔ دوستوں سے ملاپ۔ صفراوی روگ سے تکلیف۔ کوئی ترقی کی خبر آئے۔ اس ماہ کی ۳-۴-۱۰-۱۲ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار بدرجہ اوسط۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ دھرم کے کاموں میں دل نہ لگے۔ عورت بیمار۔ راج دربار سے امید پوری۔ سفر میں جانے سے کچھ فائدہ ہو۔ دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ اس ماہ کی ۸-۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

## تنتر و دیا کے کرشمات

### کسی کو محبت میں دیوانہ کرنا

بنولے کے دونوں پر طوطے کا گوشت اور اپنے کان کی میل ان تینوں چیزوں کو لیکر اور بکو کھتے میں اپنی انامکا انگلی کا خون اس میں ملا کر خوب رگڑ کر اسکی گولی باندھ لیں اور بروز شنکر وار اس گولی میں بقدر ایک رتی لیکر پان میں رکھ کر جس عورت کو کھلا دیوے وہ تم پر دل و جان سے فریفتہ ہوگی۔ اور جدائی ہرگز برداشت نہ کرے گی۔

### حُب کا کاجل

(۱) گدھ کی دونوں آنکھیں اور سیاہ الو کی دونوں آنکھیں لیکر انکو روغن سرشف میں رگڑ کر حل کریں اور پھر اس روغن کو نکیہ کپڑے میں چراغ گلی میں ڈالکر اور روئی کی بتی بنا کر اس میں رکھ کر اس کی سیاہی اتار لیں۔ اور پھر اس میں مکھن ملا کر کاجل تیار کر لیں۔ اس کاجل کو آنکھوں میں لگا کر جو شخص نزد محبوب جائیگا۔ وہ اس سے بدرجہ کمال محبت سے پیش آئیگا۔ اور دیکھتے ہی اس پر موہت ہو جاوے گا۔

(۲) الو کی دونوں آنکھیں بھس لیں اور گھیکوار ان سب اشیا کو خوب حل کر لیوے۔ اور روئی میں لپیٹ کر اس کی بتی بنا کر چراغ گلی میں یہ بتی رکھ گائے کا گھی ڈال کر چراغ روشن کرے اور سیاہی اتارے۔ جب تک چراغ جلے۔ اس کے سامنے بیٹھکر یہ منتر پڑھتا رہے۔ (اوم۔ نمو بھاگوتی ... رکم دشی مان سواہا) پھر اس میں مکھن ملا کر آنکھوں میں لگا دے اور محبوب کے سامنے جاوے۔ تو وہ محبت میں فریفتہ اور دل و جان سے مطیع ہو۔

### اپنی مرضی سے اولاد پیدا کرنا

(۱) کرشن چودش کو بروز منگل ... کی جڑ کا تعویز بنا کر جو عورت پوتر ہوا کرتی کمر میں باندھ رکھے وہ حاملہ نہ ہو۔

(۲) سانپ کے دانت باندھ رکھے تو بھی حاملہ نہ ہو۔

(۳) ہینڈک کی ہڈی کمر میں باندھے تو کبھی اسکو ہرگز حمل نہ ٹھیرے۔

(۴) ہاتھی کی لید لیکر سایہ میں خشک کر کے اسکی ایک چٹکی نیل پہا ... کھتا مانع حمل ہے۔

(نوٹ) اگر آپکو اس قسم کے سینکڑوں تنتر لکھیر مطلوب محبت پیدا کرنے۔ عداوت ڈالنے اور تاثیرات جیوانا دنباتات کا مفصل بیان، والطلوب کو مطیع فرمانبردار کرنے کے سینکڑوں چٹکلے ... کا شوق ہو۔ تو آپ رسالہ موہنی تنتر منگوا کر ملاحظہ فرماویں قیمت صرف ۱۲/ محصولڈاک ۴/ کل ایک روپیہ

ملنے کا پتہ

**مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ اسمائے بابت ماہ ہاڑ سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار بدرجہ اوسط لابھ کم ہو۔ دشمن مغلوب۔ راج دربار سے مان۔ مرتبہ بلند۔ سفر میں آرام۔ دھرم کی ہانی۔ عورت سے جھگڑا۔ بری صحبت سے دلی امیدوں میں کامیابی۔ صحت اچھی ہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا۔ بھائیوں سے رنجش۔ راج دربار سے خوف۔ اولاد کو تکلیف۔ دل کو فکر و تشویش۔ دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ۔ دشمن ناش۔ سامنے جریان سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۴-۲۳-۲۴-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



تجارتی کاموں میں لابھ۔ زر و مال ملے۔ راج دربار میں ترقی۔ مرتبہ بلند۔ والدین کو کشٹ۔ سفر میں تکلیف۔ دوستوں سے بگاڑ۔ عورت بیمار۔ پیٹ میں روگ۔ اولاد کی بابت میں دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ فکر لگا ہے۔ اس ماہ کی ۸-۹-۱۳-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



تجارت میں فائدہ۔ دھن لابھ ہوگا۔ دشمن پیدا ہوں۔ لیکن خود بخود ناش ہو جائیں۔ عزیزوں سے رنجش۔ اولاد سے سکھ۔ عورت سے محبت زیادہ۔ راج دربار سے لابھ۔ سفر میں فائدہ ہو۔ اس ماہ کی یکم-۳-۲۱-۲۲-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار بدرجہ اوسط۔ آمدن خرچ برابر۔ دشمنوں کی طرف فکر و اندیشہ لگا رہے۔ اولاد کو تکلیف۔ عورت بیمار۔ اگنی دیوتا سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ بیماری پر دھن کا خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۳-۵-۷-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں ترقی نہ ہو۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ والدین کو کشٹ۔ دشمن مغلوب۔ دوستوں سے بگاڑ۔ سفر میں جانے سے جھگڑا و فساد ہو جاوے۔ چوپایہ کا سکھ۔ عورت کی صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۷-۱۲-۱۷-۱۸ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ راج دربار میں مان۔ جھگڑے میں کامیابی۔ امید پوری۔ دشمن ناش۔ والدین کو کشٹ۔ عورت سے سکھ۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا ہے۔ اس ماہ کی یکم-۳-۵-۱۳-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار بدرجہ اوسط۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ لیکن کسی دشمن کی کارستانی سے کچھ دھن کی ہانی ہوگی۔ پورا اگنی سے بچے۔ بچانا ہو جاوے۔ والدین سے بگاڑ۔ دوستوں سے امداد ملے۔ بھائیوں سے رنجش۔ درد سر کی تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۸-۱۱-۱۲-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں کشا کشی۔ تجارتی کاروبار میں لابھ ہو۔ امیدوں میں کامیابی۔ دشمنوں کا ناش۔ عورت سے کلیش۔ سفر میں جانے سے تکلیف۔ وزیر بیماری ہو۔ دل کو فکر و تشویش لگی ہے۔ نزلہ و زکام سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۷-۸-۱۰-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہوگا۔ راج دربار میں ناکامیابی۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ سفر میں جانے سے مایوسی اور دھن ہانی ہو۔ خویشوں سے لڑائی جھگڑا۔ عورت سے محبت۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی یکم-۱۲-۱۸-۱۹-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کی ہانی ہو۔ خرچ بہت زیادہ لگا رہے۔ حسب زیر باری ہو جاوے۔ بیماری کا سکھ ملے۔ لواحقین سے تکلیف۔ اولاد کی طرف فکر لگا رہے۔ عورت بیمار۔ تنزلی کا خوف۔ اگنی سے احتیاط۔ اس ماہ کی یکم-۲-۵-۹-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ۔ راج دربار میں مان۔ دشمن ناش ہوں۔ کسی دوست کا ملاپ۔ عورت کی صحت خراب۔ اولاد میں دھن کا خرچ زیادہ۔ امیدوں میں کامیابی ہو۔ سفر میں کشٹ ہو۔ اس ماہ کی ۲-۵-۱۵-۱۷ تاریخ خراب ہے۔

## پیشنگوئی بذریعہ آسمانی علامات

## بارہ مہینوں کا ثمرہ

سلسلہ کیلئے دیکھو مشہور عالم جنتری سال گذشتہ

### ماہ ہاڑ بدی پکھ

اگر یکم کو ہوا چلے یا بادل گرجے تو ماہ ساون میں بارش خوب ہو۔ اگر بروز اشٹمی چاند بادلوں میں چھپا رہے تو اس سال میں غلہ ارزاں اور بارش خوب ہو۔ اگر روہنی نچھتر دسمی کے روز ہو تو اس سال میں بارش کثرت سے ہو۔ اگر ایکادشی کو ہو تو فصل اچھا ہو۔ اگر ترودشی کے دن روہنی نچھتر ہو۔ تو آندھیاں کثرت سے آویں۔ طوفان باد سے بہت نقصان ہو۔ اگر چودش کو روہنی نچھتر ہو۔ تو اناج گراں۔ بارش کم۔ لوگوں کو تکلیف ہو۔ اگر اماوس بروز منگلوار ہو تو اس ماہ میں ٹڈی پڑے۔ بارش کم خشک سالی ہو۔

### ماہ ہاڑ سدی پکھ

اگر بروز پنچمی پچھم کی ہوا چلے یا قوس قزح نظر آوے۔ تو غلہ ماہ کارتک میں گراں ہو۔ اگر چھٹ کے روز بجلی چمکے۔ تو اس سال میں فصل خوب ہو۔ اگر اشٹمی کو مطلع صاف رہے اور راتری کو بادل ہوں۔ تو ساون میں بارش خوب ہو۔ اگر نومی کے دن مطلع صاف رہے اور شام کو بادل رہیں۔ تو تمام ساون میں بارش بہت کثرت سے ہو۔

اگر پورنماشی کے دن بارش ہو تو غلہ گراں کرے۔ اگر پورنماشی کو جنوب کی ہوا چلے۔ تو ٹڈی پڑے۔ چوپایوں کا نقصان بہت ہو۔ پچھم کی ہوا چلے تو لوگوں میں خوشی ہو۔ اگر دکھن کی ہوا چلے تو پھل پھول کا ناش کرے۔ اگر اتر کی ہوا چلے تو بارش خوب ہو۔ غلہ ارزاں۔

اگر پورنماشی کو بادل گرجے۔ تو اس سال زراعت کی پیداوار خوب ہو۔ اگر رات کو آسمان صاف رہے۔ تو قحط سالی کی نشانی ہے۔

## نوٹ

اگر آپ کو موسمی علامات کے ذریعہ غیب دانی سیکھنے کا شوق ہو۔ اور ہر قسم کے حالات کی نسبت آئندہ کی پیشنگوئیاں بلا امداد دیگرے کرنا چاہو۔ تو ہماری کتاب [illegible] آسمانی منگوا کر ملاحظہ کریں۔ قیمت فی جلد بارہ آنے محصول ڈاک چار آنے کل قیمت ایک روپیہ

ملنے کا پتہ

**منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

# جوتش کے متعلق روزمرہ کی کارآمد باتیں

## مہورت یاترا یعنے سفر

یہ نہایت ضروری اصول ہے۔ کہ سفر کے وقت دشا شول چندرما یوگنی کال چکر کو ضرور دیکھ لینا چاہئے۔ تاکہ کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ اگر وقت روانگی دشا شول یا یوگنی یا کال چکر سامنے یا داہنی ہوں۔ تو باعث نقصان اور موجب رنج ہوتے ہیں۔ اور چندرمان کا بوقت روانگی سامنے یا داہنے ہونا دلی مرادوں کو بر لاتا ہے۔ اور سفر میں فائدہ ہوتا ہے۔ بشرطیکہ چندرماں کی پوشاک کا رنگ مخالف نہ ہو۔ لہٰذا سب کی جدولیں ذیل میں درج ہیں۔







### نقشہ مقامات چندرا

| | | | |
|---|---|---|---|
| راس | میکھ، برکھ | کنیا، تلا | سنگھ، کنبھ |
| چندرمان | کرک، مکر | متھن، بچھو | مین، برچھک |
| مقام | سورگ لوک | پاتال لوک | مرت لوک |
| نتیجہ | کامیابی | لابھ | حیرانی |

### نقشہ مقامات چندرمان

| چندرمان در راس | میکھ، سنگھ، دھن | برکھ، کنیا، مکر | متھن، تلا، کنبھ | کرک، برچھک، مین |
|---|---|---|---|---|
| جانب سمت | پورب | دکھن | پچھم | اتر |
| رنگ پوشاک | سرخ | سفید | زرد | سیاہ |
| خواص | مقابل ہو تو حصول زر | داہنے ہو تو فائدہ | پس پشت موت | [illegible] |

### سفر کے وقت نیک شگون

مندرجہ ذیل شگون سامنے سے آنے نیک ہوتے ہیں۔

گائے۔ گھوڑا۔ ہاتھی۔ سفید بیل۔ ڈولی۔ نیولا۔ ہرن۔ لڑکی۔ ناریل۔ دودھ۔ دہی۔ عورت بچوں کے ساتھ۔ کوئی روتا ہو۔ پانی کا بھرا ہوا برتن۔ گھی۔ شراب۔ آئینہ۔ شور۔ پاکی۔ باجہ۔ خاکروب۔

### سفر کے وقت نحس شگون

مندرجہ ذیل شگون سامنے سے آنے نحس ہوتے ہیں۔

آگ جس سے دھواں نکلتا ہو۔ ہڈیاں۔ سانپ۔ تیل بیچنے والا۔ بلی۔ گیروے کپڑے والا۔ لنگڑا۔ بیمار۔ برہنہ آدمی۔ دھوبی۔ غصہ ور آدمی۔ بیوہ عورت۔ حاملہ۔ حیض والی عورت۔

### سفر کے لئے سعد نچھتر

چونکہ ہر سمت کے لئے مندرجہ ذیل نچھتر سعد ہیں۔ اگر کوئی مہورت نہ بنتا ہو تو ان کا خیال کر کے سفر کرے۔

| سمت | نچھتر جو سمت کے لئے سعد ہیں | کیفیت |
|---|---|---|
| مشرق | اشونی۔ پشیہ۔ مرگشرا۔ انورادھا۔ [illegible] | اگنی کون کے لئے بھی سعد ہیں |
| مغرب | روہنی۔ پشیہ۔ مولا۔ پوروا کھاڑا۔ دھنشٹا۔ [illegible] | وایو کون کے لئے بھی سعد ہیں |
| شمال | [illegible] اترا بھادرپد۔ ریوتی [illegible] | ایشان کون کے لئے بھی سعد ہیں |
| جنوب | اشونی۔ [illegible] اترا پھالگنی۔ ہست۔ سواتی۔ چترا | نیرت کون کے لئے بھی سعد ہیں |

# چندرماں کی سواری دیکھنے کا طریقہ

معتقدان علم جوتش وقت سفر چندرمان کی سواری کا لحاظ بھی رکھتے ہیں جس کا کلیہ اصول ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

جس روز سفر کرنا ہو۔ اس روز دیکھو۔ کہ کون نچھتر ہے۔ پس اپنے جنم نچھتر سے یوم نچھتر تک شمار کرو۔ اور مجموعہ شمار کو ۹ پر تقسیم کر کے باقی کو نقشہ ذیل میں دیکھو۔ پس اس کے نیچے جو سواری لکھی ہے۔ اس روز وہی سواری چندرماں کی ہوگی۔ اور اس کا نیک و بد ثمرہ بھی اس کے زیریں لکھا ہے۔ دیکھ لو۔

| تعداد اعداد | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سواری | گدھا | گھوڑا | ہاتھی | مینڈھا | گیدڑ | شیر | کوا | مور | ہنس |
| نتیجہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**مثال**۔ ایک شخص رام چندر کی تلا راس اور نچھتر سواتی ہے۔ اور یکم اپریل کو ہست نچھتر میں وہ سفر کو جانا چاہتا ہے۔ اس روز کی سواری راس سے معلوم کرنی ہے پس سواتی نچھتر سے ہست ۲۷ نچھتر ہے۔ اس لئے ۲۶ کو ۹ پر تقسیم کیا۔ تو باقی آٹھ رہے۔ نقشہ مندرجہ بالا میں دیکھا۔ تو ۸ کے زیریں مور کی سواری درج ہے جو شبھ ہے پس اس روز سفر کرنے پر زر و مال کی ترقی اور طبیعت خوش رہے۔

## سفر کے لئے سربانک یوگ

جس وقت جانے کا ارادہ ہو۔ اس وقت کی تتھ و یوم و نچھتر اپنے نام کے حروف کو شمار کر کے جمع کرے یعنے تتھ کو پڑوا سے۔ دن کو اتوار سے اور نچھتر کو اشنی سے شمار کرے اور اپنے نام اور یوم کے حروف گن کر سب کو جمع کر کے ۸ پر تقسیم کر دے۔ اور باقی کچھ بچے تو جانے کہ یوگ ہے اور پھر کل جمع کو ۳ سے ضرب کر کے ۸ پر تقسیم کرے۔ پھر بار سوم اسی مجموعہ کو ۲ سے ضرب کرے پھر ۸ پر تقسیم کرے اگر تینوں دفعہ کی تقسیم سے کچھ باقی بچتا ہے تو مبارک۔ اگر کچھ نہ بچے تو حیرانی و پریشانی۔ ارادہ ترک کرے۔

## مہورت چوگھڑیا

### دن کی گھڑیوں کا چوگھڑیا

اگر کوئی مہورت سفر کے لئے نہ بنتا ہو۔ تو اس چوگھڑیا پر عمل کریں۔

| یوم | اول | دوم | سوم | چہارم | پنجم | ششم | ہفتم | ہشتم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار | ادبیگ | چر | لابھ | امرت | کال | شبھ | روگ | ادبیگ |
| سوموار | امرت | کال | شبھ | روگ | ادبیگ | چر | لابھ | امرت |
| منگلوار | روگ | ادبیگ | چر | لابھ | امرت | کال | شبھ | روگ |
| بدھوار | لابھ | امرت | کال | شبھ | روگ | ادبیگ | چر | لابھ |
| برہسپتوار | لابھ | روگ | ادبیگ | چر | لابھ | امرت | کال | شبھ |
| شکروار | چر | لابھ | امرت | کال | شبھ | روگ | ادبیگ | چر |
| سنیچروار | کال | شبھ | روگ | ادبیگ | چر | لابھ | امرت | کال |

### رات کی گھڑیوں کا چوگھڑیا

| شب | اول | دوم | سوم | چہارم | پنجم | ششم | ہفتم | ہشتم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار | شبھ | امرت | چر | روگ | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ |
| سوموار | چر | روگ | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت | چر |
| منگلوار | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت | چر | روگ | کال |
| بدھوار | ادبیگ | شبھ | امرت | چر | روگ | کال | لابھ | ادبیگ |
| برہسپتوار | امرت | چر | روگ | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت |
| شکروار | روگ | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت | چر | روگ |
| سنیچروار | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت | چر | روگ | کال | لابھ |

# شکر برہسپت کے غروب وبڑ ذیل کے کام کرنے ممنوع ہیں

باولی۔ چاہ و تالاب و باغ و مکان بنوانا۔ اور کاریہ آرنبھ اور عورتوں کا آنا جانا اور دان کلان اور جگ۔ گئو دان کرنا۔ اور شادی۔ مونڈن۔ تیرتھ۔ یاترا۔ جنیو۔ بید خوانی۔ بچوں کا نام رکھنا۔ سنیاس کرم۔ ملاقات۔ ملوک۔ راج تلک۔ مسند نشینی۔ شادی وغیرہ وغیرہ کاریہ آرنبھ کرنے منع ہیں۔ اور ماہ لوند میں بھی یہ کام نہیں کرنے چاہئیں۔

# شکر کے مقابل یعنی سنمکھ ہونے کے دوش

شکر تین طرح سے سنمکھ سمجھا جاتا ہے۔ اول جس طرف کا شکر طلوع ہوتا ہے۔ دوم جس راشی میں ہو۔ وہ راس جس جہات سے منسوب ہے۔ وہ طرف بھی سنمکھ سمجھے جائیں گے۔ میکھ سنگھ دھن پورب اور برکھ۔ کنیا و مکر دکھن۔ متھن۔ تلا۔ کمبھ۔ پچھم اور کرک۔ برچھک و مین اتر سے متعلق ہیں۔ سوم اگر سورج اترائن ہو۔ تو شکر اترائن اور دکشائن ہو تو دکشائن ہو جاتا ہے۔ پس ان تین طرح سے زیادہ تر جس طرف شکر اودے ہو جاوے اس طرف جانا درست نہیں۔ بلکہ شکر داہنے ہاتھ میں بھی نہ ہو اور شکر غروب اور بکری کے وقت بھی سفر نہ کرنا چاہئے۔ مگر شکر ریوتی نچھتر سے کرتکا کے پہلے چرن تک اندھا رہتا ہے۔ اس وقت میں سنمکھ جانے کا کوئی دوش نہیں۔ خصوصاً عورتوں کے لئے شکر کا دوش ضروری ہے پس عورتوں کو سنمکھ داہنے شکر یاترا ہرگز نہ کرنی چاہئے۔

# پنچک نچھتروں کی خاصیت

پانچ نچھتر یعنی نصف آخر دھنشٹا۔ ست بھکھا۔ پوربابھادرپد۔ اترابھادرپد۔ ریوتی پنچک کہلاتے ہیں۔ ان میں مردہ جلانا۔ مکان پر چھت ڈالنا وغیرہ وغیرہ ممنوع ہیں۔ مگر ہندی نجومیوں کا قول ہے۔ اگر بدھ وار میں مولا نچھتر ہو یعنی بھرنی۔ اشنی پنچک میں رہتی ہیں۔ دکھی میں پنچک نچھتر ہوں۔ جو لڑکا یا لڑکی ان میں پیدا ہو جلد مر جائے۔ اگر گاؤں آباد ہو۔ تو جلد ویران ہو جاوے۔ اگر بیاہ ہو۔ تو دلہن بیوہ ہو جائے۔ بیمار شفا نہ پاوے۔ سفر سے مراد حاصل نہ ہو۔ ان نچھتروں کو جوالا مکھی کہتے ہیں۔

# تتھوں کے اقسام

تتھوں کے اقسام پانچ ہیں۔ جن کے نام ذیل میں درج ہیں۔

| اقسام | نندا | بھدرا | جیا | رکتا | پورنا |
|---|---|---|---|---|---|
| تتھ | ایکم چھٹھ گیارس | دوج ساتیں بارس | تیج آٹھیں تیرس | چوتھ نومی چودس | پنچمی دسمی پورن ماشی اماوس |

شکل پکش کی نندا اور رکتا کی تتھیں پہلے ناقص ہیں۔ بھدرا اور پورنا مدہم ہیں۔ اور جیا اچھے ہیں۔ کرشن پکش کی نندا اور رکتا [illegible] بھدرا اور پورنا مدہم اور جیا [illegible] ہر کام کے آرنبھ [illegible] شروع کرتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

# ناقص یوگوں کا چکر

جس روز دن و نچھتر و تتھ اس نقشہ کے مطابق ہو۔ اس روز کوئی شبھ کام نہ کرو۔

| یوم | اتوار | سوموار | منگلوار | بدھوار | ویروار | شکروار | سنیچروار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نچھتر | بشاکھا<br>بھرنی<br>مگھا<br>دھنشٹا<br>اتراکھاڑ | پورباکھاڑ<br>اتراکھاڑ<br>چترا<br>سواتی<br>بشاکھا | اتراکھاڑ<br>آردرا<br>دھنشٹا<br>ست بھکھا<br>پوربابھادرپد | دھنشٹا<br>بھرنی<br>مولا<br>ریوتی<br>اشونی | ست بھکھا<br>کرتکا<br>روہنی<br>مرگشرا<br>آردرا<br>اترا پھالگنی | روہنی<br>جیشٹھا<br>پکھ<br>[illegible]<br>[illegible] | پوربا پھالگنی<br>اتراکھاڑ<br>چترا<br>[illegible]<br>ریوتی<br>اترا پھالگنی |
| تتھ | سپتمی<br>دوادشی<br>[illegible] | چھٹھ<br>ایکادشی<br>[illegible] | دوج<br>دسمی | اشٹمی<br>[illegible]<br>پنچمی | [illegible]<br>[illegible]<br>سپتمی | دوج<br>[illegible] | [illegible]<br>سپتمی |

# ایام بیماری وحیات وممات معلوم کرنا

**نچھتر کشٹاولی)** ہر ایک نچھتر کے چار چرن (حصے) ہیں۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اس روز جنتری میں دیکھیں کہ کون نچھتر ہے۔ پس اس نچھتر کی گھڑیاں نکال کر اس کے چار حصے کرو۔ اور دیکھو کہ کتنے روز کا کشٹ ہے۔ صفر نشان موت ہے۔ وہ چیزیں جس کا اپاؤ لکھا ہے کر اور پرمیشر شفا دے گا۔

| نام نچھتر | تعداد کشٹ |  |  |  | اپاؤ دان |
|---|---|---|---|---|---|
|  | چرن اول | چرن دوم | چرن سوم | چرن چہارم |  |
| اسونی | ۹ | ۰ | ۳ | ۲۱ | [illegible] |
| بھرنی | ۰ | ۴۰ | ۳ | ۲۱ | تیل |
| کرتکا | ۶ | ۳۱ | ۷ | ۲۱ | سونا |
| روہنی | ۷ | ۵ | ۱۱ | ۳۰ | گھی |
| مرگشرا | ۳ | ۵ | ۲۵ | ۷ | تل |
| آردرا | ۰ | ۸ | ۰ | ۳ | [illegible] |
| پنربس | ۵ | ۳۱ | ۳ | ۲۷ | تل |
| پکھ | ۷ | ۳۱ | ۳ | ۱۲ | چاول |
| اشلیکھا | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | [illegible] |
| مگھا | ۴۰ | ۱۳ | ۲۷ | ۳۰ | گڑ |
| پوربا پھالگنی | ۱۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۳ | [illegible] |
| اترا پھالگنی | ۱۵ | ۶ | ۱۷ | ۱۳ | [illegible] |
| ہست | ۱۵ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۳ | [illegible] |
| چترا | ۱۵ | ۱۲ | ۷ | ۴۲ | دودھ |
| سواتی | ۶ | ۰ | ۱۴ | ۱۰ | [illegible] |
| بشاکھا | ۱۰ | ۱۵ | ۱۳ | ۴ | [illegible] |
| انورادھا | ۱۰ | ۲۵ | ۱۳ | ۲۰ | [illegible] |
| جیشٹھا | ۱۵ | ۴۸ | ۱۱ | ۴ | تل |
| مولا | ۱۰ | ۴۰ | ۲۵ | ۱۳ | [illegible] |
| پوربا کھاڑ | ۳۰ | ۲۶ | ۲۵ | ۱۱ | گڑ |
| اترا کھاڑ | ۲۸ | ۱۷ | ۲۵ | ۱۵ | [illegible] |
| شرون | ۳۰ | ۴۸ | [illegible] | ۱۳ | [illegible] |
| دھنشٹا | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | [illegible] |
| ست بھکھا | ۱۵ | ۱۰ | ۲۵ | ۶ | [illegible] |
| پوربا بھادرپد | ۱۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۰ | [illegible] |
| اترا بھادرپد | ۰ | ۶ | ۱۵ | ۲۳ | [illegible] |
| ریوتی | ۳۱ | ۳۷ | ۱۵ | ۰ | تل |

## زندگی وموت دیکھنا

اگر کسی بیمار کی زندگی اور موت کا حال دیکھنا ہو تو چاہئے کہ اس کے نام کے اعداد [illegible] لکھو اور جس روز وہ بیمار ہوا ہو۔ اس روز سے [illegible] ایام اس روز تک گذرے ہوں ان میں جمع کرو۔ اور کل جمع کو ۳۰ پر تقسیم کردو۔ جو باقی رہے اسے لوح حیات وممات میں دیکھو۔ اگر لوح حیات میں ہوں تو زندہ۔ اگر لوح ممات میں ہوں۔ تو مر جاوے [illegible] سے معلوم ہوتا ہے۔

## لوح حیات

| | | |
|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۸ |
| ۱۰ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۹ | ۲۲ | ۲۰ |
| ۲۵ | ۲۴ | ۲۹ |

## لوح ممات

| | | |
|---|---|---|
| ۲ | ۴ | ۵ |
| ۷ | ۶ | ۹ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۸ |
| ۲۱ | ۲۳ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۳۰ |

# ناقص گرہ کا اپاؤ

اگر بقعداد علم جوتش ناقص گرہ ہو یا [illegible] نحوست کے لئے اپاؤ وغیرہ کے لئے استعمال فرماتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک گرہ کا دان و جپ اور اس کا منتر ذیل میں مفصل طور پر درج کر دیا گیا ہے۔ جس گرہ کا نقص ہو [illegible] اول [illegible] ورنہ کسی [illegible] کرایا جاوے۔

| نام گرہ | تفصیل اشیاء دان | منتر | تعداد جپ |
|---|---|---|---|
| سورج | [illegible] گیہوں [illegible] چندن۔ لال [illegible] | [illegible] | ۷ ہزار |
| چندرماں | موتی۔ چاندی۔ چاول۔ کپور۔ سفید کپڑا۔ [illegible] | [illegible] | ۱۱ ہزار |
| منگل | مونگا۔ گڑ۔ [illegible] سونا۔ تانبا۔ پھول [illegible] | [illegible] | ۱۰ ہزار |
| بدھ | کانسی۔ مونگی۔ [illegible] | [illegible] | ۹ ہزار |
| برہسپت | [illegible] | [illegible] | ۱۹ ہزار |
| شکر | ہیرا۔ [illegible] چاندی۔ چاول۔ دودھ۔ [illegible] | [illegible] | ۱۶ ہزار |
| سنیچر | [illegible] تیل۔ ماش۔ [illegible] | [illegible] | ۲۳ ہزار |
| راہ | [illegible] تیل [illegible] | [illegible] | ۱۸ ہزار |
| کیت | کستوری۔ [illegible] | [illegible] | ۱۷ ہزار |

## گنڈانت نچھتروں کا بچار

اشنی۔ ماگھا۔ مول نچھتر کے اول کی ۲ گھڑی اور جیشٹا۔ اشلیکھا اور ریوتی نچھتر کے آخر کی ۲ گھڑی گنڈانت کہلاتی ہیں۔ جو شبھ کاموں میں ناقص ہیں۔ اگر اس میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو۔ تو ناقص ہے۔

## لڑکے کے پیدا ہونے کی خاصیت

اگر مولا نچھتر کے اول چرن میں پیدا ہو تو والد کا۔ دوسرے چرن میں پیدا ہو تو والدہ کا۔ تیسرے چرن میں پیدا ہو۔ تو دولت کا ناش کرتا ہے۔ اگر اشلیکھا کے چرن اول میں پیدا ہو۔ تو مبارک۔ دوسرے میں پیدا ہو۔ تو دولت کا نقصان کرے تیسرے میں والدہ اور چوتھے میں والد کا نقصان کرے +

**لڑکے کے دانت نکلنے کا ثمرہ** - اگر پہلے ماہ میں بچے کے دانت نکلیں تو مر جائے ۲ ماہ میں چھوٹے بھائی کو ضرر دے۔ ۳ ماہ میں ہمشیرہ کو ناقص ۴ ماہ میں والدہ کی نیت غالب ہو۔ ۵ ماہ میں برادران کلاں کو ناقص۔ ۶ ماہ میں عمر بھر خوش گذران ہے ۷ و ۸ ماہ میں والدین کو آرام ملے۔ ۹ ماہ میں بیمار ہو۔ ۱۰ ماہ میں دولتمند ہو (نوٹ) یہ ثمرہ نیچے کے دانت نکلنے کا ہے۔ اگر ان دس مہینوں میں اُوپر کے دانت نکلیں۔ تو والدین او بھائیوں کو ناقص ہے۔

## لڑکی کی پیدائش کی خاصیت

اگر لڑکی مولا نچھتر میں پیدا ہو۔ تو خوش دامن۔ اگر اشلیکھا میں ہو۔ تو خسر اگر جیشٹا میں ہو تو جیٹھ۔ اگر بشاکھا میں ہو۔ تو دیور اس کو مر جاوے مگر بشاکھا کے اول کے ۳ چرنوں اور اشلیکھا کے اول چرن اور مولا کے آخر چرن میں پیدا ہو تو کوئی نہ مرے۔

## نقشہ اندھ مندھ نچھتر

### چوری گئے ہوئے مال کا حال دیکھنے کیلئے

| قسم نچھتر | نام نچھتر | چوری کی طرف گئی | کیفیت |
|---|---|---|---|
| اندھے | روہنی۔ پکھ۔ بشاکھا۔ دھنشٹا<br>ریوتی۔ پوربا بھادرپد۔ اترا پھالگنی | پورب کو | جلد ملے |
| کانے | مرگشرا۔ اشلیکھا۔ ہست۔ اترادھا<br>ستبکھا۔ اشنی۔ اترا کھاڑہ | دکھن کو | ۳ دن کے بعد ملنے کی امید ہے |
| چپٹے | آردرا۔ مگھا۔ چترا۔ جیشٹا۔ بھرنی<br>پوربا بھادرپد۔ | پچھم کو | کوشش کرنے پر ایک ماہ تک مل جائے |
| سجاکھے | پنربس۔ سواتی۔ مولا۔ شرون۔ کرتکا<br>پوربا پھالگنی۔ اترا بھادرپد | اتر کو | ہرگز نہ ملے |

## ترپشکر یوگ

اگر منگلوار سنیچروار۔ اتوار کو دوج۔ سپتمی یا دوادشی تتھ ہو۔ اور اس روز وشاکھا۔ اتراپھالگنی یا اترابھادرپد نچھتروں میں سے کوئی نچھتر ہو۔ تو اس روز ترپشکر یوگ ہوتا ہے۔ جو منحوس ہے۔ اسکے بارے میں لکھا ہے کہ اس یوگ میں اگر کسی گھر میں موت ہو جاوے۔ تو پھر اس کے بعد جلد ہی اس گھر میں دو موتیں اور ہوں۔ اگر چوری ہو جاوے۔ تو دو مرتبہ پھر چوری ہو۔ غرضیکہ جو مصیبت ایسے وقت میں پیش آوے۔ وہ دو مرتبہ پھر ہو +

## ہر کام میں کامیابی اور ناکامیابی دیکھنے کا طریقہ

روایت ہے کہ بادشاہ سکندر ہر مہم میں اس طریقہ پر عمل کرکے فتح و نصرت پاتا تھا۔ پس لڑائی جھگڑے یا مقدمات میں دیکھنا چاہئے کہ کون غالب اور کون مغلوب ہوگا۔ بلکہ ہر کام میں اس کا دیکھنا ضروری ہے۔

مثلاً عورت و خاوند میں خاوند غالب اور عورت مغلوب ہونی چاہئے پس جو شخص اس قاعدہ پر عمل کرکے اپنے آپ کو غالب اور طرف ثانی کو مغلوب دیکھ کر کام کرے گا۔ وہ ہر مراد میں کامیابی اٹھائیگا۔

**طریقہ** یہ ہے کہ غالب مغلوب کے نام کے حروف مفرد الگ کر کے بموجب نقشہ ذیل اعداد نکالے۔

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | ب | ج | د | ہ | و | ز | ح | ط | ی | ک | ل | م | ن |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۵۰ |
| س | ع | ف | ص | ق | ر | ش | ت | ث | خ | ذ | ض | ظ | غ |
| ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ |

ہر ایک نام کے اعداد کو علیحدہ علیحدہ جمع کرکے ہر ایک کو ۹ پر تقسیم کرے۔ اگر دونوں ناموں کے اعداد باقی طاق رہیں۔ تو جس کے اعداد کم ہونگے۔ وہ غالب رہیگا۔ اور اگر ایک آدمی کے طاق اور دوسرے کے جفت رہیں گے تو جس کے اعداد زیادہ ہونگے۔ وہ غالب رہیگا۔ اگر دونوں کے مساوی رہینگے تو جو عمر میں چھوٹا ہوگا۔ وہ غالب ہوگا۔

## امرت یوگ ہر کام کو سدھ ہے | اگوکنٹک یوگ ہر کام کو نحس ہے

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## سرب ارتھ سدھ یوگ چکر

ہر کام کے لئے مبارک ہے

| یوم | اتوار | سوموار | منگلوار | بدھ وار | ویروار | شکروار | سنیچروار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مولا<br>پکھ<br>اشنی<br>ہستہ<br>اترشترا | روہنی<br>مرگشر<br>پکھ<br>اترادھا<br>شرون | اشنی<br>کرتکا<br>اشلیکھا<br>اترابھادرپد | روہنی<br>ہست<br>کرتکا<br>مرگشر<br>اترادھا<br>اشلیکھا | ریوتی<br>اترادھا<br>اشنی<br>پنربس<br>پکھ | شرون<br>اترادھا<br>اشنی<br>پنربس<br>ریوتی<br>پوربا پھالگنی | شرون<br>سواتی<br>روہنی |

## سفر کے لئے مبارک یوگ

سفر کے وقت دیکھنا چاہئے کہ سورج کس نچھتر پر ہے۔ اور چندرمان کس نچھتر پر ہے۔ پس سورج کے نچھتر سے چندرمان کے نچھتر تک شمار کرو۔ اگر شمار میں چوتھا۔ چھٹا۔ نواں۔ دسواں یا بارھواں ہو۔ تو سفر کیلئے نہایت مبارک ہے۔ ایسے وقت میں یوگنی دشا شول وغیرہ کا کوئی دوش نہیں ہے۔

## گمشدہ چیزوں کا حال دیکھنا

اگر مگھا نچھتر سے اترا پھالگنی تک کوئی چیز گم ہو جاوے۔ تو جلد مل جاوے۔ اگر ہست سے دھنشٹا تک گم ہو۔ تو لینے والا نہ دیوے۔ اگر ستبکھا سے بھرنی تک چلی جاوے۔ تو گھر میں پڑی ہے۔ تلاش کرو۔ اگر کرتکا سے اشلیکھا تک گم ہو تو ہرگز نہ ملے۔

**چوپایہ**۔ روہنی سے ۹ نچھتر تک گم ہو تو جنگل میں ہے اگر ۹ نچھتر تک ہو تو گھر کے باہر اور ۹ نچھتر تک گم ہو۔ تو واپس نہ آوے۔ اگر تین نچھتر تک گیا ہو۔ تو مردہ جاننا چاہئے۔

# ہزاروں سوالات کا ایک جواب!

ملک کے ہر حصہ میں ہزاروں لاکھوں آدمی ایسے موجود ہیں جو ہمیشہ یہ بات دریافت کرتے رہتے ہیں کہ اس زمانہ میں طاقت مردمی یعنی مردانہ بیماریوں کیلئے عمدہ سے عمدہ اور نہایت زود اثر دوائی کونسی ہے جسکے استعمال سے ایک مرد حقیقی معنوں میں مرد بن جائے۔ لہٰذا تمام ایسے لوگوں کی واقفیت کیلئے اطلاع دی جاتی ہے کہ آج کل امریکن میڈیسن کمپنی نے ان بیماریوں کیلئے جو عجیب و غریب دوائی ایجاد کی ہے اور جس کا نام گولڈین ہے۔ یہ دوائی طاقت مردمی کیلئے ایک ایسی لاجواب دوا ہے جو کبھی خطا نہیں کرتی اور جس کی نسبت دنیا کی رائے ہے کہ یہ دوا نہیں بلکہ جادو ہے جو نامردوں کا پلٹ کر دیتی ہے۔ اس دوائی کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں

## گولڈین کیا ہے؟

(۱) گولڈین اس زمانہ کی ایک جادو اثر ایجاد ہے۔ اور دنیا بھر میں طاقت مردمی یعنی قوت باہ کی لاثانی دوا ثابت ہوئی ہے۔

(۲) اس دوائی کو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے سند یافتہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایک لمبے عرصہ کی چھان بین اور تجربہ کے بعد تجویز کیا ہے اور امریکن میڈیسن کمپنی نے اس کی تحقیقات اور تجربہ پر لاکھوں روپیہ خرچ کئے ہیں

(۳) کمپنی نے اس دوائی کو تیار کرنے سے پہلے ہزاروں [illegible] اور [illegible] پیش کیا ہے۔

(۴) اس دوائی میں جو بیش بہا اور قیمتی چیزیں شامل کی گئی ہیں جن کو دنیا بھر کے تمام ڈاکٹر انسانی کمزوری کیلئے اکسیر اور تریاق مانتے ہیں یعنی اس دوائی میں پہلی چیز گولڈ کلورائیڈ یعنی سونے کا انگریزی کشتہ شامل کیا گیا ہے جو دل دماغ جگر اور اعضائے مردانہ میں نئی روح اور نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز فیرم [illegible] یعنی انگریزی [illegible] فولاد شامل کیا گیا ہے جو جگر کو قوت دے کر خون پیدا کرتا ہے۔ تیسری چیز [illegible] فولاد اور کونین کا مرکب [illegible] ہے جو جگر [illegible] اور پٹھوں کو مضبوط کر کے خون پیدا کرتا ہے۔ اور بدن کی عام کمزوری کو دور کرتا ہے۔

چوتھی چیز [illegible] شامل کی گئی ہے جو [illegible] ایک زود اثر دوائی ہے اور [illegible] زیادہ قیمتی اور زیادہ زود اثر ہے۔ پانچویں چیز مسک یعنی انگریزی کستوری شامل کی گئی ہے جو نہایت مسکن و مقوی ہے۔

چھٹی چیز فاسفورس شامل کیا گیا ہے جو [illegible] سال کی مردہ رگوں میں بجلی کی سی لہر پیدا کر دیتا ہے [illegible] اور [illegible] شامل کئے گئے ہیں جن کو دنیا کے تمام ڈاکٹر قوت مردمی کے [illegible] استعمال کرتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ گولڈین میں ایسی زبردست طاقت والی چیزیں ڈالی گئی ہیں جو سوائے کمپنی کے مالک کے اور کسی کو معلوم نہیں ہیں

(۵) اس دوائی یعنی گولڈین کے استعمال سے سستی نامردی جریان (یعنی دھات جانا) سرعت (یعنی جلد فارغ ہو جانا) احتلام (یعنی خواب میں خطا ہو جانا) اور [illegible] تمام مردانہ بیماریاں [illegible] دور ہو جاتی ہیں [illegible] کی بے اعتدالیوں اور [illegible] کی کمزوری [illegible] ایک لطف [illegible] پیدا ہو جاتی ہے۔

(۶) [illegible] استعمال کر کے اپنی طاقت کو ضبط [illegible] بالکل بدل جاتی ہے۔ اس دوائی کی [illegible] کی قیمت صرف چار روپیہ ہے

## گولڈین اپیل

[illegible] کے ساتھ ہی اس [illegible] استعمال [illegible] تمام کمزوریاں [illegible] ہے۔ اور [illegible]

[illegible] اشتہار [illegible] استعمال کر کے اپنی دولت اور زندگی کو برباد [illegible] مذکورہ بالا [illegible]

سول ایجنٹ - جنرل مینیجر سٹار فارمیسی - فاروق گنج - لاہور

## اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے!

تو آپ کا فرض ہے کہ اس کے حسن اور صحت کی حفاظت کریں۔ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عورت کے حسن اور صحت کو برباد کر دینے والی وہ خوفناک بیماری ہے جس کو سیلان الرحم کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ عورت کے اندام نہانی سے سفید، زرد، یا نیلے رنگ کی رطوبت بہتی رہتی ہے جس سے عورت کی صحت اور حسن و جوانی کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔ سر چکرا کر درد کرتی اور بدن ٹوٹتا رہتا ہے۔ رنگ زرد، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ [illegible] زیادہ آتا ہے۔ حمل قرار نہیں پاتا۔ اور اگر قرار پا سکے تو قبل از وقت گر جاتا ہے [illegible] اور زیادہ تر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ موذی مرض اندر ہی اندر جسم کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے۔ اس خوفناک بیماری کے [illegible] **نیوالالف** [illegible] پوشیدہ بیماریوں [illegible] **ڈاکٹروں** [illegible]

### کے لئے نیوالالف سے بہتر کوئی دوا نہیں

[illegible]

### عورت کا حسن و شباب

[illegible]

### ایک خاص تحفہ

[illegible]

### بال عمر بھر نہ اگنے کی دوا

[illegible]

## جوانی کی بہار

مندرجہ ذیل ادویات کی تمام خوبیاں بغیر تجربہ کرنے کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ زیادہ تشریح خلاف تہذیب ہے

### محبوب جگر بند

تعریف نام سے ظاہر ہے۔ ضرورت سے صرف ایک گھنٹہ پہلے ایک گولی استعمال کیجئے۔ طاقت اس قدر پیدا ہوگی کہ ایک ہی گھنٹہ کے اندر جوانی کی تمام قوتیں زندہ ہو جائیں گی۔ اور احساس اس قدر کہ گویا جادو ہو گیا۔ دنیا کی کوئی دوا اس خاص صفت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چند روز کے متواتر استعمال سے مرض سرعت ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتا ہے۔ اور لطف یہ کہ اس میں کوئی نشہ دار چیز نہیں ہے۔ قیمت فی درجن گولیاں صرف دو روپے (عہ)

* * *

### طلائے آسمان سیر

یہ خاص الخاص طلاء ہے۔ ضرورت کے وقت استعمال کیجئے۔ میاں بیوی کی محبت عشق کے درجہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک استعمال نہیں کیا۔ تو گویا دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ قیمت فی شیشی جو کئی مرتبہ کے لئے کافی ہے دو روپے . . . . (عہ)

* * *

### گلزار حسن

عجیب و غریب دوائی چہرے کو گورا اور خوبصورت بنانے کے لئے زمانہ حال کی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ صرف چند مرتبہ چہرے پر ملنے سے سیاہ اور مرجھایا ہوا کرخت چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح ملائم، چمکدار، شگفتہ، سفید اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چھائیاں، کیل، مہاسے [illegible] کسی حسین لڑکی کی طرح پیارے پیارے گال [illegible] خوشبو ایسی کہ روح پھڑک [illegible] گویا باغ جنت کی مہک [illegible] پوری تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک شیشی منگا کر تجربہ کیجئے۔ [illegible] تو ہمارا ذمہ۔ قیمت فی شیشی صرف دو روپے . . . . . . (عہ)

### بال سیاہ کرنے کا تیل
### بلیک آئل

مشہور تجربہ کار ماہرین فن ڈاکٹروں نے بالوں کی بناوٹ جلد کی ساخت بال سفید ہونے کی فلاسفی اور اس کے تمام دیگر وجوہات پر غور کر کے سالہا سال کی محنت اور تجربہ کے بعد یہ بال سیاہ کرنے کا تیل ایجاد کیا ہے جس کے بالوں پر لگانے سے سفید بال بالکل اصلی اور قدرتی سیاہ بالوں کی طرح سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور آئندہ بھی سیاہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب کسی خضاب کی ضرورت نہ روز روز مہندی وسمہ لگانے کی حاجت۔ قیمت فی شیشی دو روپے (عہ) علاوہ محصول ڈاک

منگانے کا پتہ: **جنرل منیجر ستار فارمیسی۔ فاروق گنج۔ لاہور**

## کون کہتا ہے کہ مجرب اور آسان نسخہ جات کسی کتاب میں نہیں ملتے

آپ محنت سے کمایا ہوا روپیہ کیوں ڈاکٹروں حکیموں اور ویدوں کی جیبوں میں ڈالتے ہیں ان کی خوشامدیں اور منتیں کرتے ہیں اور کبھی اشتہار بازوں کے پھندے میں آ کر اپنا روپیہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں

اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام مشکلات سے بچ جائیں تو آج ہی ایک جلد کتاب

## "خیر التجارب"

صفحات ۲۶۴ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ
سرورق دیدہ زیب دو رنگ کے بلاک

قیمت سستا ایڈیشن ایک روپیہ آٹھ آنے عہ
اعلیٰ ایڈیشن مجلد دو روپے چار آنے عہ

خرید فرمائیے یہ کتاب ان بازاری کتابوں جیسی نہیں جن کے مصنف ادھر ادھر کی مطبوعہ کتابوں سے نقل کر کے کتاب ہر گھسیٹتے ہیں اور اس کے [illegible] بلکہ یہ کتاب خاندان مغلیہ کے نامور ماہر فن شاہی طبیب عالیجناب حکیم خیر اندیش خاں مرحوم کی بیاض خاص ہے جس کا اصل قلمی نسخہ ۵۰۰ روپیہ کی رقم کثیر صرف کر کے خریدا گیا تھا یہ کتاب حکیم صاحب نے صرف اپنے خاندان کے لئے عرصہ ۱۲۵ سال کا ہوا لکھی تھی جسے بخل کی زنجیروں کو توڑ کر محض خدمت خلق کے لئے ہم نے بالکل صحیح چھاپ دیا ہے۔

**ہمارا دعویٰ ہے کہ** ایسے صحیح مجرب، زود اثر اور بے حد آسان طریق علاج کی کوئی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی اس میں سر سے لیکر پاؤں تک کے جملہ امراض مردانہ و زنانہ کی مع اسباب علامات کے علاوہ ہر مرض کے لئے کئی کئی نہایت ہی آسان کم قیمت [illegible] مل جانے والے زود اثر مجرب المجرب نسخہ جات دیئے گئے ہیں۔ ایک نسخہ بھی ایسا نہیں جو آزمودہ اور سو فیصدی صحیح نہ ہو اس میں امراض مخصوصہ مثلاً سستی۔ نامردی کمی و ضعف باہ کے علاوہ جریان احتلام سوزاک۔ آتشک اور مہلک امراض مثلاً تپ دق سل۔ درد گردہ وغیرہ کے ایسے خاص الخاص نسخے دیئے گئے ہیں کہ آپ ان کا تجربہ کر کے حیران رہ جائیں گے کتاب کے آخر میں ایسے ایسے ٹانک (مقوی) نسخے دیئے گئے ہیں جن کی تلاش میں عام تو درکنار آج کل بڑے بڑے نامور وید و حکیم بھی سرگرداں پھرتے ہیں اور ایسے ممسک لذیذ اور مقوی نسخے دیئے گئے ہیں جن کے ایک ہفتہ کے استعمال سے ۷۰ سال کا بوڑھا بھی نوجوان ہو جائے اور ایسے بے نظیر طلا اور مقوی روغن کے نسخے ہیں جو تمام خرابیوں کو چند روز میں دور کر دیں اس مختصر اشتہار میں اس کی مکمل تعریف نہیں ہو سکتی آپ کتاب دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور خود کہیں گے کہ انمول نسخہ جات کا خزانہ کوڑیوں کے عوض مل گیا اصل قلمی بیاض کے دو اوراق کا فوٹو شامل کتاب ہے۔ حجم ۲۶۴ صفحات۔ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ سرورق دیدہ زیب محض برائے افادہ عام قیمت بہت کم رکھی ہے تاکہ ہر شخص بآسانی خرید سکے قیمت سستا ایڈیشن عہ ایک روپیہ آٹھ آنے اعلیٰ ایڈیشن مجلد کاغذ سفید اعلیٰ قیمت دو روپے چار آنے ۲/۴ علاوہ محصولڈاک

### بیشمار تصدیقی و تعریفی خطوط میں صرف دو خطوط

(۱) [illegible] صاحب بنارس سے لکھتے ہیں کتاب خیر التجارب ملی آپ کی [illegible] نسخہ جات آزمائے ہر ایک [illegible]

(۲) ایڈیٹر صاحب رسالہ حکمت لکھتے ہیں [illegible] نسخہ جات اس کتاب میں [illegible] عجیب و غریب [illegible] کتاب طب [illegible]

اور [illegible] والوں کے لئے [illegible]"

اگر آپ قلیل سرمایہ سے بے شمار دولت کمانا چاہتے ہیں تو ہماری مشہور و معروف کتاب

## طبی مرغی خانہ
## تجارتی مرغی خانہ

آج ہی خرید فرمالیجئے


(بالتصویر)

یہ مشہور آفاق کتاب امریکہ کی [illegible] ماہرین کی تصنیفات اور پولٹری ایکسپرٹ ایم آئی پی سی و ڈاکٹر سپرنٹنڈنٹ پولٹری فارم کے ۲۰ سالہ ذاتی تجربات کا نچوڑ ہے [illegible] مرغی خانہ کے متعلق [illegible] اس کی مدد سے [illegible] شخص بھی بآسانی روپیہ کما سکتا ہے اور کبھی کاروبار میں ناکام نہیں ہو سکتا اس کتاب کے سامنے تمام بازاری کتابیں ہیچ ہیں اس کتاب کے [illegible] ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہو چکے ہیں اس کی تعریف ہزاروں شائقین کے علاوہ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ یوپی و ریاست حیدر آباد کے نامور ماہرین نے کی ہے اور اس کی خریداری ممالک محروسہ [illegible] کے لئے جناب ڈائرکٹر [illegible] حیدر آباد نے منظور فرمائی ہے [illegible] خوبصورت فوٹو دی گئی ہیں صفحات [illegible] لکھائی چھپائی و کاغذ نہایت اعلیٰ قیمت ہر دو حصے یکجا مجلد سنہری جلد تین روپے علاوہ محصولڈاک۔

## افزائش باہ

[illegible]

[illegible] مطابق [illegible] نامردی [illegible]

[illegible] ازدواجی زندگی [illegible]

[illegible] صفحات ۲۰۰ [illegible]

سرورق دیدہ زیب قیمت محض برائے افادہ عام [illegible]

علاوہ محصولڈاک

پتہ ملنے کا! کامریڈ جنرل سپلائی کمپنی ملتانی سٹریٹ - لاہور (پنجاب)

# غریبوں اور ناداروں کو مالامال بنانیوالی کتابیں

## خفیہ صنعتی بیاض

یہ کتاب جس میں معدنوں میں چاندی کی شکلیں اور جواہرات کا خزانہ ہے کیونکہ اسمیں صنعت وحرفت کے عجیب عجیب قسم کے انگریزی ولایتی صابن چاندی کی طرح چمکدار صابن - بلوری طرح شفاف صابن - موتی کی مانند آبدار صابن - پانی پر تیرنے والا صابن - کاربالک صابن - گلیسرین کے بغیر گلیسرین صابن - [illegible] کا صابن اون اور ریشم سے تیار کرنیکا صابن - دھات صاف کرنیکا صابن - سن لائٹ کے مقابلہ کا صابن اور تجارت کا صابن ایک پیسہ میں آٹھ سیر دیسی صابن - ایک پیسہ میں ۲۵ سیر دیسی صابن اسکے علاوہ ہر قسم کے تیل عطر روغن - وارنش ہر قسم کے رنگ ہر قسم کے خضاب - ولایتی آتشبازی - ولایتی [illegible] - ولایتی اسینس یعنی ست - لکھنے کی [illegible] صنعت و حرفت [illegible] پائی جائیں گی۔

**پہلی خوبی** اسمیں صنعت وحرفت کی تمام کتابوں کی طرح نسخے بنانے اور [illegible] نہیں بلکہ ہر نسخہ کو کئی مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے۔

**دوسری خوبی** اسمیں تمام چیزوں کو بنانے کے ایسے مفصل طریقے درج ہیں [illegible] بغیر استاد کی مدد کے فوراً تیار کی جا سکتی ہے۔

**تیسری خوبی** اسمیں [illegible] ایسی چیزوں کے نسخے ہیں جو ہر سال کروڑوں روپیہ کی ولایت سے آکر فروخت ہوتی ہیں اور جن کے نسخے ہندوستان میں کسی کو معلوم نہیں [illegible] ایسے نسخے [illegible] اگر ان کو تیار کرکے فروخت کیا جائے - تو لاکھوں روپیہ پیدا کئے جا سکتے ہیں۔

**چوتھی خوبی** اسکے شروع میں ۲۵ صفحہ کا ایک عجیب غریب مضمون لگایا گیا ہے جس میں ان چیزوں کو تیار کرکے بازار میں لانے اور ان کی تجارت سے ہزاروں روپیہ ماہوار پیدا کرنے کے وہ خفیہ تجارتی راز اور ڈھنگ بتائے گئے ہیں جو ہزاروں روپیہ خرچ کرکے [illegible] غرض کہ کتاب ایسی مکمل ہے کہ [illegible] استاد کی مدد کے [illegible] شروع کرکے [illegible] تھی کہ اس کتاب کی قیمت پچاس روپے [illegible] اپنے غریب اہل وطن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے فی الحال صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ قیمت رکھی ہے۔

## بغیر سرمایہ کے روزی کمانیکے طریقے

یہ کتاب زندگی سے تنگ آئے ہوئے غریب نادار اور بے روزگار لوگوں کے لئے امید کی سنہری کرن ہے جس نے کئی بے روزگاروں کو جو فاقہ کشی سے مجبور ہو کر خودکشی پر آمادہ تھے موت کے منہ سے بچا لیا ہے۔ اسمیں صنعتی نسخے نہیں ہیں بلکہ وہ روزگار - تجارتیں ہنر اور کاروباری طریقے درج ہیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں اور جن کے ذریعہ ہر شخص خواہ کسی حیثیت یا لیاقت کا ہو بغیر کسی سرمایہ کے باعزت اور با آرام طور پر پچاس روپیہ ماہوار سے تین سو روپیہ ماہوار تک کما سکتا اور چند روز میں [illegible] سے دولتمند بن سکتا ہے۔

تمام وہ لوگ جو بیکاری اور بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ گئے ہوں یا معمولی نوکریوں کے لئے سالہا سال سے جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہوں اس کتاب کا مطالعہ کریں جس میں ہر شخص کی پسند اور مذاق کے مطابق بے شمار سنہری تجویزیں طریقے اور روزگار درج ہیں۔ اور جن میں سے کوئی ایک ہی تجویز آپ کی قسمت کو پلٹ سکتی ہے - جو لوگ پہلے کوئی کام کرتے ہوں وہ بھی اس کتاب کی مدد سے فالتو وقت میں دو گھنٹے روزانہ کام کرکے اپنی آمدنی کو دوگنا سہ گنا بڑھا سکتے ہیں اور دو [illegible] اس مضمون پر ہندوستان کی پہلی کتاب ہے قیمت ایک روپیہ [illegible]

## اسرار تجارت

یہ کتاب نہیں بلکہ سونے کی کان ہے جس نے تجارتی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اس کتاب میں کسی تجارت کو شروع کرنے کا طریقہ پھر اس کو کامیاب بنا کر عروج و ترقی کی بلند سے بلند چوٹی پر پہنچانے کی بے نظیر تدبیریں اور بالکل معمولی سرمایہ سے آٹھ روپے کی تجارت چلانے کے بہتر سے بہتر ڈھنگ انگریزی زبان کی اعلیٰ نایاب اور قیمتی تجارتی کتابوں سے اخذ کرکے بیان کئے گئے ہیں نیز اس میں اشتہارات کی طاقت سے اور دوسرے تجارتی ڈھنگوں کے ذریعہ تجارت کو ترقی دینے اور ساری دنیا پر جال پھیلا دینے کے عجیب و غریب کم خرچ آسان اور بالکل نئے طریقے بیان کئے گئے ہیں جو ہندوستانیوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہیں اور جن پر نہایت آسانی سے عمل کرکے لاکھوں روپیہ پیدا کیا جا سکتا ہے [illegible] اور صرف ایک [illegible] ہزاروں روپے کا مال بیچ لینے کے عجیب و غریب بالکل آسان طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہندوستان کی اپنی زبان میں اس قسم کی کوئی کتاب موجود نہیں باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف بارہ آنے

### لوگ کیا کہتے ہیں؟

بابو لکھی رام صاحب کوہاٹ سے لکھتے ہیں میں کنگال تھا - آپ کی کتابوں نے مجھے خوشحال کر دیا - میرے بچے آپ کو دعائیں دیتے ہیں

حسن بھائی علی بھائی بمبئی سے تحریر فرماتے ہیں آپ کی کتابیں سونوں میں تولنے کے قابل ہیں آپ نے غریبوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔

ملنے کا پتہ

**سنٹرل بک ڈپو فاروق گنج - لاہور**

نوٹ ان تینوں کتابوں میں سے کوئی کتاب خریدنے کے بعد ناپسند ہو تو اسی وقت واپس کرکے اپنی قیمت منگا لیجئے

## وقتوں کے پیمانے

| ہندی حساب سے وقت کا پیمانہ | ہندی و انگریزی وقت کا مقابلہ |
|---|---|
| ۶۰ اپسپل کا ایک سپیل | ۲½ وپل کا ایک سیکنڈ |
| ۶۰ سپیل کا ایک وپل | ۲½ پل کا ایک منٹ |
| ۶۰ وپل کا ایک پل | ایک گھڑی کے ۲۴ منٹ |
| ۶۰ پل کی ایک گھڑی | ۲½ گھڑی کا ایک گھنٹہ |
| ۶۰ گھڑی کا ایک دن رات | ۶۰ گھڑی کا دن رات |

### انگریزی وقت

۶۰ سیکنڈ کا ایک منٹ۔ ۶۰ منٹ کا ایک گھنٹہ ۲۴ گھنٹے کا دن رات

## دن رات کی کمی بیشی

دن اور رات ہمیشہ برابر نہیں رہتے بلکہ کم و بیش ہوتے رہتے ہیں جن کا حساب اس طرح سے ہے کہ جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ تو دن رات برابر ہوتے ہیں اور قریباً ۲۱ مارچ مطابق ۹ چیت کو ہوتا ہے اس کے بعد دن زیادہ رات کم ہونی شروع ہوتی ہے اور قریباً ۲۲ جون مطابق ۹ اساڑھ تک سب سے بڑا دن ۳۵ گھڑی ۲۰ پل یا ۱۴ گھنٹے ۸ منٹ کا ہوتا ہے اور رات ۲۴ گھڑی ۴۰ پل یا ۹ گھنٹے ۵۲ منٹ کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دن کم ہونا شروع ہوتا ہے اور قریباً ۲۳ ستمبر یا ۹ اسوج کو دن رات پھر دو برابر بارہ بارہ گھنٹے کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دن کم اور رات زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے اور ۲۲ دسمبر مطابق ۹ پوہ کے قریب رات سب سے بڑی یعنی ۱۴ گھنٹے ۸ منٹ اور دن ۹ گھنٹے ۵۲ منٹ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور رات کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ۲۱ مارچ مطابق ۹ چیت کو پھر رات دن برابر ہو جاتے ہیں [illegible]

## رفتار سورج کے ذریعہ وقت دریافت کرنا

ایک تنکا ۱۲ انگل کا سیدھا لیکر اس کو کسی ہموار جگہ پر سیدھا کھڑا کر دینا چاہئے اور زمین کا ۹۰ درجہ کا زاویہ ہو۔ پھر اس کے سایہ کو ناپ لو جس قدر انگل اس کا سایہ ہو اس میں ۱۲ عدد اور جمع کر کے [illegible] تقسیم کرو جو خارج قسمت ہوگی۔ اگر دوپہر سے پہلے ہو تو [illegible] اور اگر بعد دوپہر ہو تو اسی قدر گھڑی دن باقی جانو۔

## آفتاب کے طلوع و غروب دیکھنے کا قاعدہ

جتنی گھڑی پل دنمان ہو اس کو ۵ پر تقسیم کر دو۔ [illegible]

طریقہ دوم۔ [illegible] اگر دن بڑا ہے تو اس قدر ۶ بجے سے پہلے آفتاب طلوع ہوگا اور اتنا ہی ۶ بجے کے بعد غروب ہوگا۔ اور اگر دن چھوٹا ہے تو اسی قدر ۶ بجے کے بعد طلوع ہوگا۔ اور اتنا ہی ۶ بجے سے پہلے غروب ہو جاوے گا۔

## چندرمان کا طلوع و غروب دیکھنا

کرشن پکھ میں چندرمان کے طلوع اور شکل پکھ میں غروب کے وقت دیکھنا ہو تو [illegible] کرشن پکھ کی [illegible] تقسیم کرو۔ جو خارج [illegible]

# بوقت شادی لڑکے لڑکی کی موافقت و ناموافقت دیکھنے کا طریقہ

لڑکے لڑکی کا سمبندھ کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال کر لینا [illegible] ذیل میں درج کرتے ہیں۔

## ورگ چکر

اگر یہ دیکھنا ہو کہ دونوں کے درمیان محبت رہیگی کہ نہیں تو نقشہ مندرجہ ذیل میں دونوں کے نام کے اول حرف سے ورگ دیکھو۔ اگر دونوں میں دوستی ہو تو دوستی اور دشمنی ہو تو دشمنی ہوگی۔

| نمبر شمار | نام کا پہلا حرف | ورگ |
|---|---|---|
| ۱ | ا - ای - او - [illegible] | [illegible] |
| ۲ | ک - کھ - گ - گھ - [illegible] | [illegible] |
| ۳ | چ - چھ - ج - جھ - [illegible] | [illegible] |
| ۴ | ٹ - ٹھ - ڈ - ڈھ - [illegible] | کتا |
| ۵ | ت - تھ - د - دھ - ن | [illegible] |
| ۶ | پ - پھ - ب - بھ - م | [illegible] |
| ۷ | ی - ر - ل - و | [illegible] |
| ۸ | ش - س - ہ - [illegible] | [illegible] |

نقشہ مندرجہ بالا میں ہر ایک ورگ کی اپنے سے پانچویں کے ساتھ [illegible]

## گن چکر

| نمبر شمار | نام کا نچھتر | گن |
|---|---|---|
| ۱ | [illegible] | دیوتا |
| ۲ | [illegible] | منش |
| ۳ | [illegible] | راکشس |

نام کے نچھتر سے گن کو معلوم کرو [illegible]

## ورن چکر

| نمبر شمار | نام راسی | ورن |
|---|---|---|
| ۱ | کرک - برچھک - مین | [illegible] |
| ۲ | میکھ - سنگھ - دھن | [illegible] |
| ۳ | [illegible] | [illegible] |
| ۴ | [illegible] | [illegible] |

لڑکا اونچے ورن کا ہونا چاہئے یا دونوں ایک ہی ورن کے [illegible]

## ناڑی ووش چکر

| نمبر | نام ناڑی | [illegible] |
|---|---|---|
| ۱ | آدناڑی | [illegible] |
| ۲ | [illegible] | [illegible] |
| ۳ | انت ناڑی | [illegible] |

[illegible]

## راشیوں کا مان

[illegible]

## یونی چکر

| نمبر | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نچھتر | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| یونی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| دشمن | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| نمبر | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| نچھتر | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| یونی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| دشمن | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

لڑکے کا نام [illegible] دیکھو اور دشمن ہو [illegible] سمبندھ کرنا اچھا نہیں۔

## گرہوں کی دوستی و دشمنی کا چکر

[illegible]

لڑکے لڑکی کی راشی کے [illegible]

## شادی کا ساہا مقرر کرنا

ساہا مقرر کرنے کے وقت لڑکے لڑکی [illegible] دونوں [illegible]

## شبھ سورج کا بچار

[illegible]

## شبھ برہسپتی کا بچار

[illegible]

## شبھ چندرمان

شادی کے وقت دونوں کو چندرمان [illegible]

## بیاہ کے دوش

[illegible]

## نوٹ

[illegible]

## لگن سپشٹ کرنے کی سارنی

| نام ماہ | ویساکھ | جیٹھ | اساڑھ | ساون | بھادوں | اسوج | کاتک | مگھر | پوہ | ماگھ | پھاگن | چیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لگن | میکھ | برکھ | متھن | کرک | سنگھ | کنیا | تلا | برچھک | دھن | مکر | کنبھ | مین |
| ۰ | ۲<br>۳۰ | ۱<br>۲۲ | ۱۱<br>۸ | ۱۶<br>۴۳ | ۲۲<br>۳۲ | ۲۸<br>۲۷ | ۳۴<br>۱۵ | ۴۰<br>۱۰ | ۴۵<br>۵۹ | ۵۱<br>۱۱ | ۵۵<br>۲۸ | ۵۹<br>۴ |
| ۱ | ۳<br>۳۵ | ۶<br>۲۴ | ۱۱<br>۱۸ | ۱۶<br>۵۳ | ۲۲<br>۴۸ | ۲۸<br>۳۸ | ۳۴<br>۲۵ | ۴۰<br>۲۲ | ۴۶<br>۱۰ | ۵۱<br>۲۱ | ۵۵<br>۳۶ | ۵۹<br>۱۱ |
| ۲ | ۲<br>۴۵ | ۶<br>۳۸ | ۱۱<br>۲۸ | ۱۷<br>۵ | ۲۳<br>۰ | ۲۸<br>۵۰ | ۳۴<br>۳۹ | ۴۰<br>۳۳ | ۴۶<br>۲۲ | ۵۱<br>۳۱ | ۵۵<br>۴۴ | ۵۹<br>۱۸ |
| ۳ | ۲<br>۵۳ | ۶<br>۴۴ | ۱۱<br>۳۸ | ۱۷<br>۱۷ | ۲۳<br>۱۲ | ۲۹<br>۱ | ۳۴<br>۵۰ | ۴۰<br>۴۵ | ۴۶<br>۴۳ | ۵۱<br>۴۱ | ۵۵<br>۵۳ | ۵۹<br>۲۵ |
| ۴ | ۲<br>۵۸ | ۶<br>۵۴ | ۱۱<br>۴۸ | ۱۷<br>۲۸ | ۲۳<br>۲۴ | ۲۹<br>۱۳ | ۳۵<br>۳ | ۴۰<br>۵۷ | ۴۶<br>۵۵ | ۵۱<br>۵۱ | ۵۶<br>۰ | ۵۹<br>۳۴ |
| ۵ | ۳<br>۶ | ۷<br>۲ | ۱۱<br>۵۸ | ۱۷<br>۴۰ | ۲۳<br>۳۴ | ۲۹<br>۲۵ | ۳۵<br>۱۴ | ۴۱<br>۹ | ۴۶<br>۵۷ | ۵۲<br>۱ | ۵۶<br>۸ | ۵۹<br>۳۹ |
| ۶ | ۳<br>۱۲ | ۷<br>۱۰ | ۱۲<br>۸ | ۱۷<br>۵۱ | ۲۳<br>۴۶ | ۲۹<br>۳۶ | ۳۵<br>۲۵ | ۴۱<br>۲۱ | ۴۷<br>۸ | ۵۲<br>۱۱ | ۵۶<br>۱۷ | ۵۹<br>۴۶ |
| ۷ | ۳<br>۱۸ | ۷<br>۱۸ | ۱۲<br>۱۸ | ۱۸<br>۳ | ۲۳<br>۵۸ | ۲۹<br>۴۸ | ۳۵<br>۳۷ | ۴۱<br>۳۳ | ۴۷<br>۲۰ | ۵۲<br>۲۱ | ۵۶<br>۲۵ | ۵۹<br>۵۳ |
| ۸ | ۳<br>۲۶ | ۷<br>۳۸ | ۱۲<br>۲۸ | ۱۸<br>۱۳ | ۲۳<br>۱۰ | ۳۰<br>۰ | ۳۵<br>۴۹ | ۴۱<br>۴۵ | ۴۷<br>۳۱ | ۵۲<br>۳۱ | ۵۶<br>۳۳ | ۶۰<br>۰ |
| ۹ | ۳<br>۴۳ | ۷<br>۳۸ | ۱۲<br>۳۹ | ۱۸<br>۲۴ | ۲۳<br>۲۲ | ۳۰<br>۱۱ | ۳۶<br>۱ | ۴۱<br>۵۶ | ۴۷<br>۴۱ | ۵۲<br>۳۹ | ۵۶<br>۴۰ | ۰<br>۶ |
| ۱۰ | ۳<br>۴۳ | ۷<br>۴۸ | ۱۲<br>۵۰ | ۱۸<br>۳۸ | ۲۴<br>۳۴ | ۳۰<br>۲۳ | ۳۶<br>۱۲ | ۴۲<br>۸ | ۴۷<br>۵۱ | ۵۲<br>۴۷ | ۵۶<br>۴۶ | ۰<br>۱۳ |
| ۱۱ | ۳<br>۵۱ | ۷<br>۵۹ | ۱۳<br>۰ | ۱۸<br>۵۰ | ۲۴<br>۴۵ | ۳۰<br>۳۵ | ۳۶<br>۲۳ | ۴۲<br>۱۹ | ۴۸<br>۱ | ۵۲<br>۵۵ | ۵۶<br>۵۳ | ۰<br>۲۰ |
| ۱۲ | ۳<br>۵۹ | ۸<br>۸ | ۱۳<br>۱۳ | ۱۹<br>۲ | ۲۴<br>۵۷ | ۳۰<br>۴۶ | ۳۶<br>۳۶ | ۴۲<br>۳۱ | ۴۸<br>۱۱ | ۵۳<br>۳ | ۵۷<br>۰ | ۰<br>۲۷ |
| ۱۳ | ۴<br>۷ | ۸<br>۱۸ | ۱۳<br>۲۵ | ۱۹<br>۱۳ | ۲۵<br>۹ | ۳۰<br>۵۸ | ۳۶<br>۴۸ | ۴۲<br>۴۲ | ۴۸<br>۲۱ | ۵۳<br>۱۱ | ۵۷<br>۷ | ۰<br>۳۴ |
| ۱۴ | ۴<br>۱۵ | ۸<br>۲۸ | ۱۳<br>۳۶ | ۱۹<br>۲۴ | ۲۵<br>۲۰ | ۳۱<br>۹ | ۳۷<br>۰ | ۴۲<br>۵۳ | ۴۸<br>۳۱ | ۵۳<br>۱۹ | ۵۷<br>۱۴ | ۰<br>۴۱ |
| ۱۵ | ۴<br>۲۳ | ۸<br>۳۸ | ۱۳<br>۴۸ | ۱۹<br>۳۷ | ۲۵<br>۳۲ | ۳۱<br>۲۱ | ۳۷<br>۱۲ | ۴۳<br>۹ | ۴۸<br>۴۱ | ۵۳<br>۲۷ | ۵۷<br>۲۱ | ۰<br>۴۸ |
| ۱۶ | ۴<br>۳۱ | ۸<br>۴۸ | ۱۴<br>۰ | ۹<br>۴۹ | ۲۵<br>۴۳ | ۳۱<br>۳۳ | ۳۷<br>۲۳ | ۴۳<br>۲۰ | ۴۸<br>۵۱ | ۵۳<br>۳۵ | ۵۷<br>۲۸ | ۰<br>۵۵ |
| ۱۷ | ۴<br>۳۹ | ۸<br>۵۸ | ۱۴<br>۱۲ | ۲۰<br>۱ | ۲۵<br>۵۵ | ۳۱<br>۴۴ | ۳۷<br>۳۵ | ۴۳<br>۳۲ | ۴۹<br>۱ | ۵۳<br>۴۳ | ۵۷<br>۳۵ | ۱<br>۲ |
| ۱۸ | ۴<br>۴۷ | ۹<br>۹ | ۱۴<br>۲۳ | ۲۰<br>۱۳ | ۲۶<br>۷ | ۳۱<br>۵۶ | ۳۷<br>۴۷ | ۴۳<br>۴۳ | ۴۹<br>۱۱ | ۵۳<br>۵۱ | ۵۷<br>۴۲ | ۱<br>۸ |
| ۱۹ | ۴<br>۵۵ | ۹<br>۱۹ | ۱۴<br>۳۵ | ۲۰<br>۲۵ | ۲۶<br>۱۸ | ۳۲<br>۸ | ۳۷<br>۵۹ | ۴۳<br>۵۴ | ۴۹<br>۲۱ | ۵۳<br>۵۹ | ۵۷<br>۴۹ | ۱<br>۱۵ |
| ۲۰ | ۵<br>۳ | ۹<br>۲۹ | ۱۴<br>۴۶ | ۲۰<br>۳۷ | ۲۶<br>۳۰ | ۳۲<br>۱۹ | ۳۸<br>۱۱ | ۴۴<br>۶ | ۴۹<br>۳۱ | ۵۴<br>۷ | ۵۷<br>۵۶ | ۱<br>۲۲ |
| ۲۱ | ۵<br>۱۱ | ۹<br>۳۸ | ۱۴<br>۵۸ | ۲۰<br>۴۹ | ۲۶<br>۴۲ | ۳۲<br>۳۱ | ۳۸<br>۲۳ | ۴۴<br>۱۶ | ۴۹<br>۴۱ | ۵۴<br>۱۵ | ۵۸<br>۳ | ۱<br>۲۹ |
| ۲۲ | ۵<br>۱۹ | ۹<br>۴۸ | ۱۵<br>۹ | ۲۱<br>۰ | ۲۶<br>۵۳ | ۳۲<br>۴۲ | ۳۸<br>۳۴ | ۴۴<br>۲۷ | ۴۹<br>۵۱ | ۵۴<br>۲۳ | ۵۸<br>۹ | ۱<br>۳۶ |
| ۲۳ | ۵<br>۲۶ | ۹<br>۵۸ | ۱۵<br>۲۱ | ۲۱<br>۱۲ | ۲۷<br>۵ | ۳۲<br>۵۴ | ۳۸<br>۴۶ | ۴۴<br>۳۸ | ۵۰<br>۱ | ۵۴<br>۳۲ | ۵۸<br>۱۶ | ۱<br>۴۳ |
| ۲۴ | ۵<br>۳۵ | ۱۰<br>۹ | ۱۵<br>۳۳ | ۲۱<br>۲۴ | ۲۷<br>۱۷ | ۳۳<br>۶ | ۳۸<br>۵۸ | ۴۴<br>۴۹ | ۵۰<br>۱۱ | ۵۴<br>۴۰ | ۵۸<br>۲۳ | ۱<br>۵۰ |
| ۲۵ | ۵<br>[illegible] | ۱۰<br>۱۹ | ۱۵<br>۴۴ | ۲۱<br>۳۶ | ۲۷<br>۲۸ | ۳۳<br>۱۸ | ۳۹<br>[illegible] | ۴۵<br>[illegible] | ۵۰<br>[illegible] | ۵۴<br>[illegible] | ۵۸<br>۳۰ | ۱<br>[illegible] |
| ۲۶ | ۵<br>[illegible] | ۱۰<br>[illegible] | ۱۵<br>[illegible] | ۲۱<br>[illegible] | ۲۷<br>۴۰ | ۳۳<br>[illegible] | ۳۹<br>۲۱ | ۴۵<br>[illegible] | ۵۰<br>۲۱ | ۵۴<br>[illegible] | ۵۸<br>۳۷ | ۱<br>[illegible] |
| ۲۷ | ۵<br>۵۹ | ۱۰<br>۳۸ | ۱۶<br>[illegible] | ۲۲<br>۰ | ۲۷<br>۵۱ | ۳۳<br>[illegible] | ۳۹<br>۳۲ | ۴۵<br>۲۲ | ۵۰<br>۴۱ | ۵۵<br>۴ | ۵۹<br>۴۴ | ۲<br>۱۰ |
| ۲۸ | ۶<br>۶ | ۱۰<br>۴۸ | ۱۶<br>۱۹ | ۲۲<br>۱۳ | ۲۸<br>۳ | ۳۳<br>۵۲ | ۳۹<br>۴۴ | ۴۵<br>۳۳ | ۵۱<br>۵۱ | ۵۵<br>۱۲ | ۵۸<br>۵۱ | ۲<br>۱۷ |
| ۲۹ | ۶<br>۱۴ | ۱۰<br>۵۸ | ۱۶<br>۳۰ | ۲۲<br>۲۴ | ۲۸<br>۱۵ | ۳۴<br>۴ | ۳۹<br>۵۸ | ۴۵<br>۴۴ | ۵۱<br>۱ | ۵۵<br>۲۳ | ۵۸<br>۵۴ | ۲<br>۲۳ |

**طریقہ**۔ جس مہینہ کی جس تاریخ کو لگن دیکھنا ہو۔ اس کو اوپر کی جدول میں دیکھو۔ اور مہینے کے سر سے نیچے اور دائیں طرف سے تاریخ دیکھو دونو جس خانہ میں ملیں اس میں جو ہندسہ لکھا ہے اس کو لکھ لو اور اس کے نیچے اپنے وقت کی گھڑی پل لکھ کر دونوں کو جمع کرو۔ جو حاصل ہو اس کو سارنی میں تلاش کرو جہاں پر ملے اس کے اوپر جو لگن لکھا ہے اس وقت وہ لگن ہوگا۔ اور دائیں طرف جو درج ہے اتنے انش اس کے گذر چکے ہونگے۔ مثلاً ماہ بھادوں کی ۲۰ تاریخ کو ۳ گھڑی ۱۵ پل پر دیکھنا ہے کہ اس وقت کون لگن ہے۔ پس اوپر سے ماہ بھادوں اور دائیں طرف سے ۲۰ تاریخ دیکھا تو دونوں کا ملان [illegible] اپنا وقت ۳ گھڑی ۱۵ پل لکھ کر جمع کیا [illegible] اس کو سارنی میں تلاش کیا تو [illegible] معلوم ہوا کہ اس وقت [illegible] لگن شروع ہوا ہے۔ [illegible] اسی طرح ہر ایک کا لگن دیکھ لو۔

## برش پھل بنانے کے لئے برکھ سارنی

| عمر سال | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ |
| گھڑی | ۱۵ | ۳۱ | ۴۶ | ۲ | ۱۷ | ۳۳ | ۴۸ | ۴ | ۱۹ | ۳۵ | ۵۱ | ۶ | ۲۰ | ۳۷ | ۵۲ | ۷ | ۲۳ | ۳۹ | ۵۲ | ۱۰ |
| پل | ۳۱ | ۳ | ۳۴ | ۶ | ۳۷ | ۹ | ۴۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۱۵ | ۴۶ | ۱۸ | ۴۹ | ۲۱ | ۵۲ | ۲۴ | ۵۵ | ۲۷ | ۵۸ | ۳۰ |
| عمر سال | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ |
| روز | ۵ | ۶ | ۷ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱ |
| گھڑی | ۲۶ | ۴۱ | ۵۶ | ۱۲ | ۲۸ | ۴۳ | ۵۹ | ۱۴ | ۳۰ | ۴۶ | ۱ | ۱۷ | ۳۲ | ۴۷ | ۳ | ۱۸ | ۳۴ | ۴۹ | ۵ | ۲۱ |
| پل | ۱ | ۳۳ | ۴ | ۳۶ | ۷ | ۳۹ | ۱۰ | ۴۲ | ۱۳ | ۴۵ | ۱۶ | ۴۸ | ۱۹ | ۵۱ | ۲۲ | ۵۳ | ۲۵ | ۵۹ | ۲۸ | ۰ |
| عمر سال | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ |
| روز | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ |
| گھڑی | ۳۶ | ۵۲ | ۷ | ۲۳ | ۳۸ | ۵۴ | ۹ | ۲۵ | ۴۰ | ۵۶ | ۱۱ | ۲۷ | ۴۲ | ۵۸ | ۱۳ | ۲۹ | ۴۴ | ۰ | ۱۵ | ۳۱ |
| پل | ۳۱ | ۳ | ۳۴ | ۶ | ۳۷ | ۹ | ۴۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۱۵ | ۴۶ | ۱۸ | ۴۹ | ۲۱ | ۵۲ | ۲۴ | ۵۵ | ۲۷ | ۵۸ | ۳۰ |
| عمر سال | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۰ |
| روز | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱ | ۲ |
| گھڑی | ۴۷ | ۳ | ۱۸ | ۳۳ | ۴۹ | ۴ | ۲۰ | ۳۵ | ۵۱ | ۶ | ۲۲ | ۳۷ | ۵۲ | ۸ | ۲۴ | ۳۹ | ۵۵ | ۱۰ | ۲۶ | ۴۲ |
| پل | ۱ | ۳۳ | ۴ | ۳۶ | ۷ | ۳۹ | ۱۰ | ۴۲ | ۱۳ | ۴۵ | ۱۶ | ۴۸ | ۱۹ | ۵۱ | ۲۲ | ۵۴ | ۲۵ | ۵۷ | ۲۸ | ۰ |

**برکھ پھل بنانے کا طریقہ**۔ جس سال کا برش پھل بنانا ہو۔ اس سے اپنا جنم سمت کم کردو جو باقی بچے وہ گزشتہ برس ہونگے ان کو اوپر والی سارنی میں تلاش کرو۔ جہاں ملیں اس کے نیچے جو روز گھڑی پل لکھے ہیں وہ لکھ لو اور اس کے نیچے اپنے جنم کا روز گھڑی پل لکھ کر دونوں کو جمع کر لو۔ پھل برکھ کے شروع ہونے کا روز گھڑی پل ہوگا۔ پھر اس وقت کا لگن نکال کر کنڈلی بناؤ۔ اور جنتری دارالخ الوقت سے گرہ دیکھ کر تمام گھروں میں درج کر دو۔ یہ برش کنڈلی ہے۔ اس کے بعد سال کی سیارگان کی دشا لگاؤ۔ جس کا طریقہ یہ ہے۔ کہ اپنے جنم نچھتر کو اشونی سے شمار کرو جس قدر ہو۔ اس میں گزشتہ برس جمع کر کے کل میں سے ۲ عدد کم کر دو۔ اور باقی کو ۹ پر تقسیم کرو۔ جو باقی بچے اس کو نقشہ ذیل میں دیکھو۔ اس کے زیر جس سیارہ کا نام لکھا ہے اس کی دشا اول شروع ہوگی۔ اس کے نیچے اس کی مدت درج ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلے سیارہ کی دشا ہوگی۔ اسی طرح سے نو گرہوں کی دشا کا چکر پورا ہو

### نقشہ دشا گرہ معہ مدت دشا

| باقی عدد | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام گرہ دشا | سورج | چندرماں | منگل | راہو | برہسپت | سنیچر | بدھ | کیتو | شکر |
| مدت ماہ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| مدت ایام | ۱۸ | ۰ | ۲۱ | ۲۳ | ۱۸ | ۲۷ | ۲۱ | ۲۱ | ۰ |

برش پھل بنانے کا قاعدہ اوپر درج کر دیا گیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مفصل حالات بابت برش پھل گرہوں کے پھلا دیش اور دشا کے پھلا دیش وغیرہ وغیرہ دیکھنے ہوں تو رسالہ [illegible] پنچانگ پھلادیش قیمت ۸ ؍ منگوا لیں۔ اور گرہوں کے یوگوں کے پھل دیکھنے کے لئے حصہ دوم قیمتی ۸ ؍ منگوا کر دیکھیں۔

## ہندوستان و دیگر ممالک کے مشہور شہروں کے وقت کا تفاوت

چونکہ زمین گول ہے اس لئے سورج ایک ہی وقت میں سب جگہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک شہر کا دوسرے سے ایک درجہ مشرق یا مغرب کو ہونے سے ۴ منٹ کی کمی بیشی ہو جاتی ہے اور ہر پندرہ درجہ کی تفاوت پر ایک گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جنم کنڈلی وغیرہ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھو۔ جس جگہ کا وقت دیا ہوا ہو۔ اس شہر میں جہاں پر لگن لگانا ہو۔ اس شہر کے تفاوت کو کم و بیش کر کے درست کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو لگن میں فرق پڑ جاوے گا۔

مشہور مشہور شہروں کے تفاوت الوقت کا نقشہ از لاہور ۱۲ بجے دوپہر

| نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاہور | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | قسطنطنیہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| اجمیر | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ملتان | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | کابل | [illegible] | [illegible] | [illegible] | قندھار | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | بخارا | [illegible] | [illegible] | [illegible] | مکہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | پیرس | [illegible] | [illegible] | [illegible] | مدینہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| دہلی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | برلن | [illegible] | [illegible] | [illegible] | بغداد | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | واشنگٹن | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | لندن | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# خواب اور اس کی تعبیر

| قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انگشتری پہننا | عورت حسین سے وصل ہو | سبز زمین پر بیٹھنا | عمر دراز ہو منفعت ہو | ترکاری سبز دیکھنا | ندامت ہو | جانور پکڑنا | کوئی نیا کام شروع کرے | حج کرنا | حصول دعا ہو | دروازہ گرتے دیکھنا | خانہ آبادی کی دلیل |
| آسمان کی طرف اڑنا | سفر دراز ہو | بلبل دیکھنا | حاکم سے کچھ ملے | تیل پینا | مرض جسم میں مبتلا | جانور لڑتے دیکھنا | حکومت ملے | حجامت بنوانا | کسی عزیز کی دلیل ہے | درخت میوہ دار دیکھنا | [illegible] |
| آسمان سے گرنا | خرابی اور تنزل ہو | بھینس دیکھنا | کوئی مصیبت پیش آئے | توپ دیکھنا | دشمن مغلوب ہوں | چوپڑ کھیلنا | کشتی کی شکار | قیامت کو دیکھنا | نیک ہمسایوں کی توقیر | درخت سرسبز دیکھنا | عزت و مرتبہ ملے |
| غذا شیریں کھانا | دولت سے مالامال ہو | بھیڑیا دیکھنا | حاکم سے خوف ہو | تل چبانا | کوئی الزام قائم ہو | چشمہ دیکھنا | بیماری ہو | حرام کرنا | ذلت ہو | دودھ پینا | آرام ملے |
| انار کا پانا | زر و مال ہاتھ آئے | بادام کھانا | زر و مال ہاتھ لگے | تیر چلانا | دلی مراد بر آئے | چراغ روشن دیکھنا | اولاد صاحب اقبال ہو | حلوہ دیکھنا | درازی عمر ہو | دودھ گرم پینا | [illegible] |
| اونٹ دیکھنا | دولت کا فائدہ ہو | بادشاہ کو مردہ دیکھنا | حاجت پوری اور نفع ہو | تابوت اٹھا دیکھنا | عمر دراز ہو | چینی کا برتن دیکھنا | مرتبہ بلند ہو | حجامت ہوتے دیکھنا | حیرانی و پریشانی ہو | دودھ بکری کا پینا | غم اور رنج میں گرفتار |
| اونٹ پر سوار ہونا | امراض کہنہ کی آمد | بیضہ مرغ کھانا | لڑکا پیدا ہو رنج دور ہو | تخت دیکھنا | راحت اور بلندی | چاند دیکھنا | بزرگی حاصل ہو | حقہ پینا | حصول دولت ہو | دانت گرتے دیکھنا | درازی عمر کی دلیل |
| آفتاب دیکھنا | کسی امیر کبیر سے ملاقات | بال سفید دیکھنا | درازی عمر کی بشارت | تخت پر بیٹھنا | کامیابی اور ترقی | چاند شکستہ دیکھنا | رنج و تکلیف ہو | حلوہ کھانا | زر کا نقصان ہو | دہی کھانا | سفر پیش آئے |
| آگ میں کچھ پکانا | کاروبار میں نفع | بچھو دیکھنا | عزت زیادہ ہو | تنبور بجانا | سامان خوشی کی دولت | چاند گرہن دیکھنا | ظالم حکمران سے سزا | حکیم کا دیکھنا | جسمانی تکلیف ہو | دیوار گرتے دیکھنا | کوئی رشتہ دار مرے |
| آنکھوں میں سرمہ لگانا | بیماری کی تکلیف دور ہو | پہاڑ پر چڑھنا | مرتبہ بلند ہو | تھوک دینا | حیرانی و پریشانی ہو | چیل دیکھنا | رنج و فکر ہو | حرم سرا دیکھنا | وصال معشوق ہو | دوا پینا | صحت ہو بیمار کو |
| آسمان پر چڑھ کر دیکھنا | کسی آشنا سے روزگار ہو | پہاڑ سے گر پڑنا | ترقی جاہ و جلال ہو | تیتر دیکھنا | بلند اقبال کی نشانی | چونٹی دیکھنا | مصیبت پیش آئے | خاک پر بیٹھنا | زر و مال کا فائدہ ہو | دشمن دیکھنا | فرزند پیدا ہو |
| آب رواں دیکھنا | ہر کام کا انجام بخیر ہو | پہاڑ ہلتے دیکھنا | دولت ملے یا بادشاہ ہو | تکیہ پانا | بزرگی کی نشانی | چقندر دیکھنا | رنج و پریشانی | خودکشی کرتے پانا | سفر بے فائدہ ہو | دعوت کھانا | فتح کی دلیل ہے |
| آسمان دیکھنا | رتبہ میں ترقی ہو | پاخانہ جسم سے لگے دیکھنا | دولت کا فائدہ ہو | تبسم کرنا | رنج و غم پیش آئے | چکی دیکھنا | مصیبت میں پھنسنا | خرما دیکھنا | غم و فکر حاصل ہو | داڑھی لمبی دیکھنا | عزت کی دلیل ہے |
| آسمان پر سیاہی دیکھنا | کسی امیر کبیر سے ملاقات | پاخانہ کھانا | دولت ہاتھ آئے | تار کھینچنا | پریشانی ہو | چادر اوڑھنا | عزت بہت حاصل | خربوزہ کھانا | کشائش رزق ہو | دانت اور مسوڑھے | گردش میں مبتلا ہو |
| آگ اٹھا لینا | مفت کا مال ملے جلد خرچ ہو جائے | پاؤں زمین پر مارنا | مصیبت اور رنج ہو | تعویذ لینا | مصیبت میں پھنسا ہو | چاندی دیکھنا | مال و دولت ہاتھ لگے | خربوزہ دیکھنا | نعمت ملے | دولہے کو دیکھنا | خوشی کا پیغام ملے |
| آسمان ابر سیاہ دیکھنا | کسی شخص سے پریشانی | پتھر کا بت دیکھنا | پریشانی ہو | تاریک جگہ دیکھنا | مصیبت پیش آئے | چاند ڈوبتا دیکھنا | غم سے رہائی ہو | خربوزہ کھانا | مال و دولت ملے | دال دیکھنا | عورت سے وصل ہو |
| اسپ سیاہ دیکھنا | مرتبہ بلند ترقی روزگار | بادل دیکھنا | سفر پیش آئے | تربوز کھانا | رنج و تکلیف پیش آئے | چکور دیکھنا | [illegible] | خربوزہ کا کھیت دیکھنا | فرزند صاحب اقبال ہو | رشتہ دار دیکھنا | حصول فتح و ظفر |
| اسپ کے اوپر سے گرنا | رتبہ سے تنزل ہو | پاجامہ پہننا | حصول علم سے محروم | تالاب میں نہانا | عزت بڑھے | چاندی لینا | تجارت میں رزق ہو | خچر پر سوار ہونا | آفت سے نجات ہو | رشوت کھانا | غلامی کی دلیل ہے |
| آندھی آتا دیکھنا | سفر در پیش آئے | پیشاب خون کا کرنا | عورت دیکھے تو حمل مرد کو رنج ہو | چھلا دیکھنا | سفر دور دراز پیش آئے | چارپائی پر سونا | عورت سے فائدہ ہو | خنزیر کا گوشت کھانا | مال حرام ملے | ریچھ دیکھنا | [illegible] |
| آم کھانا | تونگر صاحب دولت ہو | پھول دیکھنا | عشق و محبت میں مبتلا ہو | جہاز پر چڑھنا | جگہ تبدیل کرے | چارپائی پر بیٹھنا | زن مرید ہو | خچر کا دودھ پینا | حیرانی و فکر ہو | رسی کو لٹکا دیکھنا | سفر پیش آئے |
| آئینہ میں منہ دیکھنا | عورت کی شوہر سے ملاقات مرد معزول ہو | پنجرہ دیکھنا | قید میں رنج و غم ملے | جھنڈا سبز دیکھنا | مشکل پیش آئے | چیتا دیکھنا | حکومت ملے | خرگوش پر سوار ہونا | خوف سے نجات | ریت میں چلنا | دشمنی و فکر ہو |
| انگلی جلتی ہوئی دیکھنا | [illegible] | پروانہ دیکھنا | حاکم سے ملاقات ہو | جھنڈا سفید دیکھنا | راستہ باز ہو | چمگادڑ دیکھنا | عورت خوبصورت ملے | خون پینا | مال حرام ہاتھ آئے | رانگ دیکھنا | نفع کثیر ہو |
| انگوٹھی فروخت کرنا | عورت سے جدائی ہو | پستان دیکھنا | عورت دیکھے تو اولاد مرد دیکھے مال ملے | جنگل سبز دیکھنا | خوشی ہو اور فرحت ہو | چاول کھانا | رنج دور ہو | خنجر دیکھنا | بلندی مرتبہ ہو | روئی دیکھنا | دولت ملے |
| بلند جگہ سے گرنا | تنزلی و ذلت ہو | [illegible] | روپیہ بہت ہاتھ آئے | جنگل خشک دیکھنا | حیرانی اور پریشانی ہو | چاہ دیکھنا | فکر و حیرانی ہو | خرگاہ دیکھنا | حصول مراد ہو | روٹی کھانا | مشکل میں مبتلا ہو |
| بازو اپنا کٹا دیکھنا | برادر کا انتقال ہو | پیاس لگنا | حرص زیادہ ہو | جنگل میں دوڑنا | مصیبت سے نجات پائے | چاہ میں گرنا | مشکل پیش آئے | خر کی سواری کرنا | رنج و مصیبت پیش آئے | رہزن کو دیکھنا | [illegible] |
| باغ سرسبز دیکھنا | خوشحالی و فرحت ہو | پانی پینا | کشائش روزگار ہو | جنازہ دیکھنا | بیماری سے صحت | چونٹیاں مارنا | مصیبت پیش آئے | خانہ تاریک دیکھنا | افلاس کی علامت | رال دیکھنا | غم و فکر ہو |
| باغ خشک دیکھنا | غم و فکر کی نشانی | پوری کھانا | طبیعت خوش رہے | جوتا تنگ پہننا | دوست سے جھگڑا ہو | چوہا دیکھنا | [illegible] | خاک کھانا | ذلیل ہو | رقاص دیکھنا | تجارت میں نفع ہو |
| برات دیکھنا | عورت دیکھے تو ولادت مرد دیکھے تو رنج ہو | پلٹن دیکھنا | عورت خوبصورت ملے | جھنڈا سرخ دیکھنا | عزت اور خوشی ہو | حوض دیکھنا | دولت ملے | خطبہ پڑھنا | بزرگی پائے | رعد دیکھنا | حاکم سے نقصان |
| بارش دیکھنا | غلہ ارزاں ہو | پلٹن لڑتے دیکھنا | دوست سے ملاقات ہو | جونک دیکھنا | بیماری سے شفا ہو | حوض کا پانی پینا | مال و نعمت ہاتھ آئے | خون میں لوٹنا | [illegible] | روشنی دیکھنا | ترقی نسل ہو |
| بال کٹے دیکھنا | قرضہ سے سبکدوشی | پل پر چلنا | ایک بڑا کام ہو | جواہرات دیکھنا | حصول مراد ہو | حوض میں غسل کرنا | رنج و تکلیف ہو | خفا ہونا | خوشی کا سامان | رنگ کھیلنا | جسم کا نقصان ہو |
| برف گرتے دیکھنا | موسم خراب ہو | پان کھانا | [illegible] | جسم کو بیمار دیکھنا | حکومت ملے | حمام میں غسل کرنا | رنج و فکر دور ہو | دریا سے پانی پینا | [illegible] | رکابی دیکھنا | [illegible] |
| بانسری بجانا | پریشانی و حیرانی ہو | پانی میں غرق ہونا | [illegible] | جھاڑو دینا | فضول خرچ ہو | حمام جانا | عیش کی علامت | دریا میں نہانا | [illegible] | [illegible] | مشکل کام ہو |
| بچہ اپنے آگے دیکھنا | کوئی مصیبت پیش آئے | پیل کو دیکھنا | رنج و غم پیش آئے | جماع کرنا | زر و مال حاصل ہو | حاکم کو دیکھنا | عزت کی دلیل ہے | دریا سے پار ہونا | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| بیل موٹا دیکھنا | غلہ ارزاں ہو | تماشا دیکھنا | حیرانی ہو | جماع کرانا | [illegible] | [illegible] | [illegible] | دریا کی لہریں | فکر و تشویش ہو | زمین کھودنا | [illegible] |
| بیل دبلا دیکھنا | غلہ گراں ہو | تلوار سے زخم کھانا | [illegible] | جنگ کرنا | دشمن سے فتح نصیب | حمام میں پیشاب کرنا | [illegible] | دریا کو خشک دیکھنا | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| بال بچہ مرتے دیکھنا | زوال ملک نقصان | [illegible] | دشمن پر فتح ہو | جنگ میں قتل ہونا | حکومت و سرفرازی | حلوہ دیکھنا | خوشی حاصل ہو | دروازہ دیکھنا | [illegible] | زمین میں سمانا | [illegible] |
| بستر کا بچھا دیکھنا | فکر ہو اور رنج ہو | [illegible] | [illegible] | جامن کھانا | تکلیف دور ہو | حلوہ کھانا | حصول علم و ہنر | دیوار سے گرنا | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# علم کیرل کے ذریعہ سوالات کے جوابات

## اولاد کیوں نہیں ہوتی

اگر کوئی شخص یہ دریافت کرے کہ فلاں مرد و عورت کے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی اور دونوں میں سے نقص کس میں ہے - تو چاہیئے کہ مرد کے نام کے اعداد نکال کر جمع کرے اور مجموعہ کو ۹ پر تقسیم کر دیں - اگر باقی طاق عدد بچیں تو عورت میں نقص ہے - اور اگر جفت باقی رہیں تو آدمی میں نقص ہے - اس سے اس کا علاج کروانا چاہیئے -

## فتح و شکست کا سوال

اگر کوئی دریافت کرے کہ فلاں مقابلہ کشتی یا لڑائی جھگڑا یا مقدمہ میں کون کامیاب ہوگا - تو چاہیئے کہ بروقت سوال یوم - تتھ - نچھتر کا شمار جمع کرے اور جس قدر گھڑی دن گذر چکا ہو وہ بھی اس میں شامل کرے - اور سورج اور چندرماں کے نچھتروں کے باہمی فرق کے عددوں کو بھی اس میں ملانے بعد تمام کل مجموعہ کو ۷ پر تقسیم کرے - اگر ۱ یا ۳ باقی رہیں - تو دریافت کنندہ کامیاب ہوگا - اگر ۴ یا ۶ باقی رہیں - تو مقابل والا کامیاب ہو - اگر ۲ یا ۵ رہیں - تو باہمی صلح ہو جاوے - اگر کچھ باقی نہ رہے - تو کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکلیگا -

## پردیس گیا ہوا آدمی کب واپس آئیگا؟

اگر کوئی شخص دریافت کرے کہ پردیس گیا ہوا شخص کب واپس آویگا تو چاہیئے کہ وقت دریافت جو تتھ ہو اس کا شمار اور اس روز کے نچھتر کا شمار کرکے دونوں کو جمع کرے - اور مجموعہ کو ۷ پر تقسیم کرے - اگر ایک بچے تو ابھی وہاں پر ہی مقیم ہے - اگر ۲ رہیں - تو ایک جگہ اس کا قیام نہیں ہے - اگر ۳ رہیں تو راستہ میں ہے - اگر ۴ رہیں تو آنے والا ہی ہے - اگر ۵ رہیں - تو جلد آویگا - لیکن قیام نہ کریگا - اگر ۶ رہیں تو وہاں بیمار ہے - اگر صفر بچے تو ابھی اس کے آنے میں بہت دیری ہے -

## کیا ملاقات ہوگی؟

اگر کوئی شخص دریافت کرے کہ فلاں شخص سے ملاقات ہوگی - تو چاہیئے کہ بروقت دریافت کے تتھ - نچھتر و یوگ کا شمار معلوم کرکے سب کو جمع کرے اور اس مجموعہ میں مطلوب کے نام کے حروف کو شمار کرکے اس میں جمع کرے اور اس مجموعہ کو الگ لکھ لے پھر اپنے نام کے حروف کا شمار کرے اور مجموعہ اول کو ۲ سے تقسیم کرے - اگر طاق عدد باقی بچے - تو ہرگز ملاقات کی امید مت رکھو اگر جفت بچے تو ملاقات ہوگی - پھر دوبارہ قسمت کو ۹ پر تقسیم کرو - اگر ایک بچے تو راستہ چلتے چلتے ملاقات ہوگی - اگر ۲ بچیں تو جلد باہم گفتگو ہو - اگر ۳ رہیں تو وہ شخص خود تم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے - لیکن کسی کے خوف سے نہیں ملتا - اگر ۴ بچیں تو فضول کوشش کرتے ہو ملاقات نہ ہوگی - اگر ۵ رہیں تو عنقریب تم کو ملاقات کا پیغام ملیگا - اگر ۶ رہیں تو وہ شخص صرف مطلب پرست ہے - دلی محبت تم سے نہیں رکھتا اگر کچھ باقی نہ رہے - تو خیال چھوڑ دو - وہ ہرگز تم سے ملنا نہیں چاہتا -

**نوٹ** - علم کیرل کا مفصل رسالہ جس میں اس علم کے تمام اصول و قواعد درج ہیں - قیمت دس آنے (۱۰/)

منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے مل سکتا ہے -

# علم جوتش

سلسلہ کے لئے دیکھو مشہور عالم جنتری سنہ ۱۹۳۵ء صفحہ نمبر ۵۲

## کُنبھ راشی میں مفرد گرہے کا ثمرہ

اگر سورج پڑا ہو - تو جھوٹ کا پتلا سب سے عداوت رکھنے والا فتنہ انگیز میلا پوشاک ہو
اگر چندرماں پڑا ہو تو آلسی سست الوجود دلدری کم عقل دشمن اس کے ہمیشہ زیر رہیں -
اگر منگل پڑا ہو تو اولاد سے رنجش - شریر روگی - خویشوں سے عداوت رکھے -
اگر بدھ پڑا ہو تو کم عقل نیکی سے کنارہ کش گھر کے لوگوں سے کلیش رکھے -
اگر برہسپت پڑا ہو - تو مفلس بے مروت کھوٹے کرم کرے - ہمیشہ بیمار رہے -
اگر شکر پڑا ہو تو نامرد دلدری سست الوجود میلا پوش نیکی کے کام نہ کرے -
اگر سنیچر پڑا ہو - تو زناکار - کھوٹے کرم کرنے والا - دشمنوں سے نقصان - خیالات فاسد رکھے -

## کُنبھ راشی میں مجمل گرہوں کا ثمرہ

(۱) سورج میکھ کا چندرماں برکھ کا اور سنیچر کنبھ کا ہو تو صاحب ملک الملک عالی مرتبہ ہو
(۲) چندرماں اور سورج کنبھ راشی میں ہوں سست الوجود دلدری کم عمر ہو -
(۳) اگر منگل چندرماں کنبھ میں ہوں - تو وہ بھی بے ہمت لوگوں کی بدگوئی کرنے والا ہو -
(۴) اگر بدھ و شکر کنبھ میں ہوں - تو ہمیشہ گھر والوں سے الگ رہے - عورت سے محبت نہ ہو -
(۵) اگر راہو کنبھ میں یا مکر میں اور لگن سے آٹھویں سنگھ راشی کا چندرماں ہو - تو اُس کا سر پھٹ جاوے -

## مین راشی میں مفرد گرہے کا ثمرہ

اگر سورج پڑا ہو - تو دوستوں سے آرام پاوے تجارت کے کاموں میں نام پاوے
اگر چندرماں پڑا ہو تو بڑا عالم - عاقل ہنرمند - عورتوں سے پرہیز رکھے -
اگر منگل پڑا ہو تو بڑا زناکار بے رحم فضول عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہے
اگر بدھ پڑا ہو - تو دھرم کے کاموں میں دل لگائے - اونچی ذات کی عورتوں سے سنگت کرے -
اگر برہسپت پڑا ہو - تو خوش مزاج - سخی - شہوت پرست حاکم ہو -
اگر شکر پڑا ہو - تو راج دربار میں مرتبہ بلند عیش و عشرت میں سرگرداں - دشمن زیر ہوں -
اگر سنیچر پڑا ہو - تو ہنرمند نرم مزاج غافل سب سے محبت کرنے والا اور تاجر ہو -

## مین راشی میں مجمل گرہوں کا ثمرہ

سورج اور چندرماں دونوں مین راشی میں ہوں تو بڑا پرتاپی - صاحب اقبال ہو - اگر سورج چندرماں مین کے ہوں - اور پاپی گرہوں کی ان پر درشٹی ہو - تو اس کا والد پانی میں ڈوب کر مرے ٭

## نوٹ

اگر جنم کنڈلی دیکھنے کیلئے مفصل اصول و قواعد دیکھنے ہوں - تو رسالہ سرشتہ قسمت قیمتی ۸؍ منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوالو - اس رسالہ میں تمام گرہوں کے مفرد و مجمل پھلادیش ہر ایک گھر کے الگ الگ نہایت مفصل و با تشریح درج کئے گئے ہیں ٭

# پچیس ۲۵ سال کی پیشینگوئیاں

مصنفہ پنڈت گردہاری لعل منجم و جفار سیالکوٹی

یہ نادر و نایاب کتاب پنڈت صاحب نے اپنی زندہ یادگار سنہ ۱۹۱۱ء میں تیار کی تھی۔ اور اس میں سنہ ۱۹۰۱ء سے لیکر سنہ ۱۹۵۰ء تک کی مختصر جنتری اور ہر سال کی مفصل پیشینگوئی درج کر کے اس کا نام پچاس سالہ پیشینگوئیاں رکھا تھا۔ یہ پچاس سالہ پیشینگوئیاں ایسی مقبول عام اور ہر دلعزیز ہوئیں۔ کہ طبع ہونے کے تھوڑے ہی عرصہ میں قدردانوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیں۔ اور ہزاروں لوگ اس گوہر نایاب کیلئے ترستے رہے۔ روزانہ سینکڑوں فرمائشی خطوط ردّی میں ڈالنے پڑے۔ شائقینوں کی بڑھتی ہوئی خواہش کو دیکھ کر اب ہم نے دوبارہ اس کو چھپوایا ہے صرف اس میں اس قدر ترمیم کر دی ہے۔ کہ بجائے پچاس سال کے پچیس سال چھاپے گئے ہیں۔ یعنی سنہ ۱۹۰۱ء سے لیکر سنہ ۱۹۲۵ء تک کا حصہ الگ کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ سال گزر چکے ہیں۔ اب سنہ ۱۹۲۶ء سے لیکر سنہ ۱۹۵۰ء تک کا مضمون اس میں درج کیا گیا ہے۔ اس کی تعریف کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ سارا زمانہ اس کا شیدا ہو رہا ہے ہم صرف اس قدر بتلا دیتے ہیں۔ کہ اس میں ہر سال کی عیسوی ہجری فصلی اور بکرمی مہینوں کی تاریخیں ہر روز کی تتھ مع گھڑی پل ہر سال کے تہوار۔ گرہن۔ راجہ منتری وغیرہ کا پھل اور ہر سال کی پیشینگوئیاں ارضی و فلکی بابت ارزانی و گرانی غلہ بارش دنیا کا رنج و راحت ملکی حالات وغیرہ وغیرہ کی مفصل پیشینگوئی ہر سال کی الگ الگ درج ہے۔ پس اس کی ایک جلد منگوا کر آپ سنہ ۱۹۵۰ء تک تمام دنیا میں آنے والے واقعات سے خبردار ہو جائیے۔ قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ

(نہایت خوبصورت کپڑے کی جلد بندھی ہوئی ہے)

# تحفہ نایاب

## طلسم حل المشکلات

طلسمات کے شائقینو! زمانہ گذشتہ کے حکماؤں کے ایجاد شدہ طلسموں کی خوبیاں سن کر حیرت زدہ ہونا پڑتا ہے۔ گو زمانہ کے انقلاب سے وہ سب نایاب ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ شعاع اُمید باقی ہے۔ اور ابھی ہندوستان جنت نشان میں ایسے ایسے عامل کامل موجود ہیں۔ جو اپنی روحانی طاقت سے دنیا کو زیر و زبر کر سکتے ہیں۔ بیشک! یہ ایک عامل کامل کا عطا کردہ طلسمی تعویذ آپ کے پیش نظر ہے۔ جو حسب ہدایت تیار کر کے چاندی کے تعویذ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھیگا۔ اس کی برکت سے اسکی تمام دنیاوی مشکلات حل ہو جاوینگی۔ مقدمات میں فتح ہوگی۔ دشمن بھی دوست ہو جاوینگے حاکم مہربان ہونگے۔ روزگار کشادہ ہوگا۔ دولت کی ترقی ہوگی۔ راج دربار میں عزت بڑھیگی۔ دنیا میں رتبہ بڑھیگا۔ اس طلسم کی موجودگی میں کسی طرح کا آسیب۔ سایہ جن۔ بھوت۔ شیطان نزدیک نہ آئیگا۔ بچوں کے گلے میں ڈالنے سے ہر طرح کی نظر بد اور امراض مہلکہ سے محفوظ رہینگے مستورات اپنے پاس رکھینگی۔ تو ہر طرح سے محفوظ رہینگی۔ بحالت حمل اس طلسم کے پاس ہونے سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہوگا۔ اس نادر و نایاب طلسم کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

### بھوتوں کا اُستاد

یہ ایک پہاڑی بوٹی ہے۔ جو کہ کوہ ہمالیہ کے دشوار گذار علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اگر خاص وقت پر حاصل کیا جاوے تو اس کی یہ تاثیر ہے۔ کہ اس کی دھونی سے سایہ جن بھوت پریت کوسوں بھاگتے ہیں۔ شیرخوار بچوں کو اس کی دھونی دینے سے وہ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ حاملہ مستورات کی تو محافظ جان ہے۔ دوسرے چوتھے روز اس کی دھونی لیں۔ اور تھوڑی سی پاس رکھیں۔ تو ہر قسم کے خطرات سایہ آسیب سے محفوظ رہینگی ہم نے بڑی کوشش سے یہ بوٹی خاص وقت میں تھوڑی سی مقدار میں حاصل کی ہے۔ اس لئے ضرورت مند اصحاب جلد منگوا لیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ فی تولہ ہے۔ جو مدت تک کافی ہے۔

### موہنی دھوپ

یہ دھوپ منتر و دیا کے ذریعہ خاص ادویات۔ خاص وقت پر ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ اسکی دھونی جب ملیگی جس عورت یا آدمی کو دوگے وہ تمہاری محبت میں دیوانہ ہوگا۔ اور از حد اُلفت کریگا۔ وشی کرن کے شوقین جلد منگوا لیں۔ قیمت فی چھٹانک آٹھ آنے (۸؍)

ملنے کا پتہ:- **مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

# علم جوتش کی بے نظیر رمل کی دلپذیر و طلسمات کی پرتاثیر نادر و نایاب کتابیں

## مصنفہ و مرتبہ پنڈت گردھاری لعل صاحب منجم و جفار سیالکوٹی مصنف مشہور عالم جنتری لاہور

ہر ایک قدردان علم راز کے مندرجہ ذیل کتب کو مصنف نے ایسا مدلل اور با تفصیل لکھا ہے۔ اور ان اصول کے مخفی ہولوں کو ایسا آسان طریق حل کر کے دکھلایا ہے کہ جن کے مطالعہ سے ہر شخص علم جوتش و رمل میں کامل مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں کوئی ایسی بات درج نہیں کی گئی۔ جس کے سمجھنے کے لئے آپ دوسروں کے محتاج ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ معزز احباب نے ان کو بہت پسند کیا۔ عوام میں ان کی بڑی بھاری تعریف ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے مشہور اخبارات نے ان کتابوں پر عمدہ ریمارک لکھے ہیں۔ مبتدیوں کے لئے یہ کتابیں استاد کا کام دیتی ہیں۔ ہزاروں آدمی ان کتابوں کی بدولت علم جوتش وغیرہ سے پورے واقف ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کتاب کئی کئی مرتبہ چھپکر فروخت ہو چکی ہے۔ پس اگر آپ کو ان علم کے مطالعہ کا شوق ہے۔ تو فوراً ان کو خرید کر فائدہ اٹھائیں۔ محصول ڈاک وغیرہ سب بذمہ خریدار ہے۔

## علم جوتش کی نادر کتابیں

### علم جوتش کا قاعدہ

ہم نے مبتدیوں کی آسانی کے لئے نہایت محنت و کوشش سے یہ رسالہ تیار کیا ہے۔ اس میں علم جوتش کی تمام ابتدائی موٹی موٹی باتیں درج کی گئی ہیں جن سے معمولی لکھا پڑھا بھی علم جوتش کے ابتدائی مراتب سمجھ سکتا ہے۔ قیمت ۸ر

### علم جوتش کی پہلی کتاب

اس میں مہورتوں۔ نچھتروں کے فوائد۔ تمام قسم کے لگنوں کے پھل۔ گرہ کا بیان اور [illegible] گرہوں کا جسم انسانی کے حصص پر تاثیرات اور کئی طرح کے کارآمد مضامین جن کی مبتدیوں کو ضرورت رہتی ہے۔ درج ہیں۔ قیمت صرف دس آنے (۱۰ر)

### سرشت قسمت

یہ اسم با مسمیٰ رسالہ ہے۔ جس کا مضمون انسانی قسمت کا فلسفہ ہے۔ اس رسالہ کے ذریعہ ہر ایک شخص کی جنم کنڈلی یعنی زائچہ پیدائش دیکھ کر اس کی تمام عمر کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس میں گرہوں کے مفرد و مرکب پھل ایسی خوبی سے درج کئے گئے ہیں۔ کہ جس سے ہر ایک شخص جنم کنڈلی کو دیکھ کر انسان کی قسمت کا فوٹو کھینچ سکتا ہے۔ معزز احباب کی فرمائش سے بڑی محنت و کوشش سے یہ رسالہ عام فہم لکھا گیا ہے۔ باوجود خوبی کے اس کی قیمت صرف ایک روپیہ [illegible]

### آئینہ حیات حصہ اول و دوم

انسانی عمر یعنی جنم پتری تیار کرنے اور واقعات رنج و راحت دیکھنے کے لئے یہ دو رسالہ جات قابل دید ہیں۔ حصہ اول میں جنم پتری بنانے کا مفصل طریقہ اور حصہ دوم میں گرہوں کی حالتیں جن میں کبھی [illegible] کبھی [illegible] کبھی سوتے ہیں اسی طرح تمام حالتیں کاشنے کے اصول اور ان کا نیک و بد ثمرہ درج کیا گیا ہے۔ غرضیکہ جنم پتری تیار کرنے کے لئے یہ ہر دو رسالہ جات مکمل ہیں۔ قیمت حصہ اول ۱۲ر حصہ دوم ۱۰ر ہر دو حصہ مجلد عمر

### آئینہ تقدیر حصہ اول

علم جوتش سے معتقدو۔ ہر سال آپ جوتشیوں کے پاس ورش پھل پوچھتے ہیں۔ لیجئے۔ آپ کی خاطر جنم کنڈلی سے ورش پھل تیار کرنے کا مفصل رسالہ تیار ہے جس کے اصول و قواعد کو پڑھکر آپ خود بخود اپنا ورش پھل تیار کر لیں گے۔ بلکہ تمام سال کی [illegible] سال بھر کے حالات رنج و راحت اچھی طرح معلوم کر لیں گے۔ اور ہر مہینہ کے حالات بھی [illegible] سے بتا سکینگے قیمت [illegible]

**حصہ دوم** اس رسالہ کے حصہ دوم میں ورش کنڈلی کے گرہوں کے پھل لینے [illegible] سے سال بھر کے احکام نکالنے کا مفصل بیان درج ہے۔ قیمت [illegible] ہر دو حصہ اکٹھے مجلد ایک روپیہ

### مخبر آسمانی حصہ اول

آسمانی علامات اور گردش کواکب کو دیکھ کر اگر آپ تمام سال کے حالات رنج و راحت۔ ارزانی و باران۔ اندھیری۔ ارزانی و گرانی اجناس و بیماری وغیرہ کی نسبت پیشگوئی کرنا چاہیں۔ تو اس رسالہ مخبر آسمانی کو منگالو۔ واقعی یہ رسالہ اسم با مسمیٰ ہے۔ جو کہ آپ کو تمام دنیا کے حالات سے قبل از وقت خبر دیگا۔ قیمت صرف بارہ آنے ۱۲ر

### کلید جوتش

یہ گنت ودیا یعنی علم ریاضی کی بے نظیر کتاب ہے جس کے ذریعہ آپ ہر سال کے تتھ پترے۔ جنتری۔ یوگ۔ لگن منڈل گھڑی پل وغیرہ بلا امداد دیگرے خود بخود نکال سکتے ہیں علاوہ اس کے جنتری بنانے کے متعلق بہت سی باتیں اس میں درج ہیں۔ جن کو ہر ایک شخص بآسانی عمل کر سکتا ہے۔ اس کی قیمت صرف آٹھ آنہ ہے۔ (۸ر)

### رسالہ علم کیرل

علم راز کا ایسا بے نظیر رسالہ ہے۔ اس کا عامل [illegible] گمشدہ سے کسی پھل۔ پھول۔ ندی یا دیوتا کا نام معلوم کر کے اس کے نیک و بد حالات اور کاروبار [illegible] ہونے کی بابت بتلا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ قیمت صرف دس آنے (۱۰ر)

### لگن رتناگر

لگن یعنی طالع وقت معلوم کرنے کے لئے یہ چھوٹا سا رسالہ قابل دید ہے۔ علاوہ طالع وقت کے مختلف شہروں کا تفاوت وقت دریافت کرنے کا قاعدہ اور تقریباً ۸۰ شہروں کے وقت تفاوت کا نقشہ بھی دکھلایا گیا ہے۔ قیمت صرف چار آنے (۴ر)

### مفتاح الغیب

حقیقت میں یہ غیب دانی کا بے نظیر رسالہ ہے اگر اس کو آئینہ جہاں نما کہیں تو بجا ہے۔ اس میں حواس خمسہ کے پانچ جانوروں یعنے شکرا۔ پنگل۔ کوا۔ مرغا۔ مور کے ذریعہ ہر قسم کے سوالات کے جوابات معلوم کرنے کا اصول بتلایا گیا ہے۔ جو قابل دید ہے۔ ہمزاد کو مسخر کرنے اس کے ذریعہ حل مشکلات کے مفصل قواعد اس میں درج ہیں قیمت بارہ آنے (۱۲ر)

### رازدان یعنے زندہ جادوگر

اس میں شک نہیں۔ کہ علم راز کے کئی ایک رسالے آپ نے دیکھے ہونگے۔ مگر یہ رسالہ بالکل نئے ڈھنگ اور نرالی طرز کا ہے۔ اور ایسے آسان طریقہ سے لکھا گیا ہے۔ کہ جس سے معمولی اردو خوان بھی دل کی پوشیدہ بات حرف بحرف بتلا کر اس کے نیک و بد نتائج قبل از وقت ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ رسالہ شائقینوں کو کیسہ دار بنانے کا آلہ ہے۔ کیونکہ اس میں علم راز کا وہ پوشیدہ اصول بتا دیا گیا ہے۔ جس سے دوسرے کے دل کی مخفی بات فوراً معلوم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تعریف فضول ہے۔ منگوا دیکھئے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

### نظارہ تقدیر

یہ علم سامدرک کا رسالہ ہے۔ جس کے ذریعہ انسان کی شکل و شباہت۔ رفتار و گفتار۔ ہاتھ۔ پاؤں کی بناوٹ اور ہاتھ کی ریکھا یعنے خط و خال دیکھ کر اس کی زندگی کے تمام حالات رنج و راحت ترقی و تنزل وغیرہ وغیرہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ قیمت مجلد چھ آنے (۶ر)

ملنے کا پتہ:- مینجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور

## معجزات آسمانی

یعنی

## پیشینگوئیاں کرنے کا رسالہ

یہ علم جوتش کا وہ چمتکاری رسالہ ہے۔ جس کے مطالعہ سے ہر شخص دنیا میں آیندہ پیش آنے والے واقعات اور موجودات عالم کی ترقی و تنزل کے حالات کی نسبت قبل از وقت پیشینگوئی کر سکتا ہے۔ اس میں نظام شمسی کے پوشیدہ نکات اور گردش سیارگان کی تاثیرات سے کرہ ارض کے حوادثات۔ زمانہ کے انقلابات۔ بارش کے حالات۔ ارزانی و گرانی غلہ اور مخلوقات رنج و راحت کے واقعات اور دنیا میں پیش آنے والے تغیرات کو جاننے کے طریقے اس خوبی اور وضاحت سے لکھے گئے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہے۔ قیمت عہ

## شادی کا مہورت

اہل ہنود میں سگائی و شادی کے لئے شبھ مہورت کا دیکھنا لازمی ہے۔ اس لئے عام لوگوں کی سہولت کیلئے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ جس سے سگائی و شادی کا مہورت دیکھنے کے لئے کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ بلکہ آپ خود بخود شادی کے ساہے سب دوش اس کا لگن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنہ (۸/)

## جام جمشید

یہ علم مسمریزم کا نادر رسالہ ہے۔ اس میں ان مخفی اسراروں کا پردہ کھول دیا گیا ہے جن پر عمل کرنے سے عامل قدرت کے عجیب تماشوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ سنگدل کو موم کرنا اور تمام موجودات عالم کو مسخر کر لینا۔ محبوبوں کو تابع کرنا اس کے عامل کیلئے کوئی بڑی بات نہیں۔ قیمت مجلد ایک روپیہ

## رسالہ علم الخواب

کون شخص ہے۔ کہ جس کو رات کو سوتے ہوئے خواب نہ دکھائی دیتا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اگر انسان کا دل تفکرات سے پاک و صاف ہو اور کسی طرح کا مرض جسم میں نہ ہو۔ تو خواب بمنزلہ ایک الہام کے ہے اور جس کے ذریعہ قدرت کی طرف سے انسان کو آیندہ پیش آنیوالے نیک و بد واقعات سے قبل از وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کے لئے ہم نے اس رسالہ میں ہر قسم کے خواب اور ان کی نیک و بد تاثیر ردیف وار درج کر دی ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہے۔ قیمت آٹھ آنہ ۸/

## اسرار الطلسمات

طلسمات کا وہ علم ہے جس کا عامل تمام عالم کو اپنا دامن گرفتہ بنا سکتا ہے۔ مصنف نے اس رسالہ میں رموز طلسمات کا پردہ اس خوبی سے اٹھا دیا ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں حل مشکلات کے قواعد۔ محبت و الفت پیدا کرنے۔ تسخیر [illegible]۔ دفعیہ دشمنان۔ مغلوبی حاسدان۔ ہر دلعزیزی۔ کشائش رزق و بلندی مرتبہ۔ نزول ابر باران۔ بقائے نسل ترقی مال۔ دفعیہ بیماری وغیرہ کے نہایت بے نظیر مجرب طلسم درج کئے گئے ہیں۔ اور قریباً چار سو تصاویر۔ اشکال فلکی و طلسمات کی دکھلائی گئی ہیں۔ درحقیقت یہ رسالہ عاملان علم طلسم کے لئے بے نظیر چیز ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ ۱؍۸

## محبوب الطالبین

یہ علم جفر کا بے نظیر رسالہ ہے۔ جس میں علم الاعداد کے ذریعہ حصول مطلب و حل مشکلات کی عجیب و غریب ترکیبیں درج ہیں۔ تسخیر مطلوب و بلندی مراتب کے قواعد عمل کرنا چاہو۔ تو اس رسالہ کو منگوا کر دامن امید کو گوہر مقصود سے بھر لو۔ قیمت ۸/

## فالنامہ حروفی

ناظرین! یہ وہی حروفی فالنامہ ہے جس کا مضمون مشہور عالم جنتری میں کئی سالوں سے درج ہوتا چلا آرہا ہے۔ شائقینوں کی فرمائش سے علیحدہ کتابی صورت میں چھاپ دیا گیا ہے۔ قیمت صرف چار آنے ۴/

## قرعہ حروفی

حروفی فالنامہ کو دیکھنے کیلئے قرعہ ضروری چیز ہے۔ لوگوں کی رفع تکلیف کی خاطر یہ قرعہ وقت پر تیار کرائے گئے ہیں۔ قیمت صرف ۳ آنے (۳/)

## علم رمل کا ضروری کارآمد آلہ

یعنی

## قرعہ رمل

علم رمل کے جاننے والوں کیلئے قرعہ رمل نہایت ضروری چیز ہے جس سے زائچہ رمل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو علم رمل کا ذوق ہے تو کتب رمل کے ہمراہ ایک جوڑی قرعہ رمل جو اوقات معینہ پر دعا و عمل یا قاعدہ تلاوت سے تیار کئے جاتے ہیں ضرور خرید لیں جس سے زائچہ تیار کرنے میں آپ کو آسانی رہیگی۔ قیمت فی جوڑی ایک روپیہ چار آنہ (۱؍۴)

## علم رمل کی نادر کتابیں

### کاتب تقدیر

ہر شخص اپنا برش پھل یعنی حالات سالانہ معلوم کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جنم پتری موجود ہو وہ بذریعہ علم جوتش اپنا برش پھل بنوا سکتے ہیں۔ لیکن جن کی جنم پتری موجود نہیں۔ ان کے لئے بڑی مشکل ہے۔ پس ایسے لوگوں کی مشکل حل کرنے کیلئے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ اس رسالہ کے طریق و قواعد پر عمل کر کے قرعہ رمل ڈالکر ہر شخص کے سال بھر کے حالات نیک و بد ایک ساعت میں معلوم کر لو۔ علم رمل کے شائقین اس رسالہ کو منگوا کر دیکھیں۔ کہ کس طرح دریا کوزہ میں بند کیا گیا ہے۔ قیمت صرف ۱۲/

### مخبر تقدیر حصہ اول و دوم

ان ہر دو رسالوں میں علم رمل کے وہ اصول درج ہیں۔ جن پر عمل کرنے سے ہر ایک آدمی کے حالات پوشیدہ و غیر پوشیدہ احکام اور موجودات عالم کی اصلیت و کیفیت فوراً معلوم ہو جاتی ہے اور ہر شخص کے حالات زمانہ ماضی و مستقبل آئینہ کی طرح سامنے آجاتے ہیں۔ قیمت حصہ اول دس آنے حصہ دوم ہر دو حصہ منگانے والے سے صرف ایک روپیہ

### کلید غیب دانی

یہ علم رمل کا وہ بے نظیر رسالہ ہے۔ جو کہ دوسرے کے دل کی مخفی بات اور اس کے نیک و بد نتائج سے چشم زدن میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اس رسالہ میں اس پوشیدہ راز کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ جس کے ذریعہ بعض لوگ ہزاروں روپیہ کماتے تھے۔ دلی راز بتلانے کیلئے اس رسالہ میں وہ طلسم درج ہیں کہ دیکھنے والے حیران ہیں۔ بیسیوں مرتبہ چھپ چکا ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (۱؍۴)

### جامع الرمل

علم رمل کے شائقین کی خاطر اس رسالہ کو ایسا آسان لکھا گیا ہے کہ جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے۔ علم رمل کے تمام ضروری لب لباب کو نہایت ترتیب سے اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں علم رمل کے تمام زائچے جنکی تعداد ۶۵۵۳۶ ہے مع احکام کے بڑی نادر ترکیب سے ایسے درج کئے گئے ہیں۔ جن کو دیکھ کے دیکھنے والے حیران رہ جائینگے۔ بوقت ضرورت زائچہ رمل بنا کر اس کو کتاب میں سے نکال لیں۔ اور اپنے سوال کا جواب معلوم کر لیں۔ قیمت ایک روپیہ بارہ آنہ (۱؍۱۲)

### مشیر تقدیر

علم رمل کا بے نظیر رسالہ جس میں ۲۵۶ سوالات کے جواب دیکھنے کے قابل دلپذیر طریق و قواعد درج ہیں۔ قیمت ۳/

ملنے کا پتہ:- مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور



# آنکھیں کھل گئیں جب چاند نکل آیا





آنکھیں دُنیا میں بہت بڑی نعمت ہیں۔ جن کے ذریعہ انسان دُنیا کے نشیب فراز کو جانتا ہے۔ اور نیک و بد کو پہچانتا ہے۔ جب ان میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر دنیا ہیچ اور زندگی وبال جان ہو جاتی ہے۔ آجکل کی آب و ہوا نے بہت سی ایسی بیماریاں پیدا کر دی ہیں جن سے فیصدی پچھتر آدمی ضعف بصارت اور دیگر امراض چشم میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اور آجکل کے نوجوان دماغی محنت کی زیادتی کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کھو کر عینکیں چڑھائے پھرتے ہیں۔ اس لئے ہم جملہ امراض چشم کے مریضوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ کہ پنڈت گردھاری لعل منجم دجفار سیالکوٹی مصنف مشہور عالم جنتری بہت عرصہ تک رفتار کواکب کی سعادت اور نحوست کے پر اثر پراچین منتر ودیا کے تجربات میں مشغول رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے **چاند منتر سے چندر پربھا سُرمہ** تیار کیا جس میں پُرتاثیر جنگلی بوٹیوں کے رسوں کو چندرماں کی سعادت اور وقت کی پابندی سے ڈال کر چندرماں کی روشنی کو حکیمانہ اصول پر جذب کر کے چندر پربھا سرمہ بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ جو جملہ امراض چشم۔ ضعف بصارت۔ دھند۔ جالا۔ غبار۔ پڑبال۔ ناخنہ خارش۔ پھولا۔ سرخی چشم اور آنکھوں سے ہر وقت پانی جاری رہنا۔ تاریکی چشم اور شب کوری وغیرہ کو دُور کر کے آنکھوں کی روشنی کو چندرماں کی طرح بڑھاتا ہے۔ ہر عمر کے آدمی کو یکساں فائدہ دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے عینک لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ طالب علموں اور دماغی محنت کرنے والوں کے لئے چندر پربھا سرمہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ ایک سال تک حسب ہدایت موجد۔ کارخانہ کے دوست و احباب میں بطور تحفہ تقسیم ہوتا رہا۔ جو اپنی حکمی تاثیر میں بے نظیر ثابت ہوا۔ جس کو اب بغرض فائدہ عام مشتہر کیا جاتا ہے۔ کہ جملہ امراض چشم کے مریضو۔ آؤ۔ چندر پربھا سرمہ امراض چشم سے نجات دلاتا ہے۔ آنکھوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ باین ہمہ صفت اس کی قیمت بہت ہی قلیل ہے۔

یعنی فی تولہ ایک روپیہ دس آنہ۔ معہ محصول ڈاک ہے۔ (عہ ۱۰)

۶ ماشہ کے لئے بارہ آنے (۱۲؍) پیکنگ محصول رجسٹری ۶؍ کل (عہ) ۶ ماشہ سے کم روانہ نہ ہوگا۔

## سُرمہ لگانے کی سلائی

منتر شاستر کے انسار خاص شبھ وقت پر اور خاص دھاتوں کی ملاوٹ سے یہ سلائی تیار کی گئی ہے۔ اگر اس سلائی سے سرمہ آنکھوں میں لگایا جاوے۔ تو چوگنا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ سلائی امراض آنکھ کے لئے نہایت مفید ہے۔ قیمت فی سلائی صرف آٹھ آنہ علاوہ محصول ڈاک۔

جو صاحب سرمہ کی شیشی کے ہمراہ سلائی طلب کریں گے۔ ان سے صرف فی سلائی نصف قیمت یعنی چار آنے (۴؍) لی جاویگی۔

**(نوٹ)** چونکہ یہ سرمہ خاص وقت پر تیار ہوتا ہے۔ اس لئے بعض وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے باہر سے آئی ہوئی فرمائشیں رُک جاتی ہیں اور تیار ہونے پر روانہ کی جاتی ہیں۔ اس لئے اگر پارسل کی روانگی میں دیر ہو جاوے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں۔ تیار ہونے پر فوراً روانہ کر دیا جاوے گا +

المشتہر:- **مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

دوائی کھانے سے پہلے

دوائی کھانے کے بعد

# دھات پُشٹ

یعنی

## طاقت بڑھانے والی بیمثیل دوا

قیمت صرف دو روپیہ
محصولڈاک آٹھ آنہ کل عہ/

پرمیشور نے جسم انسانی میں مادہ تولید ایک ایسا جوہر پیدا کیا ہے جس پر انسان کی زندگی کا کل دارومدار ہے۔ جب اس میں کسی قسم کا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے جسم میں صدہا امراض پیدا ہو جاتے ہیں طبیعت ہر وقت پژمردہ رہتی ہے۔ حوصلہ و بہادری کافور ہو جاتی ہے۔ ذرا سی آواز پر دل دھڑکنے لگ جاتا ہے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ و سستی رہتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی۔ خیالات ہر وقت پراگندہ اور چہرہ زرد بے رونق رہتا ہے۔ سر و کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ خاص کر اولاد سے جو دنیا میں نعمت غیر مترقبہ ہے۔ مایوسی ہو جاتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کو وبال جان خیال کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں۔ کہ ہم نے سالہا سال کی محنت سے تنتر شاستروں کے انوسار اس دھات پُشٹ دوائی کا نسخہ تیار کیا ہے۔ اور بموجب تنتر شاستر گرہوں کی سعادت و نحوست کو مدنظر رکھ کر خاص خاص سعد وقتوں میں یہ دوائی تیار کی جاتی ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال کرنے سے مندرجہ بالا خرابیاں دور ہو کر تمام مردہ طاقتیں از سر نو زندہ ہو کر انسان کی تمام دلی امیدیں پوری ہونگی۔ دل میں سرور۔ چہرے پر بشاشت۔ آنکھوں میں نور اور دل میں جوانی کی امنگیں پیدا ہونگی۔ جریان۔ سستی۔ کمزوری وغیرہ کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ پوری تشریح کرنا خلاف تہذیب ہے۔ تندرست آدمی بھی اگر اس کو استعمال کرے۔ تو اس کے تمام اعضائے رئیسہ کو قوت دے کر حافظہ کو بڑھاتی ہے۔ خون صالح بدن میں پیدا کر کے آدمی کو طاقتور پہلوان بنا دیتی ہے۔ چہرہ مانند کندن کے دمکنے لگتا ہے۔ ہم نے قیمت بھی کم رکھی ہے۔ تاکہ ہر ایک آدمی اس کو خرید کر فائدہ اٹھا سکے۔

**قیمت** فی ڈبی ایک ماہ کی خوراک صرف دو روپیہ۔ علاوہ محصولڈاک ۸ر کل عہ/

**طلاء خاص** } بچپن کی جہالت میں پھنس کر اگر آپ نے اپنے ہاتھوں جلق وغیرہ سے اپنی طاقت کو تباہ کر لیا ہو۔ اور اعضائے تناسل کمزور۔ ٹیڑھا اور پتلا پڑ گیا ہو۔ تو دھات پشٹ کے ساتھ ہی ایک شیشی اس طلاء کی بھی ضرور منگوالیں۔ اس طلاء کی مالش سے عضو تناسل کی تمام خرابیاں دور ہو کر بالکل صحت ہو جاویگی۔ نامردوں کو مرد اور مردوں کو جوانمرد بنانے کے لئے یہ طلاء اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ قیمت فی شیشی صرف دو روپیہ۔ علاوہ محصولڈاک

**نوٹ**) چونکہ یہ دوائی دھات پشٹ خاص وقت پر تیار ہوتی ہے۔ اس لئے بعض وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے آئی ہوئی فرمائشیں رک جاتی ہیں۔ جو تیار ہونے پر روانہ کی جاتی ہیں۔ اس لئے اگر پارسل کی روانگی میں دیر ہو جاوے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں تیار ہونے پر فوراً روانہ کر دی جاویگی

ملنے کا پتہ:۔ **مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور**

# علم الطلسمات

## طلسم برائے ہر دلعزیزی

جس شخص کو شوق ہو کہ میں لوگوں میں ہر دلعزیز ہو جاؤں اور لوگ میری عزت کریں تو چاہیئے کہ بروز ۳۰ جولائی ۱۹۳۶ء کو بوقت صبح ایک نگینہ جزع زرد لیکر اس پر ایک نوجوان آدمی کی برہنہ کھڑے ہوئے کی تصویر بناوے۔ اور ایک ہاتھ میں اس کے تلوار پکڑی ہو۔ اور تلوار کی دھار پر حروف طلسم (ط ن ع م ج ا) کندہ کرے۔ بعدازاں اس نگینہ کو انگشتری طلائی میں بساعت زہرہ نصب کر کے اپنے دست راست میں پہن لیوے پس اس کی تاثیر سے وہ شخص ہر فرد و بشر کے نزدیک ہر دلعزیز ہو گا۔ اور تمام لوگ اس سے بدرجہ کمال محبت سے پیش آوینگے ۔



## طلسمی سلائی برائے دفیعہ آشوب چشم

اگر کسی شخص کی بصارت میں کمی ہو جاوے یا آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف رہتی ہو تو طلسمی سلائی تیار کر لیوے جس کی تاثیر سے بصارت تازہ قائم رہتی ہے اور آنکھ میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ بروز شنبہ ۸ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو بوقت صبح سونا اور جست برابر وزن لیکر ان کو گلا کر ۵ انچ لمبی اور ۲ انچ چوڑی باریک تختی تیار کرے جو کاغذ کی مانند باریک ہو۔ پھر اس پر لوہے کی قلم سے ایک گائے کی تصویر اس طرح بناوے کہ گائے کھڑی ہو۔ اور ایک شخص اس کے گلے کا رسہ پکڑے کھڑا ہو۔ گائے کی پیٹھ پر حروف طلسم (ص ن) اور اس آدمی کی دونوں آنکھوں پر اعداد ۵۵ لکھ دیوے پھر ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو جب چاند نکلے تو اس لوح کو چاند کے سامنے رکھ دیوے۔ جب چاند غروب ہو اس کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیوے۔ ہر روز اسی طرح کرے جب تک چاند نظر آتا ہے لوح اس کی روشنی میں پڑی رہے۔ پھر ۳۰ اکتوبر کو جب چاند تمام رات کا ہو گا۔ اس لوح کو تمام رات چاندنی میں پڑا رہنے دے۔ اور اگلے روز صبح کو اس لوح کو گلا کر سلائی کی طرح ٹھوس بنا لیوے۔ پس ۴ انچ لمبی سلائی تیار ہو گی۔ یہ طلسمی سلائی تیار ہے ہر روز رات کو سوتے وقت اس سلائی کو آنکھوں میں پھیر لیا کرے اس کے ہمیشہ استعمال کرنے سے تمام امراض چشم دور ہو نگی اور بصارت تیز ہو گی ۔

## طلسم برائے زیادتی قوت مردانگی

اگر کسی آدمی کی قوت مردانگی کم ہو گئی ہو تو چاہیئے کہ بروز ۱۳ اپریل ۱۹۳۶ء کو ایک عدد نگینہ یاقوت سرخ لیکر اس پر ایک لائن میں آٹھ عدد حروف ح اس طرح کندہ کرے (ح ح ح ح ح ح ح ح) پھر نگینہ کو سرخ کپڑا میں محفوظ کر کے بازوئے راست پر باندھے پس اس طلسم کی تاثیر سے قوت مردانگی میں زیادتی ہو جاویگی۔ لیکن پانی میں اس کو نہ بھیگنے دیوے ۔

**نوٹ** ۔ اگر آپ اس طرح کے ہر مطلب یعنی عشق و محبت ۔ مغلوبی دشمناں ۔ اولاد ۔ زیادتی زر و مال وغیرہ کے طلسم بنانے کے مفصل اصول و قواعد دیکھنا چاہتے ہیں ۔ تو رسالہ اسرار طلسمات قیمت ۸ منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوا لو ۔

# علم قیافہ

## مستورات کی نیک و بد خصلتوں کی پہچان

**قد و قامت** ۔ جس عورت کا قد درمیانہ ہو وہ خاوند کو نہایت عزیز اور دنیاوی کاروبار کو بوجہ احسن سرانجام دینے والی ہوتی ہے ۔ لمبے قد والی عورت نیک اطوار صاحب عقل و صبر ہوتی ہے ۔ کوتاہ قد والی عورت خواہشات دنیاوی میں زیادہ مشغول رہتی ہے ۔ جو عورت بلا ضرورت گھر گھر گھومتی رہے اور اس کی آنکھیں موٹی اور ہمیشہ حرکت میں رہیں ۔ اور خواہ مخواہ فضول باتیں کرے ۔ ایسی عورت مرد کے لئے سخت خطرناک ہوتی ہے ۔ اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیئے ۔ جس عورت کی آنکھیں سوتے ہوئے کھلی رہیں اور منہ سے پانی جاوے ۔ ایسی عورت کبھی شوہر کی وفادار نہیں ہوتی چال چلن اس کا اچھا نہیں ہوتا ۔ جس عورت کے ہنستے وقت گالوں میں گڑھے پڑیں اور آنکھیں پھڑ پھڑا دیں ۔ وہ عورت خاوند سے ہمیشہ دشمنی رکھتی ہے ۔

**منہ** ۔ جس کا منہ چھوٹا ہو اس سے ہمیشہ رنج پہنچے ۔ لمبے منہ والی خود ہمیشہ رنجیدہ رہے ۔ جس کے چہرہ پر مونچھیں یا داڑھی کے بال ہوں ۔ تو وہ عورت تنگ دست اور بیوہ ہوتی ہے ۔ فاحشہ کام کرتی ہے ۔

**چشم** ۔ اگر آنکھیں بھوری مائل بہ سرخی ہوں ۔ تو آرام سے زندگی بسر کرے اگر زرد ہوں تو ہمیشہ تکلیف پاوے ۔ اگر بہ رنگ سرخ ہوں تو بڑی شہوت پرست اور فریبی ہو ۔ اگر بہ رنگ سیاہ ہوں اور اس میں سرخ ڈورا ہو ۔ تو عزیز شوہر بھاگوان ہو ۔ متوالی آنکھوں والی بد چلن ۔ ہمیشہ غیر مردوں کی صحبت میں رہے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ۔ جس کی آنکھوں میں تل ہو ۔ وہ خواہش نفسانی میں زیادہ مبتلا رہے ۔ جس کی آنکھیں چھوٹی ہوں ۔ وہ بدبخت ۔ جو عورت آنکھوں کو زیادہ حرکت دیوے اور بار بار پھیرے وہ زانی ہوتی ہے ۔

**ناک** ۔ اگر ناک اندازہ سے لمبی ہو ۔ تو بڑی جھگڑالو ۔ تیز مزاج ۔ اگر ناک پستہ ہو ۔ تو جلد بیوہ ہو جاوے ۔ اگر ناک پر بال ہوں ۔ تو بدکار ہو ۔ اگر ناک کی نوک نیچے کو جھکی ہو تو دولت مند ۔ اگر نوک چپٹی ہو ۔ تو عزیز شوہر ہو ۔

**پیشانی** ۔ اگر اونچی ہو تو جلد بیوہ ہو جاوے ۔ اگر پیشانی پر بال بہ رنگ سرخ ہوں ۔ تو کنگال خصلت ہو ۔ اگر پیشانی پر ترشول کا نشان ہو تو بڑی بھاگوان صاحب ثروت ہوتی ہے ۔

**رخسار** ۔ اگر منہ کھل نکلنے پر رخساروں میں گڑھا پڑے ۔ تو خواہش نفسانی میں ڈوبی رہے ۔ اگر رخسارے ابھرے ہوں ۔ تو عزیز شوہر خوش مزاج ۔ اگر بات کرتے یا ہنستے وقت رخساروں میں گہرا گڑھا پڑے ۔ تو وہ عورت نہایت بدچلن اور فاحشہ ہوتی ہے ۔

## نوٹ

اگر آپ انسان کے ہر ایک اعضا کی بڑائی چھوٹائی اور خط و خال کو دیکھ کر اس کی عادات و خصلت سے واقف ہونا چاہیں ۔ تو علم قیافہ کا مفصل رسالہ **نظارۂ تقدیر** قیمت ۸ منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوائیے

## مختلف نچھتروں میں سیارگان کی نیک و بد تاثیر

(۱) اگر سورج و منگل آردرا نچھتر پر آجاویں تو ایک ماہ تک غلہ کا نرخ گراں کر دیتے ہیں (۲) اگر سورج و کیتو دونوں بھرنی یا مرگشر نچھتر پر آجاویں۔ تو نمک کو گراں کر دیتے ہیں۔ (۳) اگر سورج ریوتی اور منگل سواتی نچھتر پر ہو جاویں تو راجاؤں میں باہمی تنازعات ترقی پر ہوتے ہیں (۴) اگر سنیچر انرادہا نچھتر پر اور برہسپت جیشٹا نچھتر پر آجاوے۔ تو لوگوں کو کشٹ اور بہت جانیں ضائع ہوں۔ (۵) اگر سنیچر مولا نچھتر پر اور بدھ سواتی نچھتر پر آوے۔ تو اناج گراں کرتے ہیں۔ (۶) جب سنیچر اترا کھاڈ نچھتر پر یا پوروا بھاگنی میں ہو۔ اور سورج اس وقت پنربس نچھتر میں آجاوے تو بارش کی قلت اور بیماری کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ (۷) اگر سنیچر و منگل دھنشٹا نچھتر پر آجاویں۔ تو بارش سے جواب ہوتا ہے۔ غلہ کا نرخ گراں کرتے ہیں۔ (۸) اگر سنیچر و منگل سواتی نچھتر پر ہوں۔ تو آتشزدگی کی وارداتیں بہت ہوں۔ (۹) اگر برہسپت ستبکھا نچھتر پر اور منگل چترا نچھتر پر ہوں۔ تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے۔ (۱۰) اگر برہسپت بشاکھا کا اور سنیچر کرتکا نچھتر کا ہو۔ تو لوگوں میں خوف۔ حیرانی پریشانی اور دہشت پیدا کرتے ہیں۔ (۱۱) اگر سنیچر مگھا سے بکری ہو کر اشلیکھا نچھتر میں داخل ہو۔ تو گندم۔ چاول۔ روغن زرد کا نرخ گراں ہوتا ہے۔ اور اگر اترا کھاڈ سے بکری ہو کر پوروا کھاڈ میں آجاوے تو قحط پڑتا ہے۔ (۱۲) اگر روہنی نچھتر پر منگل و برہسپت دونوں اکٹھے ہو جاویں۔ تو ماہ ساون سے کارتک تک بارش نہیں ہوتی۔ (۱۳) اگر سورج ریوتی نچھتر پر اور سنیچر اترا کھاڈ نچھتر پر ہوں تو بارش نہ ہونے سے فصل خشک ہو جاوے۔ (۱۴) اگر سنیچر چترا نچھتر پر اور سورج ستبکھا نچھتر پر آجاوے۔ تو بارش بر گزشتہ ہو فصل تباہ ہو جاوے (۱۵) اگر سنیچر کرتکا نچھتر پر منگل آردرا نچھتر پر اور بدھ پوروا بھادر پد نچھتر پر ہو۔ تو اس ملک سے ملک میں قحط پڑتا ہے۔ (۱۶) اگر سورج منگل جیشٹا یا آردرا یا مولا یا اشلیکھا نچھتر پر اکٹھے ہوں۔ تو ایک ماہ تک غلہ کا نرخ سخت گراں رکھتے ہیں (۱۷) اشلیکھا نچھتر پر سنیچر کپاس کی پیداوار زیادہ کرتا ہے۔ اور بدھ تل تیل۔ اڑد کا نرخ گراں کرتا ہے۔ اور منگل بارش زیادہ کرتا ہے۔ (۱۸) اگر منگل مولا نچھتر پر ہو۔ تو گوڑ۔ شکر وغیرہ شیریں اشیاء ارزاں رہتی ہیں۔ (۱۹) منگل پوروا کھاڈ نچھتر پر چوپاؤں کا ناش کرتا ہے اور کیتو ہر چیز کو گراں کر دیتا ہے۔ (۲۰) برہسپت اترا کھاڈ نچھتر پر گوڑ۔ شکر کو گراں کرتا ہے (۲۱) برہسپت آردرا یا مرگشر نچھتر پہ بارش کم اور غلہ گراں کرتا ہے (۲۲) جب سنیچر۔ مولا۔ ریوتی۔ اشنی یا مگھا نچھتر پر آتا ہے۔ تو ملک میں زلزلے کثرت سے آتے ہیں۔ تو لوگوں کو سخت تکلیف اور ہراساں گھبراہٹ خوف و تشویش پیدا کرتا ہے۔

### نوٹ

اگر آپ تمام سیارگان کی تاثیرات راشیوں۔ نچھتروں۔ یوگوں کے متعلق حالات اور ان کا ثمرہ اور سیارگان کی ایک دوسرے سے ملنے پر جو تاثیر کرہ ارض پر پڑتی ہے۔ ان کے مفصل حالات و نتائج رنج و راحت بارش۔ ارزانی۔ گرانی جنگ و جدل وغیرہ دیکھنا چاہیں۔ تو رسالہ معجزات آسمانی قیمتی ۴ر منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوا کر دیکھ لیں۔

## جنتری تنخواہ و کرایہ یومیہ یک روپیہ سے یکصد روپیہ ماہوار

| تنخواہ یا کرایہ ماہوار | ۲۸ یوم کا مہینہ | | | ۲۹ یوم کا مہینہ | | | ۳۰ یوم کا مہینہ | | | ۳۱ یوم کا مہینہ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | پائی | آنہ | روپیہ | پائی | آنہ | روپیہ | پائی | آنہ | روپیہ | پائی | آنہ | روپیہ |
| ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۳ | ۸ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۰ |
| ۴ | ۳ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۹ | ۲ | ۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۲ | ۰ |
| ۶ | ۵ | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| ۷ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۹ | ۳ | ۰ | ۷ | ۳ | ۰ |
| ۸ | ۶ | ۴ | ۰ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ | ۴ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ |
| ۹ | ۱ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ۴ | ۰ | ۹ | ۴ | ۰ | ۷ | ۴ | ۰ |
| ۱۰ | ۸ | ۵ | ۰ | ۶ | ۵ | ۰ | ۴ | ۵ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ |
| ۲۰ | ۳ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۸ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۰ |
| ۳۰ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱۵ | ۰ |
| ۴۰ | ۶ | ۶ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱ | ۶ | ۴ | ۱ |
| ۵۰ | ۷ | ۱۲ | ۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱ | ۸ | ۱۰ | ۱ | ۹ | ۹ | ۱ |
| ۶۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۳ | ۲ |
| ۷۰ | ۱ | ۷ | ۲ | ۶ | ۹ | ۲ | ۴ | ۵ | ۲ | ۹ | ۳ | ۲ |
| ۸۰ | ۰ | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ۸ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۹ | ۲ |
| ۹۰ | ۸ | ۳ | ۳ | ۶ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۴ | ۲ |
| ۱۰۰ | ۱ | ۹ | ۳ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴ | ۵ | ۳ | ۷ | ۳ | ۳ |

## نقشہ کرایہ پارسل بذریعہ سواری گاڑی

| فاصلہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵ میل تک کے لئے | ۹/ | ۶/ | ۱۲/ | ۹/ | ۹/ | ۹/ | ۹/ | ۹/ |
| ۲۵ میل سے زائد ۵۰ میل تک | ۹/ | ۶/ | ۲/ | ۶/ | ۸/ | ۹/ | ۱۰/ | ۱۳/ |
| ۵۰ 〃 〃 ۷۵ 〃 | ۹/ | ۶/ | ۳/ | ۱۰/ | ۱۳/ | ۱۵/ | [illegible] | [illegible] |
| ۷۵ 〃 〃 ۱۰۰ 〃 | ۶/ | ۷/ | ۱۰/ | ۱۴/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۱۰۰ 〃 〃 ۱۲۵ 〃 | ۶/ | ۸/ | ۱۳/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۰/ | ۱۳/ |
| ۱۲۵ 〃 〃 ۱۵۰ 〃 | ۶/ | ۶/ | ۱۳/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۱۵۰ 〃 〃 ۱۷۵ 〃 | ۶/ | ۱۰/ | ۱۵/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۱۷۵ 〃 〃 ۲۰۰ 〃 | ۶/ | ۱۰/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۲۰۰ 〃 〃 ۲۲۵ 〃 | ۶/ | ۱۱/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۲۲۵ 〃 〃 ۲۵۰ 〃 | ۷/ | ۱۲/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۲۵۰ 〃 〃 ۲۷۵ 〃 | ۷/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۲۷۵ 〃 〃 ۳۰۰ 〃 | ۷/ | ۱۴/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۳۰۰ 〃 〃 ۳۲۵ 〃 | ۸/ | ۱۵/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۳۲۵ 〃 〃 ۳۵۰ 〃 | ۸/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۳۵۰ 〃 〃 ۳۷۵ 〃 | ۸/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۳۷۵ 〃 〃 ۴۰۰ 〃 | ۹/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۴۰۰ 〃 〃 ۴۲۵ 〃 | ۹/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۴۲۵ 〃 〃 ۴۵۰ 〃 | ۹/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۴۵۰ 〃 〃 ۴۷۵ 〃 | ۱۰/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۴۷۵ 〃 〃 ۵۰۰ 〃 | ۱۰/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## فہرست عرسہائے اہل اسلام در سنہ ۱۹۳۶ء

| نمبر شمار | نام عرس | مقام | تاریخ انگریزی |
|---|---|---|---|
| ۱ | عرس میاں وڈا صاحب | لاہور | یکم جنوری و ۲۰ دسمبر |
| ۲ | عرس امام علی شاہ صاحب نقشبندی | مقام شریف | ۶ جنوری و ۲۰ دسمبر |
| ۳ | عرس خواجہ میر خسرو | دہلی | ۱۳ - جنوری |
| ۴ | عرس حضرت خواجہ محمد ترکمان | نارنول | ۲۶ - جنوری |
| ۵ | عرس مادھو لال حسین صاحب | لاہور | ۸ - فروری |
| ۶ | عرس سخی سرور سلطان | نگاہا | ۱۹ - فروری |
| ۷ | عرس حضرت عبدالخالق | بہاولپور | ۲۲ - فروری |
| ۸ | عرس مخدوم جہانیاں | اوچ شریف | ۵ - مارچ |
| ۹ | عرس حضرت [illegible] رضا شاہ | بٹالہ | ۹ - مارچ |
| ۱۰ | عرس بابا فرید الدین گنج شکر | پاکپتن | ۲۹ - مارچ |
| ۱۱ | عرس حضرت محمد طاہر صاحب | لاہور | ۱۱ - اپریل |
| ۱۲ | عرس سخی سرور سلطان | دھونکل | ۴ - مئی |
| ۱۳ | عرس [illegible] داتا گنج بخش صاحب | لاہور | ۱۳ - مئی |
| ۱۴ | عرس غلام علی شاہ نقشبندی | دہلی | ۱۵ - مئی |
| ۱۵ | عرس حضرت احمد مجدد الف ثانی | سرہند | ۲۲ - مئی |
| ۱۶ | عرس حضرت میاں میر صاحب | لاہور | ۲۹ - مئی |
| ۱۷ | عرس حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب | لاہور | ۲۹ - مئی |
| ۱۸ | عرس حضرت شاہ ہمدان صاحب | کشمیر | ۲۹ - مئی |
| ۱۹ | عرس [illegible] | لاہور | ۳۰ - مئی |
| ۲۰ | عرس مخدوم علاء الدین | کلیر | ۳۰ مئی تا ۲ جون |
| ۲۱ | عرس شاہ محمد مقیم صاحب | حجرہ | یکم جون |
| ۲۲ | عرس گھوڑے شاہ صاحب | لاہور | ۲ - جون |
| ۲۳ | عرس خواجہ بختیار کاکی | دہلی | ۵ - جون |
| ۲۴ | عرس حاجی نوشہ گنج بخش صاحب | نوشہرہ | ۶ - جون |
| ۲۵ | عرس شاہ محمد غوث صاحب | لاہور | ۷ - جون |
| ۲۶ | عرس محمد سعید صاحب | شرقپور | ۷ - جون |
| ۲۷ | عرس نظام الدین اولیا دہلوی [illegible] | دہلی | ۹ - جون |
| ۲۸ | عرس شاہ دولہ دریائی | گجرات | ۹ - جولائی |
| ۲۹ | عرس جناب غوث پاک [illegible] صاحب | راولپنڈی | ۱۹ - جولائی |
| ۳۰ | عرس حضرت عبداللہ صاحب | لاہور | ۲۸ - جولائی |
| ۳۱ | عرس شاہ رضا صاحب قادری | لاہور | یکم اگست |
| ۳۲ | عرس مولانا فخر الدین صاحب چشتی | دہلی | ۲۵ - اگست |
| ۳۳ | عرس بی بی پاک دامن | لاہور | ۲۵ - اگست |
| ۳۴ | عرس حضرت حامد قادری | لاہور | ۲۶ - اگست |
| ۳۵ | عرس حضرت امام علی صاحب | سیالکوٹ | ۴ - ستمبر |
| ۳۶ | عرس خواجہ معین الدین صاحب چشتی اجمیری | اجمیر شریف | ۲۴ ستمبر تا ۲ - اکتوبر |
| ۳۷ | عرس شاہ صدر دیوان صاحب | لاہور | ۳ - اکتوبر |
| ۳۸ | عرس [illegible] گنج بخش صاحب | لاہور | ۳ - اکتوبر |
| ۳۹ | عرس میراں بادشاہ صاحب | لاہور | ۳ - اکتوبر |
| ۴۰ | عرس شاہ بلاول صاحب | لاہور | ۱۴ - نومبر |
| ۴۱ | عرس بو علی شاہ قلندر | پانی پت | ۲۸ - نومبر |
| ۴۲ | عرس مادھو لال حسین صاحب | لاہور | ۸ - دسمبر |

## جنم اشٹمی دسو بادشاہان برائے خالصہ صاحبان

| نمبر شمار | نام | جنم اشٹمی | تاریخ سورگباش |
|---|---|---|---|
| ۱ | سری گورو نانک دیو جی | ۲۹ - [illegible] | ۱۰ - ستمبر |
| ۲ | سری گورو انگد دیو جی | ۲۲ - اپریل | ۲۹ - مارچ |
| ۳ | سری گورو امر داس جی | ۵ - مئی | یکم ستمبر |
| ۴ | سری گورو رام داس جی | یکم نومبر | ۲۱ - [illegible] |
| ۵ | سری گورو ارجن دیو جی | ۱۵ - اپریل | ۲۲ - مئی |
| ۶ | سری گورو ہرگوبند جی | ۶ - جون | ۲۷ - مارچ |
| ۷ | سری گورو ہر رائے جی | ۵ - فروری | ۷ - نومبر |
| ۸ | سری گورو ہرکشن جی | ۲۳ - جولائی | ۱۵ - اپریل |
| ۹ | سری گورو تیغ بہادر جی | ۱۲ - اپریل | ۱۸ - دسمبر |
| ۱۰ | سری گورو گوبند سنگھ جی | یکم جنوری | ۱۹ - نومبر |

## قواعد محکمہ تار و ڈاک ہندوستان

**پوسٹ کارڈ** سنگل اور ڈبل یعنی جوابی ہندوستان کے ہر ایک ڈاک خانہ سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک پوسٹ کارڈ کی قیمت ۳ پیسہ اور جوابی کارڈ کی قیمت ڈیڑھ آنہ ہے۔ اگر پوسٹ کارڈ نہ ملے۔ تو پوسٹ کارڈ کی مانند موٹا کاغذ لے کر اس کو کارڈ سائز کے برابر کاٹ کر اور تین پیسہ ٹکٹ لگا کر ڈال سکتے ہیں کارڈ سائز ۵½ × ۳½ انچ ہونا ہے۔ بیرنگ پوسٹ کارڈ روانہ نہیں ہو سکتا اس لئے اس پر تین پیسہ کا ٹکٹ لگا دینا چاہئے۔ ورنہ کارڈ ضائع ہو جائیگا۔ اور مکتوب الیہ کو نہیں ملیگا۔ کارڈ کے ایک طرف اپنا مطلب لکھو اور دوسری طرف آدھے حصہ میں مکتوب الیہ کا پتہ اور ٹکٹ لگاؤ۔ اور باقی آدھے حصہ میں اپنا مطلب لکھا جا سکتا ہے۔ پتہ والے نصف حصہ میں اپنا نام تاریخ وغیرہ کچھ نہ لکھو۔ ورنہ کارڈ بیرنگ ہو جائیگا۔ اور مکتوب الیہ کو ڈیڑھ آنہ دینا پڑے گا۔

**لفافہ** سرکاری لفافہ جس پر پانچ پیسہ کی مہر چھپی ہوئی ہے۔ ہر ڈاکخانہ سے مل سکتا ہے یا خالی لفافے کو اس پر ایک آنہ ایک پیسہ کا ٹکٹ لگا کر ڈاک میں ڈالا جا سکتا ہے۔ چٹھی کا وزن ۱۰ ماشہ سے زائد لیکن ۲½ تولے سے کم ہونا چاہئے۔ اگر زائد ہو جائے۔ تو سوا آنہ کا ٹکٹ اور لگا دو۔ اسی طرح ہر ۲½ تولہ پر سوا آنہ زائد لگاتے جاؤ۔ اگر لفافہ کا وزن ۱۰ ماشہ سے کم ہو تو ایک آنہ لگاؤ۔

**بک پیکٹ یا نمونہ** تمام چھپا ہوا یا [illegible] شدہ کاغذات۔ کتابیں۔ فال کا کاغذات۔ تصویریں۔ نقشے۔ کاپیاں۔ پروف۔ مسودے اور عام کاروباری کاغذات خواہ چھپے ہوں یا تحریری بشرطیکہ وہ کاغذات کسی خاص پرائیویٹ خط و کتابت کی نوعیت کے نہ ہوں۔ بذریعہ بک پوسٹ روانہ ہو سکتے ہیں۔ بک پیکٹ میں ڈاک کے ٹکٹ۔ نوٹ۔ چیک۔ ہنڈی وغیرہ روانہ نہیں کرنے چاہئیں۔ پیکٹ کا سائز ۲ فٹ۔ لمبائی ایک فٹ چوڑائی ایک فٹ اونچائی سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ اگر پیکٹ گول ہو تو اس کی لمبائی ۲½ فٹ اور قطر ۵ انچ سے زیادہ نہ ہو۔ پیکٹ کے دونوں سرے کھلے رہنے چاہئیں۔ اور ایسے طریقے سے باندھنا چاہئے۔ کہ ہر وقت بغیر کاغذ کو پھاڑنے کے کھول کر دیکھا جا سکے۔ ہر پیکٹ پر پہلے ۵ تولہ وزن کے لئے تین پیسہ کا ٹکٹ لگیگا۔ اس کے بعد ہر ۵ تولہ پر دو پیسہ کا ٹکٹ لگاؤ۔ اگر پیکٹ بیرنگ ڈال دو گے۔ تو اس سے مکتوب الیہ سے دگنا محصول چارج ہوگا۔

**اخبارات** اخبار باقاعدہ ڈاک خانہ میں رجسٹرڈ ہو۔ اس پر رجسٹرڈ نمبر درج ہو۔ اس کا محصول حسب ذیل ہوگا۔ ۸ تولہ وزن تک ایک پیسہ۔ ۸ تولہ سے زائد ۲۰ تولہ سے کم وزن تک دو پیسہ۔ اس سے زائد ہر ۲۰ تولہ یا کم کے لئے دو پیسہ زائد لگاتے جاؤ۔

**پارسل** پارسل میں ہر ایک چیز سوائے اُن چیزوں کے جن کی قانوناً ممانعت ہے روانہ ہو سکتی ہے۔ پارسل کو کسی مضبوط لکڑی یا دھات کے بکس میں بند کر دینا چاہئے۔ اور مندرجہ ذیل شرح سے محصول لگانا چاہئے۔ ۲۰ تولہ وزن تک ۲ ر ۲۰ سے ۴۰ تولہ تک ۴ ر ۴۰ سے ۸۰ تولہ تک [illegible] ۸۰ تولہ سے اوپر ہر ۴۰ تولہ تک ۴ ر بڑھاتے جاؤ۔ لیکن پارسل ۴۰۰ تولہ سے زائد وزنی نہ ہو۔ اگر ۴۰۰ تولہ سے زائد وزنی پارسل ہو۔ تو اس کے لئے مندرجہ ذیل شرح ہوگی۔ ۴۸۰ تولہ تک دو روپے [illegible] ۵۶۰ تولہ تک [illegible] ۶۴۰ تولہ تک [illegible] ۷۲۰ تولہ تک [illegible] ۸۰۰ تولہ تک [illegible] ۸۰۰ تولہ سے زیادہ وزن کا پارسل روانہ نہیں ہو سکتا۔ ۴۰ تولہ سے زائد وزن والے پارسل کو رجسٹری کرانا لازمی ہے۔ جس کے لئے ۲ آنہ کا ٹکٹ لگانا چاہئے۔ کوئی پارسل بیرنگ روانہ نہیں ہو سکتا۔

**رجسٹری** ہر ایک لفافہ۔ کارڈ۔ پیکٹ۔ پارسل حفاظت کیلئے رجسٹری کروایا جا سکتا ہے۔ تاکہ کسی اور کو تقسیم نہ ہو جاوے۔ رجسٹری کے علاوہ معمولی محصول کے ۲ ر کے ٹکٹ زائد لگانے چاہئیں۔ اور رجسٹری کرنے والی چیز کو ڈاک خانہ میں جا کر اس محکمہ کے اہلکار کو دینی چاہئے۔ جو اس کام کے لئے مقرر ہے۔ وہ اس چیز کی رسید فرستندہ کو دیگا۔ اگر ڈاکخانہ کی رسید سے علاوہ مکتوب الیہ کی دستی رسید لینی ہو تو ۲ ر کے ٹکٹ لگانے چاہئیں۔

**بیمہ** قیمتی سامان مثلاً زیورات۔ نوٹ۔ ہنڈیاں۔ قیمتی دستاویز۔ سونا۔ چاندی وغیرہ کے پارسل کا بیمہ کرانا لازمی ہے۔ جس پر علاوہ فیس۔ رجسٹری و معمولی وزن کے مندرجہ ذیل شرح سے زائد ٹکٹ لگانے چاہئیں۔ ۵۰ روپے کی مالیت تک ۴ ر اور ۵۰ روپے سے زائد ہو۔ تو پچاس روپے کی قیمت پر ایک آنہ زائد لگاتے جاؤ۔

**منی آرڈر** دس روپے تک ۲ ر۔ ۱۰ سے زائد ۲۵ روپیہ تک ۴ ر۔ ۲۵ روپیہ سے زائد ہر دس روپیہ تک ۲ ر اور دو سو سے ۶۰۰ روپیہ تک کے ۴ ر لگاؤ۔ فی سو روپیہ کے لئے ایک روپیہ لگیگا۔ چھ سو سے زائد کا منی آرڈر نہیں ہو سکتا۔

**تار** تاریں دو قسم کی ہیں۔ ایک ضروری۔ دوسری معمولی۔ ان کی فیس روانگی حسب ذیل ہے۔ قسم ضروری ۱۲ الفاظ تک جس میں پتہ وغیرہ شامل ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد ۱۲ سے زیادہ ہو جائے۔ تو فی لفظ ۲ ر زائد لئے جائیں گے۔

**قسم معمولی** ۸ الفاظ تک ۹ ر ۱۲ الفاظ تک ۱۲ ر جس میں پتہ وغیرہ شامل ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد ۱۲ سے زائد ہو جائے۔ تو فی لفظ ۱ ر زائد لیا جائیگا۔

مضمون اشتہار [illegible]

قیمت [illegible] روپے

# یوگ و دیا کے چمتکار

وہ چلا ہوا جادو جس کے سامنے دنیا جہان کے جادو کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ لاجواب تصنیف جس کی ہر ایک [illegible] کو پڑھ کر [illegible] کامل فن اور مرشدان کامل کی کھوج میں جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھاننی پڑی [illegible] سادھو [illegible] اور درویشوں کے سینوں کے راز جو باتیں [illegible] اپنے سینوں میں [illegible] گئے۔ انہیں کی نقاب کشائی زبان اردو میں [illegible] کتاب [illegible] میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس سے بہتر [illegible] ایک ہزار روپیہ نقد کا انعام رکھا گیا ہے۔



[illegible]

کرسکے گی ⑥ کیا ہپناٹزم کے عمل سے عورت پر قابو حاصل کیا جاسکتا ہے؟ دو تین سو سال کے بعد ان تندرست اچھے بھلے اور موٹے تازے بچے رکھنے والے رازوں کا انکشاف ⑦ ہپناٹزم بطور پیشہ کے - جو لوگ بالکل بیکار اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور نہیں سوچ سکتے کہ حصول روزی کیلئے کونسا طریقہ اختیار کیا جائے - ان کی رہنمائی کے لئے نہایت دلچسپ معلومات یعنی فن ہپناٹزم کو کس طور پر بطور پیشہ سیکھنے کی مکمل واقفیت۔ ہپناٹزم سے نہ صرف لاعلاج بیماریوں کے علاج ہو سکتے ہیں بلکہ اسٹیج پر تماشا دکھا کر کافی روپیہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً حاضرین میں سے کسی جاہل اور ان پڑھ شخص کو ہپناٹزم کی نیند سلا کر غیر زبان کی کتاب پڑھوا لینا یا انگریزی زبان میں تقریر کروانا جو ایسی شستہ اور مدلل ہوگی۔ کہ حاضرین سب بیٹھے معمول کو کسی یونیورسٹی کا پروفیسر سمجھیں • ہپناٹک معمول کے جسم کو چھڑی کی مانند سخت بنا کر کرسی کے سہارے ہوا میں لٹا دینا اور اس پر سینکڑوں من وزنی بوجھ لاد دینا - معمول ہر شخص کے جسم کو چھو کر اس کی بیتی ہوئی اور آئندہ زندگی کے حالات بلا کم و کاست بتلا دیگا۔ سائل کی جیب میں پڑی ہوئی سربمہر عبارت کو لفظ بلفظ پڑھ دے گا - اور اس کے گھر کے حالات بن دیکھے اس طرح بیان کریگا کہ گویا وہاں برسوں بودوباش رکھ چکا ہے ⑧ نظر بندی کے شعبدے حاضرین میں سے بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ متاثر کرکے کاٹھ کے الوؤں کی مانند بنا دینا - بغیر رسی کے ان کے ہاتھ پیر جکڑ دینا - زبان بند کر دینا اور آگے پیچھے کی سمت گرا دینا - برف کے ٹکڑے کو آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ بنا دینا اور دہکتے ہوئے کوئلے کو برف کی مانند سرد محسوس کرانا - ایک کا ہاتھ برف کے ٹکڑے سے جلنے لگیگا - اور دوسرا دہکتے ہوئے کوئلہ کو ہتھیلی پر رکھ کر ٹھنڈک محسوس کریگا ⑨ نظر بندی سے معمول کتے یا بلی کو شیر سمجھ کر خائف ہو جائیں گے اور شیر کو گیدڑ سمجھ کر بے دھڑک اس کی سواری کریں گے - رسی پر سانپ کا دھوکہ کھا کر اس سے دور بھاگیں گے مگر سانپ کو رسی جان کر گلے میں ڈالے پھریں گے۔ کچے آلو کو حلوہ کے بھیس میں مزے سے لیکر کھائیں گے اور حلوا سوہن کو فضلہ سمجھ کر اسکی بدبو سے ناک بھوں چڑھائیں گے - الغرض اس قسم کے بیشمار تماشے اسٹیج پر دکھائے جاسکتے ہیں جنکو دیکھ کر لوگ ہنستے ہنستے لوٹن کبوتر بن جائیں گے ⑩ عمل حب یعنی معشوق کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے طریقے پتھر سے زیادہ سخت دل معشوق بھی سات تالے توڑ کر اور سمندر پھاند کر حاضر ہوگا - اور عاجزی کریگا ⑪ مسمریزم کے ذریعہ ہر قسم کی پیشگوئی کرنا - زمانہ گذشتہ و آئندہ کے حالات معلوم کر لینا - دوسرے شخص کے دل کی بات بتا دینا - کھوئی ہوئی چیز یا گڑے ہوئے دفینے کا پتہ معلوم کر لینا ⑫ حاکم یا افسر کو اپنے اوپر مہربان یا دشمن کو دوست بنا لینا ⑬ حیوانوں کو متاثر کرنے کی ترکیبیں یہاں تک کہ سانپ بچھو جیسے زہریلے جانور اور شیر چیتے جیسے خونخوار درندے بھی آپ سے خوف کھائیں گے ⑭ اپنے کاروبار کو فروغ دینا - گاہکوں یا ان لوگوں سے جن سے روزمرہ واسطہ پڑتا ہے - اپنی جانب کشش کرکے حسب منشا کام نکلوا لینا ⑮ بذریعہ روشن ضمیری معمول کو دوسرے مقامات کی سیر کرانا اور وہاں کے حالات معلوم کرنا - مہلک اور پیچیدہ امراض کے نسخے تجویز کرلینا وغیرہ وغیرہ ضروری درخواست - بونا فائڈ خریدار کی درخواست خریداری کے ہمراہ رازداری کے علاوہ اس بات کی حلفیہ تحریر آنی چاہیئے کہ انہیں بتلائے گئے عملیات سے آپ ہرگز ہرگز ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں گے ورنہ آرڈر کی تعمیل نہ ہوگی۔ وجہ یہ کہ کتاب مذکور کے عملیات ایسے آسان پیرایہ میں اور اس فصاحت کے ساتھ لکھے گئے ہیں کہ ایک ناواقف شخص بھی اگر ان پر عمل پیرا ہونے کا تہیہ کرلے تو چند دنوں کی مشق کے بعد عامل کامل بن سکتا اور لوگوں سے اپنی پرستش کروا سکتا ہے - اندریں صورت ہمارے لئے یہ لازم ہوا کہ ہر ایک خریدار سے نیک نیتی کی حلفیہ تحریر لی جائے - کتاب ہذا کو عام بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہوگا جو بالکل بے سروپا اور لغو ہوتی ہیں لیکن اس کتاب کا ہر ایک عمل نہایت آسان سہل الحصول اور لاکھ روپیہ کا ہے مجلد اور باتصویر کی قیمت صرف سے مگر پہلے یکصد خریداروں کیلئے عہ

## پانچ منٹ میں ہمزاد

کسی ہندوستانی فقیر سے ترکیب ہمیں حاصل ہوئی ہے جس کی بدولت ہر شخص گھر بیٹھے ۵ منٹ میں ہمزاد کو دیکھ سکتا ہے - ترکیب مذکور اگر آپ بالکل مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہماری کتاب رموز ہمزاد ایک روپیہ کے وی پی سے طلب کیجئے جس میں تسخیر ہمزاد سے متعلق قدیم ہندو یوگیوں اور مسلمان درویشوں کے سینہ بسینہ منتقل ہونیوالے خفیہ رازوں کا انکشاف ۵۵ اسباق میں کیا گیا ہے - جو بالکل مفید بتا ہمزاد اور ایسے سہل الحصول ہیں کہ ایک بچہ بھی چاہے تو آسانی سے عمل کر لے - کسی قبرستان - ندی یا دریا کے کنارے جانے کی ضرورت نہیں گھر میں بیٹھ کر عمل کیا جاتا ہے - ہماری بتلائی ہوئی ترکیب سے آپ ہمزاد کو دیکھ تو پہلے ہی روز لینگے - مگر تسخیر ہو کر وہ ہمکلام ۲۱ یوم میں ہوگا - ایک صد روپیہ کا انعام اس شخص کیلئے رکھا گیا ہے جو یہ ثابت کر دے کہ تسخیر ہمزاد سے متعلق رموز ہمزاد سے بہتر کتاب زبان اردو میں شائع ہو چکی ہے۔ تسخیر ہمزاد کے فائدے ۱ - سات پردوں میں چھپے ہوئے نامہربان اور سنگدل محبوب کو بھی ہمزاد ایکبار کھینچ لائیگا اور آپکے قدموں پر گرا دیگا - ۲ - مہلک اور لاعلاج بیماریوں کے تیر بہدف نسخے تجویز کر دیگا - ۳ - ہزاروں میلوں سے بے موسم کے پھل انواع واقسام کے تحفے - نیز دور کی خبریں پل بھر میں لا دیگا - ۴ - حاکم و افسر کو مہربان بنا کر بگڑے ہوئے کام سنوار دیگا - ۵ - گمشدہ کا پتہ دیگا - ۶ - بیتے ہوئے اور آئندہ ہونیوالے واقعات بے کم و کاست بتلا دیگا - کشائش رزق کیلئے یا ترقی مراتب کی ایسی ترکیبیں بتلائیگا کہ عامل گنتی کے تھوڑے دنوں ہی میں دولت دنیا سے مالا مال ہو جائیگا۔

تازہ تعریفی خطوط کا خلاصہ [illegible] رموز ہمزاد [illegible]

ملک نیو پرنسپل ٹریڈنگ کمپنی
پوسٹ بکس نمبر ۱۵ - لاہور



قسمت پلٹ المعروف ناقص گرہ توڑ انگشتری

# بگڑی تقدیر بنالو

**بنارس کے مشہور عالم جوتشی شری یت پنڈت برہمانند صاحب لوگاچاریہ بھرگو شاستری کی حیرت انگیز ایجاد اب کوئی شخص بدقسمت نہیں رہیگا جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنالو۔ جیوتش سنسار میں معجزہ انگیز انقلاب۔ ستاروں کی گرہ چال کی رو سے "ناقص گرہ توڑ انگشتری" کو غلط ثابت کرنیوالے پنڈت کیلئے ایک ہزار روپیہ نقد انعام**

اگر آپ گردش روزگار کے ستائے ہوئے اور بدقسمتی کے ہاتھوں نالاں ہیں اپکا کوئی کام بن بن کر بگڑ جاتا ہے سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے روزگار کیلئے آپ بہتیرے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں مگر پیسہ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ اگر آپ کو اولاد کی چاہ ہے۔ ننھے منے گورے چٹے بچہ کو گود میں کھلانے کی آرزو ہے۔ نرینہ اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی۔ اگر آپ خوبصورت استری کے خواہشمند ہیں پر شادی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ رشتہ بن بن کے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ مقدمہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ روپیہ پانی کی طرح صرف ہو رہا ہے۔ مگر عزت محفوظ رہنے کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ کسی پیچیدہ اور سنگین بیماری میں مبتلا حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کراتے کراتے مایوس ہو چکے ہیں اور بیماری جوں کی توں قائم ہے۔ اگر آپ کسی دشمن کے خوف سے پردیس میں زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ اور دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے۔ کہ وطن جاتے ہی کوئی نیا جھگڑا کھڑا کر دیگا۔ اگر آپ کسی اعلیٰ ملازمت کیلئے سرگرداں ہیں آپ میں علمی لیاقت کی کمی نہیں ہے۔ مگر افسر ہے کہ ہزار کوشش اور سفارش کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ اور یہی گردش آپ کی سب امیدیں خاک میں ملا رہی ہے۔ ہمارے بیان کی صداقت کا امتحان کرنے کیلئے اپنی جنم پتری کسی تمام پنڈت یا جوتشی کو دکھلائیے وہ دیکھتے ہی کہہ دیگا کہ فلاں گھر میں منگل اور فلاں گھر میں سنیچر پڑا ہوا بیٹھا ہے یہی وجہ ہے آپ کی تقدیر خراب ہے اور کوئی کام راس نہیں آتا۔

## اپنی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے

اس سائنٹفک اصول کو ہمارے رشی منی تو پہلے ہی سے جانتے تھے۔ مگر اب مغرب والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ سورج۔ چاند۔ راہو۔ برہسپت۔ بدھ۔ شکر۔ منگل۔ کیتو اور سنیچر جیسے سیاروں کی مقامی حالت کا اثر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی آئندہ زندگی پر پڑتا ہے گویا یہ ستارے بحیثیت مجموعی انسانی تقدیر کو مختلف سانچوں میں ڈھالتے ہیں۔ انہیں کے اثر سے کبھی راحت و آرام کا زمانہ آتا ہے۔ اور کبھی انسان قسم قسم کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر بنارس کے مشہور عالم جوتشی پنڈت برہمانند صاحب بھرگو شاستری نے اپنے تجربہ، مشاہدہ اور برسوں کی تحقیقات کے بعد اس شعبہ پر ایک نئی بات دریافت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ راہو اور کیتو کے علاوہ منگل اور سنیچر دو نہایت طاقتور اور منحوس ستارے ہیں جو مقررہ وقت پر اپنے ناقص اثرات سے دوسرے سعد (نیک) ستاروں کے اثر کو بھی زائل کر دیتے ہیں اور انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آلہ بنایا جا

کیونکہ شنیچر یا کسی دوسرے منحوس ستارے کا اثر انسانی قسمت پر نہ پڑیگا۔ تو پھر کسی شخص کا بدقسمت رہنا ناممکن ہو جائیگا۔ چنانچہ اسی اصول کو عملی جامہ پہنانے کیلئے پنڈت صاحب موصوف نے چاند گرہن میں شانتی و ایک منتروں کا جاپ کر کے مختلف دھاتوں کے مجموعے سے ناقص گرہ توڑا انگشتری تیار کی ہے جو سو فیصدی حالتوں میں کامیاب رہی ہے اور بڑے بڑے راجے مہاراجے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ دیکھنے میں یہ انگشتری نہایت چمکدار اور خوبصورت ہے۔ بلکہ اس کی چمک [illegible] سے آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں جس وقت ناقص گرہ توڑا انگشتری کو کسی بدقسمت انسان کی انگلی میں پہنا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سے کسی منحوس ستارے کا اثر بالعموم اور زحل اور شنیچر کا اثر بالخصوص اس شخص کی زندگی پر نہیں بلکہ براہ راست اس طلسمی انگوٹھی پر پڑ کر زمین میں جذب ہونے لگتا ہے اور **پہننے والا منحوس ستاروں کے بُرے اثرات** سے ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتا ہے۔ **آٹھ دھاتوں کی یہ قسمت پلٹ انگشتری** بچے بڈھے جوان عورت مرد غرضیکہ سب کیلئے یکساں مفید ہے۔ بچوں کے گلے میں پہنانے سے اُن کے دانت آسانی سے نکل آئیں گے۔ آسیب، نظر، جادو ٹونہ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اور چیچک یا دیگر وبائی **بیماریوں سے** وہ قطعاً محفوظ رہیں گے عورت پہنے گی تو اس کے حسن اور عزت کو فروغ ہوگا۔ بیماری اور افسردگی دم دبا کر بھاگ جائیں گی اور ہر ایک خواہش کی تکمیل آپ سے آپ ہونے لگیگی۔ مرد کیلئے اس طلسمی انگشتری کو پہننا گویا خوشحالی اور فارغ البالی کو دعوت دینا ہے۔ اس کے برے دن اس طرح غائب ہو جائینگے **جیسے بادلوں کے ٹکڑے سورج کی کرنوں سے منتشر اور پریشان ہو جاتے ہیں** مفلسی اور بیماری کا نام و نشان نہیں رہیگا منحوس ستاروں کا اثر ٹل جانے پر بہتری کی صورت خود بخود دیدۂ غیب سے ظاہر ہو جائیگی۔ اگر آپ ہتھیلی پر سرسوں جمانا یا علم سیارگان کے اس زندہ معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں اگر آپ کی خواہش ہے کہ **جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے** اتنی ہی دیر میں آپ کی تقدیر پلٹا کھا جائے اور برے دن یک قلم دور ہو کر **آپ دنیا کے خوش نصیب انسانوں میں شمار ہونے لگیں** تو دیر نہ کیجئے اور اپنی سب سے پہلی فرصت میں آرڈر بھیج دیجئے کیونکہ اس مرتبہ ناقص گرہ توڑا انگشتریاں بہت تھوڑی تعداد میں تیار کی گئی ہیں اور منافع انتہائی کم رکھا گیا ہے۔ جیسے آٹے میں نمک یعنی قیمت باوجود ان تمام خوبیوں کے صرف تین روپے فی انگشتری جو اس کی لاگت کے برابر ہے کیونکہ ہر ایک انگشتری کی تیاری پر قریب قریب ایک روپیہ خرچ ہوتا ہے [illegible] ایک سے تین تک بھیجی جاتی ہیں۔ اشتہار کے برعکس ثابت ہونے پر بلا تامل قیمت دام واپس کر دیئے جائیں گے۔ واپسی کیلئے کوئی خاص شرط نہیں آپ کو **صرف اتنا لکھنا ہوگا آپ کی ہدایت کے مطابق انگشتری کو پہنے ۲۱ دن ہو چکے ہیں مگر میں پرماتما کو ساکشی جان کر کہتا ہوں کہ میری قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں لہٰذا اپنی انگوٹھی لیکر میرے دام واپس کر دیجئیگا**۔ اشتہار ہی نیا ہے بدظن لوگوں کے اطمینان کیلئے اس سے زیادہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص قسمت پلٹ انگشتری کی برکتوں سے محروم رہے تو اس کے نصیب ۔

**ناقص گرہ توڑا انگشتری کے متعلق رائے** (۱) آپ کی روانہ کردہ انگوٹھیاں گرہ توڑا [illegible] پہنچیں آپ نے جیسی ان کی تعریف لکھی تھی ویسی ہی ثابت ہوئیں۔ براہ کرم ایک اور انگوٹھی میری بیوی کیلئے بھیج دیجئے [illegible] (۲) میں نہایت خوشی سے آپکو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ آپکی گرہ توڑا انگوٹھی پہننے کے تیسرے دن مجھے ملازمت مل گئی۔ اس لئے چار اور انگوٹھیاں حسب ذیل پتہ پر الگ الگ بھیجوا دیجئے [illegible] نرائن اہلکار [illegible] فیض آباد (۳) میں عرصہ ۱۲ سال سے نزلہ و دیگر دماغی امراض سے تنگ آیا ہوا تھا کئی حکیموں و ڈاکٹروں سے علاج کرایا لیکن بیکار۔ آخر پچھلے سال آپ کی گرہ توڑا انگشتری کی آزمائش کی اور چند دن کے بعد محسوس کرنے لگا میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی کہ بیماری خود بخود گھٹتی جا رہی ہے اور اب چنگا ہوں یہ خط بطور سرٹیفکیٹ لکھ رہا ہوں۔ بالکل تندرست ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کی اس نادر ایجاد کیلئے شکریہ ادا کر سکوں۔ وید شاستری پنڈت پورن آنند شرما [illegible] (۴) اپنی حالت یہ تھی بیماری اور بیکاری کی حالت تھی۔ تب آپ سے گرہ توڑا انگشتری منگوائی تھی۔ انگوٹھی پہننے سے یہ فائدہ ہوا کہ بیماری تو جاتی رہی اور بیکاری کی بلا بھی ٹل گئی کیونکہ مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی جب تک انگوٹھی میری انگلی میں رہی مجھے مالی طور پر برابر فائدہ پہنچتا رہا اور نوکری بھی رہی مگر جب سے انگوٹھی ٹوٹ کر کہیں کھو گئی ہے جیسا پہلے پریشان ہو گیا ہوں براہ مہربانی دوسری بذریعہ وی۔ پی ارسال فرمائیے۔ لوکناتھ پرشاد [illegible] الہ آباد (۵) میں آپ کی ناقص گرہ توڑا انگشتری کا اثر دیکھ چکا ہوں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت اسی کی بدولت محکمہ پولیس میں نوکر ہوں جتنی جلدی ہو سکے ایک انگشتری اور میرے پتہ سے بذریعہ وی۔ پی ارسال فرمائیے۔ اجاگر پرشاد کانسٹیبل [illegible] وغیرہ وغیرہ۔ مفصل فہرست مفت طلب کر لیجئے ۔

قیمت
صرف [illegible]
محصول ڈاک [illegible]

**یونیورسل ٹریڈنگ کمپنی**
**پوسٹ بکس نمبر ۱۵۰ لاہور**

مضمون
اشتہار و ڈیزائن
رجسٹری شدہ

ایک نظر بھر کے جسے دیکھا اُسے رام کیا

# آنکھ کا جادو!

یہ وُہ جادو ہے کہ جس کا نہیں ثانی جگ میں

گورا چہرہ بھرے بھرے رخسار ہے۔ ستواں ناک۔ اُبھری ہوئی پیشانی موٹی موٹی رسیلی اور مدھ بھری آنکھیں لمبے اور پتلے ہونٹ اور اُن کے اندر موتیوں کے جیسے دانتوں کی دو لڑیاں۔ یہ سب حسن کے لوازمات قدرت نے جس عورت کو دیئے ہیں وہی پدمنی ہے۔ پدمنی جو انگلی کے اشارے سے سارے عالم کو ایک ہی تال پر نچا بھی سکتی ہے اور نگاہِ قہر سے زیر و بالا بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر لاکھ پری چہرہ اور رشک حور ہونے کے باوجود بھی عورت کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی ہیں تو یوں سمجھو کہ قدرت نے سحر و افسوں کا دروازہ اس پر بند کر دیا ہے۔ اسمیں کوئی دلکشی کوئی کشش اور کوئی خوشنمائی نہیں۔ کوئی شخص اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے گا۔ ہمارا 'آنکھ سنوار کا جل رجسٹرڈ' نہ صرف آنکھ کے جملہ امراض ضعف بصر، رو ہے، کُکرے، موتیا بند، ناخنہ، شبکوری، آشوب چشم، جالا، دھندلا اور پڑبال وغیرہ کو جڑ سے اکھاڑ کر بینائی کو تیز اور عینک کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بلکہ اسکے چالیس یوم تک متواتر استعمال کرنے سے چھوٹی سے چھوٹی آنکھ موٹی، چمکدار، خوبصورت اور رسیلی بن جاتی ہے ہلکے ہلکے گلابی رنگ سے جو بالکل قدرتی معلوم ہوتا ہے آنکھوں میں کچھ اس قسم کی دلکشی اور دلربائی پیدا ہو جاتی ہے کہ بے اختیار دیکھتے جاؤ اور طبیعت سیر نہ ہو کیونکہ آنکھوں کو ہلکی گلابی رنگت دیکر موٹی موٹی، گول کٹیلی، اُبھری ہوئی خوبصورت اور دلکش بنا دینا ہمارے آنکھ سنوار کا جل کا خاص وصف ہے۔ ننھے منے بچے جن کی آنکھیں پیدائش کے وقت سے خراب یا چھوٹی چھوٹی اور عموماً دکھتی رہتی ہیں۔ انکے لئے ہمارا آنکھ سنوار کا جل ایک نعمت عظمیٰ ثابت ہوگا اور چند یوم کے استعمال سے آنکھ کی کوئی شکایت باقی نہ رہیگی۔ بلکہ آنکھیں ایسی خوبصورت معلوم ہونے لگینگی گویا ہزار تندرست بچوں کی آنکھوں کی خوبصورتی انہیں دو آنکھوں میں آکر جمع ہو گئی ہے۔ چیچک (جس کا شکار بیشتر معصوم ہستیاں ہوتی ہیں) کا حملہ اکثر آنکھ پر ہو کر آنکھ کو بالکل ضائع کر دیتا ہے۔ اور تب وہ پیاری پیاری شکلیں نفرت اور حقارت کا ایک نمونہ بن کر رہ جاتی ہیں آنکھ سنوار کا جل کے دائمی استعمال سے آنکھیں برف کی طرح ٹھنڈی اور فولاد کی طرح محفوظ رہتی ہیں، اور چیچک یا کسی بیرونی بیماری کا اثر آنکھ پر نہیں پڑتا۔ گویا آنکھ کا بیمہ ہو جاتا ہے اور بچے بڑے بوڑھے ہو کر بھی آنکھ کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ غرضیکہ آنکھ سنوار کا جل رجسٹرڈ بیسویں صدی کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ اور اس کا استعمال ہر گھر میں ہونا چاہئے۔ قیمت باوجود ان خوبیوں کے شیشی کلاں عہ/ شیشی خورد ۱۲/ محصولڈاک ایک سے تین شیشی تک صرف ۸/

## آنکھوں کی کسرتیں بالتصویر!

اس نام کی کتاب امریکہ کے ایک نامی گرامی ڈاکٹر نے لکھی ہے جو اس جدید طریقہ علاج کا موجد ہے۔ اور نئی چیز ہونے کے باعث یہ کتاب وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہاتھوں ہاتھ بک چکی ہے۔ اسمیں ڈاکٹر صاحب موصوف نے آنکھوں کی بینائی اور درستی کیلئے آنکھوں کی مالش اور آنکھوں کے غسل کے طریق کے علاوہ کچھ کسرتیں حوالہ قلم کی ہیں جن کو دس یا پندرہ منٹ روزانہ کرنے سے بارہ پندرہ سال کی بگڑی ہوئی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور پھر عینک لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی۔ امریکہ کے ہزاروں لاکھوں آنکھ کے مریضوں نے ان کسرتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور عینکیں اُتار اُتار کر پھینک دی ہیں۔ بڑھاپا یا کسی بیماری کے باعث آنکھیں چاہے کیسی خراب ہو گئی ہوں آنکھوں سے پانی بہتا ہو۔ آنکھیں چندھیا جاتی ہوں یا کسی وجہ سے آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہو تو ان کسرتوں سے ایک ہفتہ میں غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے یہ کسرتیں نہایت ہی آسان ہیں اور ان کو اندر یا باہر ہر جگہ ہر عمر کا آدمی کر سکتا ہے۔ کتاب کے اردو ترجمہ کی قیمت صرف تین روپے۔ لیکن آنکھ سنوار کا جل کے خریدار کو مفت دی جائے گی۔

## چہرہ بدلنے کی مشین!

خوبصورت اور بھرا بھرا چہرہ عورت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ دولت قبل از وقت چھن گئی تو یوں سمجھو کہ عورت کی دنیا تاریک ہو گئی۔ ہماری دوائی حسن خوباں رجسٹرڈ کے استعمال سے بڑی بوڑھی عورتوں کے بے رونق اور بے آب چہرے بھی ایک بار شباب کی رعنائی اور شگفتگی حاصل کر لیتے ہیں۔ جھریاں اور داغ زردی اور بدنما لکیریں ایکدم غائب ہو کر چہرہ کی سردی، سوکھا پن اور بے رونقی شباب کی سرخی و شگفتگی میں بدل جاتے ہیں اور ۴۰۔۴۵ سال کی عورت ۱۴۔۱۵ برس کی حسین دوشیزہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ آپ نے خوبصورتی پیدا کرنے والی بیسیوں دوائیاں استعمال کی ہونگی مگر تجربہ کر کے دیکھئے کہ حسن خوباں کے مقابلہ میں سب ہیچ معلوم ہونگی۔ قیمت باوجود ان خوبیوں کے صرف ایک روپیہ فی بکس

نوٹ: حسن خوباں تمام جلدی امراض مثلاً خارش داد۔ چھائیں، مہاسے، چنبل، کھجلی، ہاتھ پیر اور ہونٹوں کے پھٹنے، پھوڑے پھنسی، نیز ہر قسم کے ورم کو بے حد مفید ہے۔

عورتوں کی ڈھلکی ہوئی چھاتیوں کیلئے بے نظیر و لاثانی دوا

## جوبن بہار

رجسٹرڈ

جس کی بدولت چالیس سالہ عورت چودہ سالہ دوشیزہ کے مطابق ہو سکتی ہے۔ جس طرح مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو دیتا ہے ویسے ہی عورت بھی اپنی ڈھلکی ہوئی اور بدصورت چھاتی دیکھ کر رو دیتی ہے مگر اسے اتنا خیال نہیں آتا کہ زمانہ حال کی نو ایجاد دوائی جوبن بہار رجسٹرڈ منگوا کر استعمال کرے۔ اس بیمثل موصوف دوائی کے استعمال سے ڈھلکی ہوئی بدنما چھاتیاں چند روز میں چودہ سالہ کنواری لڑکی کی مانند ہو جاتی ہیں جس عمر کے لئے ہر شخص متلاشی نظر آتا ہے۔ بقول ؏ باقی نہ دل میں کوئی بھی یا رب ہوس رہے * چودہ برس کے سِن میں وہ لاکھوں برس رہے * یہ بے مثیل عورتوں کی گری ہوئی چھاتیوں کو اصلی حالت پر لانے کے لئے حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ جو عورتیں قبل از شادی خوبصورت چھاتیاں رکھنے کا دعویٰ رکھتی ہیں۔ ایک دو بچہ ہونے پر ہی اس خوبصورتی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ان کے لئے یہ بات باعث مسرت ہے کہ ہم نے یہ روغن ایجاد کر کے ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اسکے استعمال سے ہر عورت جس کو اپنی کھوئی ہوئی دولت کی خواہش ہے یقینی طور پر حاصل کر سکتی ہے اور اپنے شوہر ہستی پر جوانی کے کھوئے ہوئے ثمر پھر ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ زیادہ تعریف کی قانون اجازت نہیں دیتا۔

ملنے کا پتہ

ڈاکٹر پربھتی سنگھ اینڈ سنز۔ ڈاکٹر پربھتی سنگھ بلڈنگ نمبر ۱۵۰۔ لاہور

قیمت فی شیشی
ایک روپیہ [illegible]

# ملاپ کی پہلی رات

با تصویر

پہلی شب بیوی سے اپنی قوت کا امتحان لینے سے پہلے "ملاپ کی پہلی رات" کا مطالعہ آپ کیلئے ازبس ضروری ہے ورنہ عدم واقفیت کے باعث اگر کہیں خدانخواستہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے تو عمر بھر بیوی کی نظروں میں ذلیل و خوار رہیں گے اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر آپکے کھوئے ہوئے وقار کو واپس نہ لاسکیگا۔

یعنی مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کی [illegible] ملاپ کی پہلی رات گویا دولہا اور دولہن کے امتحان کی رات ہوتی ہے ادھر نئی نویلی دلہن سولہ سنگار سے آراستہ ہو کر [illegible] محبت اور [illegible] کوشش کرتا ہے [illegible] اگر آپ اس نازک امتحان میں [illegible] کامیابی حاصل کر کے اپنے گرہستی جیون کو سورگ [illegible] بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عورت کی فطرت۔ عورت کے پوشیدہ جذبات کیا ہیں؟ دولہن کیا چاہتی ہے؟ [illegible] حسن و جمال کے [illegible] کس طرح قائم اور برقرار رکھا جا سکتا ہے [illegible] کون کون سے ہیں۔ [illegible] کتاب ملاپ کی پہلی رات [illegible] آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اس کتاب میں شادی شدہ جوڑے کے لئے [illegible] پوشیدہ [illegible] عورت کو گرہستی زندگی اختیار کرنے سے پہلے ضرور پڑھ لینا چاہئے۔ [illegible] ملاپ کی پہلی رات کے الف بے تے [illegible] عورت دونوں کے لئے [illegible] اور وہ سو سال کی عمر تک [illegible] قابل بننے [illegible] قیمت بارہ آنے (۱۲) محصول ڈاک ۵ ؍

---

## کیا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں

اور وہ آپ کی جانب [illegible] نہیں کرتا [illegible] محبت [illegible] عاشق و معشوق اور میاں بیوی [illegible] میں کشش اور جادو [illegible] کسی جگہ سے دل [illegible] ویسا کشش اور [illegible] محبت کا [illegible] قیمت صرف ۸ آنے علاوہ محصول ڈاک

---

## قدیم مصری جادو ٹونہ

[illegible] مصری جادو [illegible] جنات کی تسخیر [illegible] مصری کتاب کا اردو ترجمہ [illegible] تمام پوشیدہ عملیات [illegible] حصول رزق کے واسطے عملیات [illegible] کتاب کی قیمت صرف [illegible] ایک ہزار روپیہ کا [illegible] کتاب اردو میں پیش کر سکے

---

## بڑھاپے میں جوان ہو جائیے

[illegible] کا بہترین طریقہ [illegible] روپیہ ماہوار کی آمدنی پیدا کر سکتا ہے

[illegible] قیمت [illegible]

---

## آپکے ہاتھ کی لکیریں

[illegible] آپکی زندگی کو [illegible] قیمت فی جلد [illegible] آنے [illegible]

مضمون اشتہار و ڈیزائن
رجسٹری شدہ

# کھوئی ہوئی جوانی پھر واپس آسکتی ہے

قیمت فی شیشی
دو روپیہ چار آنہ
محصول ڈاک ۸؍

بڈھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی طاقت کی بے نظیر دوائی دیکھ لینا! **فاسفرول** کے استعمال سے آپ کبھی نوجوان بڈھا نہیں ہونے پائیگا بلکہ گئے گذرے بڈھے بھی سے سرے موٹے تازے ہٹے کٹے اور گبھرو جوان بنکر نوجوانوں کی صف میں بھستی ہونے لگینگے سچ مچ انکی جوانی واپس لوٹ آئیگی دُنیا کی ہر کیفیت انہیں پھر حسین اور خوبصورت معلوم ہونے لگیگی زندگی کی تمام خوشیاں انہیں حاصل ہو جائینگی فاسفرول بیسویں صدی کی وہ حیرت انگیز ایجاد ہے جس نے یورپ اور ایشیا کی طبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے

**فاسفرول** رجسٹرڈ
کا
استعمال کرو

**فاسفرول** تمام ہندوستان میں مشہور ہے ہر قصبہ اور گاؤں میں اس کی تعریف کرنے والے موجود ہیں **فاسفرول** ہر قسم کی دماغی کمزوری کیلئے اکسیر اور ہر عمر اور ہر موسم میں کھانے کے لائق ہے **فاسفرول** کے سامنے سونے چاندی کے کشتے نیز سینکڑوں قسم کی قیمتی دوائیاں بیکار ہیں **فاسفرول** کے استعمال سے بھوک اس قدر لگتی ہے کہ سیروں دودھ اور چھٹانکوں گھی ہضم کر جاؤ **فاسفرول** دماغی قوا کیلئے اتنی مفید ہے کہ برسوں کی بھولی ہوئی باتیں خود بخود یاد آنے لگیں گی۔ **فاسفرول** کا ایک ایک قطرہ آب حیات کا ایک گھونٹ ہے یہ عورتوں کیلئے بھی ایسی ہی مفید ہے جیسی مردوں کیلئے اکسیر صفت ہے **فاسفرول** کے استعمال سے پہلے اپنا وزن کر لو! دو ہفتہ استعمال کرنے کے بعد اپنا وزن کرو۔ ایک ہی چار سیر وزن بڑھا دیگا **فاسفرول** کے استعمال سے بارہ گھنٹہ روزانہ کام کرو گے تو بھی تکان معلوم نہ ہوگی **فاسفرول** جریان احتلام اور سرعت انزال کو جڑ سے اکھیڑ دیگی۔ دنیا میں جس قدر طاقت کی دوائیاں ہیں۔ ان کی تاثیر عموماً گرم خشک ہوتی ہے نیز وہ قبض کی شکایت پیدا کرکے اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچاتی ہیں مگر **فاسفرول** تاثیر میں گرم تر اور قبض کشا ہے یہ جگر کے فعل کو درست کرکے قبض کی شکایت ہمیشہ کے لئے رفع کر دیگی **فاسفرول** چہرہ کو گلاب کے پھول کی طرح شاداب اور تن بدن کو چاق چوبند بنا دیگی **فاسفرول** کے ایک ایک قطرہ میں دنیا جہان کی لذتیں حل کی گئی ہیں **فاسفرول** کوئی نئی چیز نہیں سینکڑوں نامراد اس کی بدولت بامراد ہو چکے ہیں **فاسفرول** کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حد درجہ کی مقوی ہے امساک اس قدر بڑھاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے جو شخص ایک شادی کرکے بھی پچھتا رہا ہو یا ناکام ہو۔ اس ناکام شخص کو اس کی آرزو سے ۵ حصہ زیادہ قوت حاصل ہوگی۔ **المختصر** خوبیاں تحریر میں نہیں آسکتی اس کو عملی طور پر تجربہ کرکے دیکھ لیجئے اس سے بہتر طاقت بڑھانے کیلئے اور کوئی دوائی نہیں ملیگی۔ ایک بکس کی قیمت جس میں مہینہ بھر کی خوراک بند رہتی ہے۔ صرف دو روپے چار آنہ (۲؍۴)

**ایک ہزار روپیہ نقد انعام**

اس شخص کو دیا جاویگا جو مندرجہ ذیل سندات میں کسی ایک کو فرضی ثابت کرے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ہی آن کر کیا کہتے ہیں

① فاسفرول بیشک آبحیات ہے ایک شیشی اور بھجوا دیجئے بخشی بخش سنگھ سیتا پور ② فاسفرول نے واقعی جادو کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں طاقت کی ایسی زبردست دوائی کبھی نہ دیکھی تھی ایک شیشی اور بھجوا دیجئے بھگوتی شنکر مقام مہوبہ یو۔پی ③ تین شیشی اور ارسال فرمایئے کیونکہ آپ کی دوائی سے مریض کو مفید فائدہ ہوا ہے۔ محمد حسین منی پور آسام ④ فاسفرول کے استعمال سے میری بیوی کو بہت فائدہ ہوا ایک شیشی اور بھجوا دیجئے۔ [illegible] قلب علی گڈھ ⑤ فاسفرول کی شیشی پچھلے مہینہ منگوائی تھی بہت فائدہ حاصل ہوا دو ماہ کی خوراک اور بھجوا دیجئے۔ کالکا [illegible] فرخ آباد ⑥ فاسفرول نے میری مایوسی کو خوشی سے بدل دیا۔ ایک شیشی اور بھجوا دیجئے۔ گھیر نواب خان سرونج مالوہ ⑦ فاسفرول کی ایک شیشی استعمال کر چکا ہوں [illegible] فائدہ ہوا ہے ایک اور بھجوا دیجئے۔ خوشدل لارڈی اہلکار گورکھپور ⑧ فاسفرول کو میرے چند احباب اور میں نے خود بھی چند قطرے استعمال کئے۔ توقع سے زیادہ مفید پایا حقیقی معنوں میں آبحیات ہے۔ اگر چند دنوں اس کا مسلسل استعمال کیا جائے تو غیر معمولی فائدہ ہوگا۔ فصاحت حسین ہیڈ کلرک کلکٹری گورکھپور ⑨ آپ کے کارخانہ سے فاسفرول کی جو شیشیاں استعمال کیں بلا مبالغہ ویسا ہی اثر پایا جیسا کہ اشتہار میں دیکھا تھا۔ اب میری جسمانی صحت اور تندرستی بہت عمدہ ہو گئی ہے۔ پرسرام شرما نگر سہارنپور ⑩ فاسفرول دماغی کمزوری کے لئے واقعی اکسیر ثابت ہوئی ہے دو شیشی اور بھجوا دیجئے۔ ایک میں خود استعمال کرونگا اور دوسری تحصیلدار صاحب کے واسطے منگوائی جا رہی ہے۔ پنڈت ہر دت نائب تحصیلدار بھرت پور ⑪ فاسفرول کی دو شیشیاں مل گئیں حقیقت میں آپ کی دوائی بے بہا ہے نہایت مفید اور زود اثر ثابت ہوئی ہے ایک شیشی اور خط دیکھتے ہی وی پی سے بھجوا دیجئے۔ پادری حبیب الرحمان خان [illegible] علی گڈھ ⑫ میں جگر کی خرابی کے باعث عرصہ سے بیمار تھا۔ کوئی دوائی کارگر نہ ہوتی تھی۔ کھانا دیکھ کر جی متلانے لگتا تھا۔ مگر فاسفرول کی پہلی خوراک نے گویا جادو کا اثر کیا۔ بھوک خوب لگنے لگی۔ دائمی قبض کی شکایت جاتی رہی ہے اور رات کو میٹھی نیند کے مزے لیتا ہوں۔ ایک شیشی بذریعہ وی پی اور بھجوا دیجئے۔ عبد الکریم ہیڈ کانسٹیبل قطب سہارنپور ⑬ فاسفرول کی ایک شیشی نے میرے سات سال کے پرانے جریان احتلام کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ میرے بھائی کیلئے ایک شیشی اور بھیج دیجئے۔ جلال الدین شیر والا فیروز پور شہر ⑭ فاسفرول میرے دوست کے مرض سوزاک میں مفید ثابت ہوئی ہے ایک شیشی اور بھیج دیجئے۔ غلام مصطفے [illegible] ⑮ فاسفرول کی دو شیشیاں آپ کے یہاں سے منگوائی تھیں وہ واقعی لاثانی ہے۔ ایک بکس اور بذریعہ وی پی بھیج دیجئے۔ رام چندر پرشاد ڈالٹن گنج

[illegible] لاہور

# معشوق عاشق ہو جائیگا

## پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

کام روپ کا جادو المعروف تسخیر حسن باتصویر مکمل چار حصوں میں جادو کے فوراً اثر دکھانے والے جنتر منتر تنتر نیز خفیہ عملیات اس کتاب میں درج کئے گئے ہیں ایسے جن کی سدھی کے لئے کوئی محنت کوئی جپ یا چلہ کشی نہیں کرنا پڑتے۔ آپ آنکھ جھپکتے کے ساتھ ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر سینکڑوں روپیہ ماہوار کی آمدنی پیدا کر سکتے ہیں اس نادر کتاب کی موجودگی میں بھی اگر آپ عملیات کی بازاری کتابوں پر پیسہ برباد کریں تو آپ کے نصیب!!...... کام روپ دیس کی عورتیں پردیسیوں کو جادو کے ذریعہ کتا بلی یا بکرا بنا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ اور جسے ضرورت ہو دوبارہ آدمی بنا کر شریک صحبت کرتی ہیں یہ سنکر مصنف کتاب اصل حال دریافت کرنے کے لئے خود ان دیس میں گیا۔ اور وہاں دس سال رہ کر اس نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سیکھا۔ وہ سب اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو **پہلا حصہ** تسخیر پر سینکڑوں تیر بہدف فوراً اثر دکھانے والے جادو کے نادر چٹکلے محبت کا پان محبت کی سپاری محبت کی الائچی محبت کا پھول اور محبت کا عطر وغیرہ تیار کرنے کی جادو اثر ترکیبیں یعنی ادھر محبوب کو کھلایا۔ یا سونگھایا اور ادھر اسکے خیالات نے پلٹا کھایا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے علیحدہ نہ کر سکے گی اسکے علاوہ حصول روزگار۔ دولت۔ اولاد۔ بلندی مراتب بربادی دشمن۔ مقدمات میں فتح۔ قید سے چھٹکارا نیز عوام میں ہر دلعزیزی حاصل کرنے کیلئے وہ وہ خفیہ عملیات چٹکلے اور ہدایتیں درج کی گئی ہیں جن کو کام روپ کے فقیر جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے ان کو گھر بیٹھے سیکھئے پھر دنیا آپکے سر پر ہوگی اور آپ جہاں جائینگے عزت پائینگے **دوسرا حصہ** جادو کے عجیب و غریب کھیل جن کی عوام میں نمائش کر کے ہزاروں روپئے پیدا کئے جا سکتے ہیں (۱) پتھر کو توڑنے سے فوراً خون بہنے لگے (۲) انگوٹھی خود بخود ہوا میں ناچنے لگے (۳) سادہ پانی کا دودھ بنا کر دکھا دینا (۴) غیب سے خود بخود پھولوں کی بارش ہو (۵) منہ سے آگ نکال کر کھیر پکانا (۶) بغیر آگ کے چاول [illegible] (۷) جوتے کا کبوتر بنا دینا (۸) صندوق میں لڑکے کو بند کر کے غائب کر دینا (۹) جادو کا ایک ایسا ہاتھی بنانا جسکے پیٹ سے ہزاروں من [illegible] پر بھی خالی نہ ہوگا (۱۰) انگوٹھی غائب کر کے انڈے میں سے برآمد کرنا (۱۱) ہتھیلی پر سرسوں کا ناچ (۱۲) کٹا ہوا سر باتیں کرے (۱۳) حقہ اپنے آپ چلے (۱۴) انگلی سے پانی نکلے (۱۵) ہتھیلی پر سرسوں اگانا وغیرہ وغیرہ **تیسرا حصہ** (۱) پانی چلنے کی ترکیب (۲) شراب کا دودھ یا دودھ کی شراب بنا دینا (۳) آگ سے میں پانی باندھنا (۴) ککڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحیح سالم بنا دینا (۵) اڑا ہوا کبوتر لوٹ آئے (۶) [illegible] (۷) شیشے کو روئی کی طرح چبانے کا جادو (۸) پانی میں پتھر کو تیرانے کا شعبدہ **چوتھا حصہ** (۱) کالا پلیت یعنی اپنی روح کو جسم سے باہر نکال کر دوسرے جسم میں داخل کرنا اور پھر واپس جسم میں آنا (۲) چنگے بھلے آدمی کو کتا بندر مینڈھا۔ طوطا۔ بکرا۔ یا سور بنا دینا (۳) موچھوں والا آدمی چوٹی والی عورت دکھائی دینے لگے۔ وغیرہ وغیرہ مکمل چاروں حصوں کی قیمت صرف دو روپے آٹھ آنے [illegible] کوئی بات خلاف تہذیب نہیں [illegible] جلدی کیجئے ورنہ چند دن میں شاید یہ کتاب کسی قیمت پر بھی آپکو نہ مل سکے **نوٹ** اس کتاب میں اہل ہنود اہل اسلام [illegible] آتش کی کسوٹی پر پرکھا جا چکا ہے [illegible] آپ کی کتاب بالکل سچی [illegible]

## محبت مارے ہوئے

[illegible] اپنے دل کی مراد کو حاصل کر [illegible] [illegible] آزمودہ اور [illegible] جاتے ہیں [illegible]

[illegible]

# دنیا میں سب سے بڑا جادو

[illegible]

عورت کا حسن ہے



[illegible]

## ڈھول میں جواہرات — بیسویں صدی کا سربستہ راز

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

## گھر کا ڈاکٹر — خزینۂ حکمت

### [illegible] اردو [illegible] قسم کی پہلی کتاب

[illegible]

[illegible] پوسٹ بکس نمبر ۱۵۰ لاہور

[illegible]

# رسالہ مست قلندر لاہور

[illegible]

اس میں ① اردو کا سب سے سستا سب سے زیادہ دلچسپ مکمل ناول اور ہر ماہ نیا مصور رسالہ آپ کو ملے گا۔ ② اس میں ہر مہینے دنیا بھر کے سینکڑوں دلچسپ [illegible] اور کارآمد اخباروں و رسالوں کے چیدہ چیدہ مضامین کا انتخاب شائع کیا جاتا ہے۔ اس میں ③ اس میں ہر مذاق اور ہر عمر کے آدمیوں کے دل بہلاؤ و تفریح ہنسی مذاق اور دل لگی کیلئے گوناگوں دلچسپیوں کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں ④ [illegible] کارٹون [illegible] تصویروں کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں اس میں ⑤ [illegible] ⑥ اس میں [illegible] رسالہ مست قلندر [illegible] آرڈر بھیجئے

[illegible]

① [illegible] ② [illegible] ③ [illegible] ④ [illegible] ⑤ [illegible] ⑥ [illegible] ⑦ [illegible] ⑧ [illegible] ⑨ [illegible] ⑩ [illegible]

[illegible]

[illegible]

مینیجر رسالہ مست قلندر لاہور

# جو مانگو گے مل جائیگا

آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں جائیں گے [illegible] پیدا کریگا۔ عالم محکوم ہو جائیگا۔ محبوب عاشق ہو جائیگا۔ غریبی امیری میں تبدیل ہو جائیگی۔ [illegible] گمشدہ واپس آ جائیگی۔ مقدموں میں [illegible] کامیاب ہوں گے [illegible] جیسے آپ چاہیں گے [illegible] یہ سب کچھ کتاب کامتری شکتی کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے

[illegible]

[illegible] کامتری شکتی [illegible]

[illegible]

# [illegible]

بہترین لکھائی چھپائی ولایتی کاغذ بیشمار تصویریں مجلد خوبصورت سنہری جلد [illegible] اشتہار کے مطابق [illegible] روپیہ قیمت [illegible] اردو میں فن جادو پر اس سے بہتر کتاب پیش کرنیوالے کو ایک ہزار روپیہ انعام

## [illegible]

اسکے ساتھ دنیا جہان کے تمام جادوگر [illegible] حقیقت [illegible] [illegible]

نہیں لکھا گیا۔ جادو کا ہر ایک کرشمہ [illegible] ایسی آسان ترکیب سے لکھا گیا ہے کہ ایک معمولی پڑھا لکھا [illegible] استادوں [illegible]

① [illegible] ② [illegible] ③ [illegible] ④ [illegible] ⑤ [illegible] ⑥ [illegible] ⑦ [illegible] ⑧ [illegible] ⑨ [illegible] ⑩ [illegible] ⑪ [illegible] ⑫ [illegible] ⑬ [illegible] ⑭ [illegible]

[illegible]

---

# [illegible] دودھ [illegible] ہضم [illegible]

### [illegible]

[illegible]

① [illegible] ② [illegible] ③ [illegible] ④ [illegible] ⑤ [illegible] ⑥ [illegible] ⑦ [illegible] ⑧ [illegible] ⑨ [illegible] ⑩ [illegible] ⑪ [illegible] ⑫ [illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# مرے ہوئے عزیزوں سے ملاقات یا بات چیت کرلو

[illegible]

**اسپرٹ کمیونی کیشنز** [illegible]

[illegible]

اسپرٹ کمیونی کیشنز عورت، مرد، بچہ، بوڑھا سب کیلئے یکساں مفید کارگر ہے [illegible]

**الہامی کمیونی کیشنز** [illegible]

[illegible]

فوائد بیشمار ہیں مگر یہاں مختصراً درج کئے جاتے ہیں

[illegible]

## آلہ مذکور کے خریدنے پر مردہ روحوں سے بات چیت کرنے کا مکمل کورس آپ کو مفت ملے گا

[illegible]

کورس ۱ کی فہرست [illegible]

کورس ۲ کی فہرست [illegible]

[illegible]

[illegible]

## طب جدید کی کتابیں

[illegible]

موہنی مہا کا سمندر فن تسخیر و حب کے متلاشیوں کیلئے ایک بالکل نئی چیز یعنی

# تنتر شاستر با تصویر

تنتر ودیا پر اس سے بہتر یا اس جیسا مخزن تصنیف کریگا اسکو ایک ہزار روپیہ انعام

مضمون اشتہار و ڈیزائن

## بیراگی سادھوؤں تارک الدنیا فقیروں اور جٹا دھاری سنیاسیوں کی تحقیقات اور تجربوں کا نچوڑ گاگر میں ساگر یا دریا در کوزہ کا بہترین نمونہ

آجکل کچھ بیکار لوگوں نے بے معنی منتروں اور حب کے تعویذوں کی آڑ میں چکنے چپڑے اشتہاروں سے غریب پبلک کو بری طرح لوٹنا شروع کر دیا ہے میری عمر اسوقت ۵۰ سال کی ہے دنیاداری سے کوسوں دور ہوں عمر کا بیشتر حصہ ہمالیہ پربت پر جٹا دھاری سادھو سنیاسی اور تیاگی رشیوں کی سیوا میں بسر کیا ہے میں نے جو کچھ سیکھا اسے پبلک میں لانے سے ہمیشہ گریز رہا ہوں لیکن بھولے بھالے بھائیوں کو دن دہاڑے لٹتے دیکھ کر اب مجھ سے نہیں رہا جاتا اس لئے تنتر شاستر کے نام سے جواہرات کے اس انمول بھنڈار کو پہلی مرتبہ پبلک میں پیش کرتا ہوں مجھے روپیہ کا لالچ یا اپنی محنت کے صلہ کی خواہش نہیں سچائی کا بھوکا ہوں سچائی ہی کیلئے جی رہا ہوں اور ایک دن سچائی پر ہی جان دیدوں گا۔ تنتر شاستر کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی اور ذلیل سی چیزوں میں عجیب غریب تاثیریں بھری ہوئی ہیں جن کے راز سے واقف ہو کر اڑتی چڑیا کو زمین پر گرا دینا۔ راہ چلتے آدمی کو آناً فاناً تسخیر کرکے اپنا ہم خیال بنا لینا۔ سات پردوں میں چھپے ہوئے معشوق کو کھینچ منگوانا اور بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بیمار کو پھونک مار کر چنگا کر دینا بالکل معمولی باتیں ہیں یہ سب کے سب تنتر نہایت آسان اور سینکڑوں بار کے آزمودہ ہیں جن کی موجودگی میں بے معنی منتروں کی بھول بھلیوں میں پھنس کر آپ کو اپنے وقت اور روپیہ کا ستیاناس کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی شمشان دیو استھان یا بھیانک جنگل میں چلہ کرکے جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی حاجت ہے تنتر شاستر چار حصوں میں لکھا جا رہا ہے مختصر **فہرست مضامین** ملاحظہ ہو ① جب محبوب یا معشوق تک رسائی نہ ہو ماتھے پر تلک لگا کر تسخیر کرنے کا تنتر ② جب محبوب کے گھر آنا جانا ہو آنکھوں سے آنکھیں لڑا کر یا پھول سونگھا کر تسخیر کرنے کا تنتر ③ محبوب کو پان الائچی یا کوئی اور چیز کھلا کر فوراً تسخیر کرنے کا تنتر ہتھیلی پر سرسوں جما کر دیکھ لو ④ صرف جسم کو مس کرنے سے محبوبہ تسخیر ہوگی۔ ایک عجیب غریب طلسماتی تنتر ⑤ محبوب کے پاؤں کی مٹی کی تاثیر وہ خود بخود بیتاب ہو کر چلی آئے گی ⑥ چاول کا ایک دانہ کھلا کر موہ لینے کا تنتر ⑦ محبوبہ کے جسم سے چھوتے ہوئے کپڑے کا تنتر جو کبھی خطا نہیں کرتا ⑧ محبوبہ کے سر کے بالوں کا تنتر جو بجلی کی مانند اثر کرتا ہے ⑨ لعاب دہن کا تنتر جس کی بدولت بیوی خاوند پر دل و جان سے فریفتہ ہو جاتی ہے ⑩ مور کے پر کا تنتر جو مغرور ترین عورت کو بھی پل بھر میں زیر کر سکتا ہے ⑪ عورتوں کو تسخیر کرنے کیلئے بیتال سنیاسی چٹکلے ⑫ مردوں کو تسخیر کرنے کے تنتر ⑬ حاکم یا افسر کو مہربان بنانے والے تنتر ⑭ دھن دولت اور روزگار پراپتی کے تنتر ⑮ پچھیڑوا کا تنتر ⑯ روگ ناشک یعنی بیماریاں دور کرنے کے تنتر ⑰ شترو ناشک یعنی دشمن کے تنتر ⑱ سرودھا تنتر ⑲ پشو چکتشی تنتر ⑳ بناسپتی یعنی جڑی بوٹیوں کے تنتر ㉑ [illegible] تنتر وغیرہ وغیرہ پہلا حصہ چھپ کر تیار ہے طالب علم اور غیر شادی شدہ ہرگز نہ منگوائیں۔ رازداری اور اس بات کی حلفیہ تحریر آنی چاہیئے کہ شاستر پڑھ کے کسی تنتر سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا ورنہ آرڈر کی تعمیل کسی صورت نہ ہوگی۔ شوقین مزاج اور تماشبین حضرات یک صد روپیہ خرچ کرکے بھی تنتر شاستر کو حاصل نہیں کر سکتے لیکن جن کے دل میں کوئی پاپ نہیں۔ ان سے پہلے حصہ کے صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ لئے جاویں گے۔ تنتر شاستر کے چھپنے پر بھی اگر کوئی محبت کا مارا ہوا ناکام تمنا رہے تو اس کے نصیب پر لوٹ۔ یاد رہے کہ اس مد کی تمام آمدنی اشتہاری خرچ نکال کر مستحق لوگوں میں تقسیم کی جائیگی۔ میں اس شخص کا سیوک بننے کو تیار ہوں جو میرے کسی تنتر کو غلط ثابت کرے۔ تنتر شاستر میں جڑی بوٹیوں کی اصلی اور رنگین تصویریں دی گئی ہیں۔ نیز یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کون سی بوٹی کس جگہ اور کس موسم میں آسانی سے مل سکتی ہیں تاکہ کسی تنتر کی تیاری میں خواہشمند کو ذرا بھر بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو معمولی گاؤں میں بھی پنساریوں کے یہاں سے مل سکتی ہیں الغرض بڑے کام کی چیز ہے جس طرح کسی کو کوہ نور ہیرا مل جائے۔ اور وہ مارے خوشی کے جامے میں پھولا نہیں سماتا۔ اسی طرح تنتر شاستر کو لے کر آپ سمجھیں گے کہ گویا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا آپ کے ہاتھ لگ گیا۔ تنتر شاستر کی موجودگی میں آپ کو کوئی کتاب اچھی نہ لگے گی۔ دل میں ایک زبردست لہر اٹھے گی کہ جو کتب تنتر کے متعلق آج تک پڑھتے ہیں وہ سب دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ ہائے پہلے یہ تنتر کیوں نہ ملا اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے مارتے عمر کا اتنا حصہ بیکار گیا غیر واقف تنتر شاستر کو لیکر نہال ہو جاتے ہیں اسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھیں گے اور بڑی سے بڑی قیمت کے معاوضہ میں بھی اسے اپنے سے جدا نہ کر سکیں گے۔ ایک سال کے اندر چار ایڈیشن ختم ہو چکے اب پانچواں ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ محصول ڈاک پانچ آنہ

مہنت [illegible] پوسٹ بکس نمبر ۵۱ لاہور

# دولت آپکو تلاش کر رہی ہے

اگر آپ غریب اور بیکار ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے

کیونکہ [illegible] دولت آپکے گھر کی لونڈی اور روپیہ آپ کا ادنیٰ غلام ہوگا۔ موجودہ پریشانی [illegible]

[illegible]

NOVELTIES

[illegible]

# زندہ جادوگری کے کرشمے

یہ نادر کتاب جس کی دنیا والوں کو تلاش تھی! وہ جس کا ایک ایک لفظ لاکھ لاکھ روپیہ کو بھی سستا ہے کیونکہ اس میں ہندوستان قدیم کے رشی منی جتنی ستی یوگی اور سنیاسیوں کے ذریعہ اکسیر اثر جادو اثر ٹوٹکوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ساری کتاب میں منتر جنتر اور بے سود حیلوں کا جھگڑا آپ کو کہیں نہیں ملیگا۔ صرف ٹوٹکے ہی ٹوٹکے ایسے ہیں جن کو وہ لوگ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کتاب ہذا کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ پانچواں ایڈیشن چھپکر فروخت ہو رہی ہے مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو۔ ۱ بستر مرگ پر پڑے ہوئے بیمار کو صرف سانس کی تبدیلی سے راضی کر دینا اسکی ترکیب ۲۔ اپنے یا دوسرے شخص کی موت کا حال قبل از وقت جان لینا ٹوٹکہ ۳ [illegible] حسینوں کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی نہایت آسان آسان ترکیبیں ۵ بغیر دوائی کے [illegible] ترکیب ۶ [illegible] بیوی کو اپنی محبت میں اسیر کرکے اسقدر متوالا بنا دینا کہ سوائے تمہارے اور سب طرف [illegible] ترکیب ۷ [illegible] خوبصورت اور تندرست لڑکا پیدا کرنے کا ٹوٹکہ ۸۔ ہر کام میں کامیابی حاصل کرنیکا راز ۹۔ حاکم کے روبرو جانے سے پہلے [illegible] ۱۰۔ دشمنوں پر ہمیشہ فتحیاب ہونے کا راز ٹوٹکہ ۱۱۔ آنیوالی بیماری یا مصیبت کا قبل از وقت پتہ لگا کر [illegible] ترکیب ۱۲ [illegible] ۱۳۔ [illegible] لاٹری یا کسی اور انعامی مقابلہ میں پہلا انعام حاصل کرنے کا راز ترکیب ۱۴ [illegible] ہونے اور آئندہ ہونیوالے واقعات کو قبل از وقت جان لینا۔ قدیم ہندو [illegible] ۱۵۔ [illegible] ۱۶ [illegible]

[illegible]

[illegible]

**نوٹ** ۔ زندہ جادوگری کے [illegible]

[illegible]

[illegible]

رجسٹری شدہ ہے ۔

# قوتِ مردمی کا زبردست طوفان

## بذریعہ سائنٹیفک آلات

گئے گذرے نامرد کو فی الفور [illegible] کا زندہ [illegible]

**آلۂ نامردی** [illegible] (Rejuvinator) [illegible]

[illegible]

**اسقاط کی ادویات ہر شخص کیلئے ممکن ہو گیا ہے**

[illegible]

[illegible]

**سائنٹیفک نامردی کمپنی** [illegible]

# بیسویں صدی کا کوک شاستر

بالتصویر مجلد

بے اولادوں کے لیے گوہر مقصود ✿ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

اس کے مطالعہ سے عورتوں کے متعلق آپکو ایسی عجیب و غریب واقفیت حاصل ہوگی کہ تمام اشتہاری کوک شاستروں کو بھول جائیں گے لدھیانہ اور کانپور کی بنائی ہوئی ننگی اور بھدی تصویریں تو آپ نے کئی مرتبہ دیکھی ہونگی۔ آیئے اب ہم پیرس کے باکمال مصوروں کی کاریگری کا بہترین نمونہ ہاف ٹون بلاکس کی رنگین اور بولتی تصویروں کی شکل میں دکھا کر عورت کی مختلف حالتوں کا نقشہ آپ کے ذہن نشین کرائیں جو باتیں تقریر میں نہیں آسکتیں جن کو جاننے کے لئے آپ نے سینکڑوں روپے اشتہاری کوک شاستروں پر پانی کی طرح بہا دیئے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہی باتیں آپ کو ہماری نادر کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہونگی مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو (۱) عورت کی پہچان عورت کیا چیز ہے؟ جس عورت کا بھید سنتے ہیں کہ بھگوان بھی نہ جان سکا۔ اس کے متعلق مغرب کے ۲۰ چوٹی کے ماہرین علم النساء نے اپنی تمام عمریں صرف کرکے کیا دریافت کیا (۲) کیا عورت پاکباز اور باعصمت ہے اس کی پہچان کرنے کا طریق (۳) عورت کی خوبصورتی بڑھانے کے مختلف طریقے۔ صرف غذاؤں کی تبدیلی سے حسن و خوبصورتی بڑھانے کے راز (۴) چہرہ کے داغ دھبے چھائیں کیل کے داغ دور کرکے جلد کو ملائم اور خوبصورت بنانے کے آسان ترین طریقے (۵) چھوٹے قد کی عورت بغیر کسی دوائی کی مدد کے کیسے بلند قامت ہو سکتی ہے (۶) بغیر قینچی یا دوائی کی مدد کے بالوں کو گھونگھر والے بنانے کی ترکیب (۷) ہاتھوں کی سختی اور کھردرا پن کیسے دور ہو سکتا ہے (۸) پسینہ کی بدبو اور بغل کی بو دور کرنے کی ترکیب (۹) عورت کی ڈھیلی اور گری ہوئی چھاتیوں کو سخت بنانے اور ان کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کا طریق (۱۰) کیا عورت کا [illegible] (۱۱) عورت کا جسم اس کے جسم کی ساخت و خفیہ مقامات کی تشریح تصویروں کے ساتھ (۱۲) حمل کس طرح قرار پاتا ہے (۱۳) مواصلت کے فوراً بعد پہچان کا طریق کہ حمل قرار پایا ہے یا نہیں (۱۴) حسب منشا اولاد پیدا کرنے کا راز یعنی جب چاہو بچہ پیدا ہو نہ چاہو نہ ہو (۱۵) بانجھ عورت کس طرح اولاد کے قابل ہو سکتی ہے (۱۶) مواصلت کے مختلف طریقے (۱۷) کن حالتوں میں مباشرت کرنا مضر صحت اور نقصان دہ ہے؟ یہی وہ راز ہے جس کے نہ جاننے کی وجہ سے [illegible] جوانی میں بوڑھے ہو گئے اور [illegible] (۱۸) [illegible] مباشرت کرنے کے قواعد مباشرت کرنے کی ایک ایسی ترکیب جس کی بدولت بڈھے بھی جوان ہو سکتے ہیں (۱۹) دائم المریض اور قوت باہ کے لئے اشتہاری دواؤں پر [illegible] سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے والے بھولے بھالے انسانوں کے لئے [illegible] نسخے جن کے اجزا چند پیسوں کی لاگت سے بآسانی دستیاب ہو سکتے ہیں [illegible] استعمال سے تھوڑے دنوں میں ان کی کایا پلٹ جائیگی (۲۰) سو سال کی عمر تک جوان اور تندرست رہنے کا راز وغیرہ وغیرہ غرضیکہ ساری کتاب ہی اس قسم کی [illegible] سے بھری ہوئی ہے [illegible] ڈاکٹروں نے اپنی ساری [illegible] اور ساری [illegible] صرف کرکے [illegible] سوال کا حل کیا ہے کیا کوئی ایسی ترکیب ہے کہ باوجود بچے جننے کے بھی عورت کی خوبصورتی اور جوانی [illegible] قائم رہ سکے یعنی ۴۰-۵۰ سال کی عمر میں بھی وہ ۱۸-۲۰ سال کی جوان معلوم ہو۔ اس کی ...... چہرہ کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ [illegible] کو ہر ایک دنیا داری سے بڑی [illegible] اشتہار کے خلاف ایک بھی بات ثابت [illegible]

## حصہ دوم کے مضامین کی مختصر فہرست

ملاحظہ (۱) [illegible] (۲) [illegible] کی شناخت کرنے کی خصوص علامات (۳) نیک مردوں کی شناخت کرنے کی مخصوص علامات (۴) [illegible] (۵) دولہا دلہن کا انتخاب یعنی کس قسم کے مرد کو کس قسم کی عورت کے ساتھ شادی کرنا [illegible] (۶) [illegible] (۷) عورتوں کی خوبصورتی اور جوانی قائم رکھنے کے زریں اصول [illegible] (۸) [illegible] (۹) [illegible] (۱۰) [illegible] (۱۱) [illegible] (۱۲) [illegible] (۱۳) [illegible] (۱۴) [illegible] (۱۵) [illegible] (۱۶) [illegible] (۱۷) [illegible] (۱۸) [illegible] بازاری [illegible] غرضیکہ ساری کتاب [illegible] تمام بازاری کتابوں کو بھول جائیں گے [illegible]

## لوگ کیا کہتے ہیں؟

(۱) [illegible] (۲) [illegible] (۳) [illegible] (۴) [illegible]

منیجر رسالہ عامل کامل پوسٹ بکس ۱۳۲ - لاہور

مضمون اشتہار و ڈیزائن رجسٹری شدہ ہیں

# دسترخوان کی لذتیں

رجسٹرڈ

اس کتاب میں سینکڑوں قسم کے لذیذ اور دلپسند کھانے انواع و اقسام کی ترکاریاں، دالیں، پکوان، میٹھے و نمکین پلاؤ، حلوے، موہن بھوگ، چٹنیاں، اچار، مربے، رائتے اور قسم قسم کی مٹھائیاں بنانے کی ترکیبیں کچھ ایسے سیدھے سادے ڈھنگ سے عام فہم اردو میں لکھی گئی ہیں کہ کم لیاقت کی عورت بھی بغیر کسی دوسرے کی مدد کے ہر ایک چیز کو اپنے آپ تیار کر سکتی ہے جس عورت کے پاس یہ کتاب ہوگی اس کو میکے اور سسرال والے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے شوہر اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کے بغیر دوسرے کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام سمجھے گا اور ہمیشہ اس کا مطیع اور حلقہ بگوش ہو کر رہیگا۔ اس کتاب کو ایک ماہر رکابدار نے لکھا ہے۔ اس لئے یہ کوئی عام بازاری کتاب نہیں بلکہ نئی نئی قسم کے کھانے جو بادشاہی محلوں میں پکتے ہیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ [illegible] سو سے زائد کھانوں میں سے صرف چند ایک کی فہرست بطور نمونہ ملاحظہ ہو۔ ① ہر قسم کے مسالوں، سبزیوں، اناجوں، پھلوں اور چوپایوں کے دودھ کے خواص کس چیز کی کیا تاثیر ہے سب کچھ تفصیل کے ساتھ ② کیا عورت کا دودھ اکسیر حیات ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر کی بالکل نئی دریافت۔ اسی سال کا بڈھا بیوی کا دودھ پی کر کس طرح گبرو جوان بن گیا ③ آلو کا بھرتہ بنانے کی ترکیب۔ ایک نئی بیاہی بیوی نے اپنے شوہر کو کسی کے ہاتھ سے کس طرح نجات دلائی۔ آلو کے بھرتہ نے بازاری عورت کا دل کیسے موہ لیا ④ خربوزہ، کھیرا، پپیتا، شکرقندی، سنگھاڑا، امرود، بانس اور ببول کی پھلیوں کی ترکاری بنانے کی ترکیبیں۔ اتنی لذیذ کہ جو ایکبار چکھے گا۔ عمر بھر یاد رکھیگا ⑤ [illegible] دال بنانے کی ترکیب ⑥ دلپسند چاول بغیر پانی کے پکانے کی ترکیب۔ ادرک کی کھچڑی، جہانگیری کھچڑی اور آلو کی کھچڑی بنانے کی ترکیبیں ⑦ مختلف قسم کی لذیذ روٹیاں بنانے کی پچاس ترکیبیں مثلاً ڈبل روٹی، شیرمال روٹی، خمیری روٹی، روغنی روٹی، اور پھولی روٹی وغیرہ وغیرہ ⑧ لذیذ چٹنیاں بنانے کے بیسیوں طریقے مثلاً دہی اور ادرک کی چٹنی، آلو بخارا کی چٹنی، امرود کی چٹنی، انناس کی چٹنی، ٹماٹر کی چٹنی وغیرہ ⑨ انواع و اقسام کے رائتے بنانے کی ترکیبیں مثلاً کھیرے کا رائتہ، گاجر کا رائتہ، گلابی رائتہ، خربوزے کا رائتہ وغیرہ ⑩ ہر قسم کے اچار بنانے کی ترکیبیں یعنی ادرک کا اچار، کریلے کا مسالہ دار اچار، منقہ کا اچار، نارنگی کا اچار، [illegible] کے پتوں کا اچار وغیرہ ⑪ لذیذ مربے۔ ادرک کا مربہ، کیلے کا مربہ، پیٹھے کا مربہ، آلو کا مربہ وغیرہ ⑫ دودھ سے بہت سی نعمتیں تیار کرنیکی ترکیبیں [illegible] امرت [illegible] جسکے روزانہ استعمال سے انسان ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ کر سو سال تک [illegible] جوانی اور تندرستی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ باجرہ، چاول اور آلو کی کھیر پکانے کی ترکیبیں وغیرہ ⑬ موہن بھوگ حلوے۔ چنے کی دال کا حلوہ، ادرک کا حلوہ، پیٹھے کا حلوہ، الائچی کا حلوہ، انڈے کا حلوہ، بیسن کا حلوہ وغیرہ ⑭ [illegible] پاپڑ، کچوری، مولی کی پوری، دہی کی پوری، آلو کی پوری، مسالہ دار پاپڑ، میٹھے پاپڑ، خربوزہ کی کچوری، کریلے کی کچوری، گوار کی پھلی کی کچوری وغیرہ ⑮ بیسیوں قسم کی من موہن مٹھائیاں مثلاً نارنگی کی برفی، پیٹھے کی برفی، چنے کی دال کی برفی، آلو کی برفی، ملائی کی پوری بنانا، دہی کی پوری بنانا، چم چم، گلاب جامن، سندیش، پھلوں کے رس کی [illegible] بنانا وغیرہ ⑯ منہ میں پانی بھر لانے والی نمکین سوادی چاٹیں، امرود کی چاٹ، ککڑی کی چاٹ، امرود کی چاٹ، ناشپاتی کی چاٹ، شکرقندی [illegible] انناس کی چاٹیں وغیرہ [illegible] کتاب کیا ہے ہندوستانی کھانوں کا خزانہ ہے اور آپ کے گھر میں اس کی موجودگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دال بھاجی میں نمک کی۔ اگر آپ [illegible] ایک ہی قسم کی دال بھاجی کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں اور قدرت کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے پوری پوری لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ [illegible] تو اس کتاب کو منگوائیے۔ قیمت فی جلد ۱۲ آنے محصولڈاک ۵/

## [illegible]

آپ کی قسمت کا ستارہ [illegible]

[illegible]

قدم چومے گی۔ [illegible]

قیمت صرف [illegible] علاوہ محصولڈاک

## [illegible]

[illegible] بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک آپ سے ملاقات کرنا [illegible] اشارہ [illegible] کا مطالعہ کیجئے یہ معلوم کر کے آپ کی [illegible] سینکڑوں روپے [illegible] ترقی کر لی؟ ہر [illegible] فن اداکاری کی باقاعدہ تعلیم کہاں ملتی ہے؟ [illegible] مرد و عورتوں کو بطور [illegible] ہندوستان کے کونے کونے میں مشہور [illegible] قریباً تمام [illegible] کامیاب اور منافع بخش لائن ہے اور اسکو اختیار کرنے کیلئے کسی خاص محنت اور لیاقت کی بھی ضرورت نہیں۔ [illegible] تنخواہ حاصل کر رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں۔ کہ آپ فلمی دنیا میں کامیاب نہ ہوں۔ یہ کتاب آپ کی [illegible] کو چار چاند لگا [illegible] کر دے گی

ملنے کا پتہ [illegible] بک ڈپو [illegible] لاہور

# ہندوستان کے سنیاسیوں کی کرامتیں

جڑی بوٹیوں کی عجیب و غریب تاثیریں۔ مردے زندہ ہو گئے

زندگی میں ایسا موقع ان حضرات کو اکثر ملا ہوگا جن کا کوئی عزیز کسی سنگین اور پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہوا اور رائج الوقت حکیموں ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کے باوجود بھی صحت حاصل نہ ہو سکی۔ مگر پھر خوش قسمتی سے کسی سادھو مہاتما سے انکی مڈبھیڑ ہو گئی۔ اس نے مریض کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر ترس کھایا اور اپنی جھولی سے ایک جڑی نکال کر دی جس کے کھلانے سے مریض کو آناً فاناً شفائے کلی حاصل ہو گئی اور وہ بھلا چنگا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ سادھو سنیاسیوں کی جڑی بوٹیوں میں سچ مچ ایسی ہی تاثیریں ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ اس قسم کے فقیروں کی خدمت میں گزرا ہے اور جڑی بوٹی کے جس ماہر سنیاسی سے میری بھینٹ ہوئی اس نے پتہ نہیں میرے ستارہ قسمت کے زیر اثر یا کیوں اپنی عمر بھر کی کمائی کو اپنے سینے کے راز کو کمال کشادہ دلی کے ساتھ میرے حوالہ کر دیا۔ میں بھی خدا رسیدہ بزرگوں کی ان قیمتی امانتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ صرف خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں اور یہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائیگا۔ جب لاد چلیگا بنجارہ۔ اگر میرے ذریعہ سے کسی دم توڑتے ہوئے بدقسمت انسان کی زندگی بچ گئی تو میں اپنی کمائی اور اپنی زندگی کو کامیاب سمجھونگا۔ اس لئے اے لوگو! جو اس لفظ بلفظ سچے اشتہار کو پڑھو پہنچا دو اس خبر کو گھر گھر میں مستحق اور حاجتمند بیماروں کے پاس کہ انکے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اب بھی کچھ نہیں بگڑا جب تک سانس تب تک آس جڑی بوٹی کے سنیاسی علاج سے انکی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں اور وہ پرماتما کی کرپا سے ایکبار پھر زندگی اور جوانی کی بے انتہا نعمتوں سے لطف حاصل کر سکتے ہیں میرے پاس ایک بوٹی دافع بخار کی ہے بخار چاہے کس قسم کا اور کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو اس جڑی کی چھ سلائیاں تین تین دن کے وقفہ کے بعد آنکھوں میں لگانے سے دفع ہو جاتا ہے ایک بواسیر کی جڑی ہے اسکے اوپر چاندی کا خول بشکل انگوٹھی چڑھا کر انگلی میں پہنایا جاتا ہے۔ اور چند یوم میں بواسیر کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ایک اور مفرد چیز ہے جو کم و بیش ستر بیماریوں کے دفعیہ میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے کیسی عجیب بات ہے کہ وہ چیز دست آور ہے اور دست بند بھی کرتی ہے صرف اس کے استعمال کا طریقہ ہر مرض کیلئے جدا جدا ہے۔ نامردی کیلئے ایک بوٹی کے رس میں گولیاں تیار کی جاتی ہیں۔ انکی تاثیر یہ ہے کہ چالیس یوم میں بالکل گئے گزرے اور ناکارہ مرد کو قابل فخر مرد بلکہ شیر مرد بنا دیتی ہیں اس کے جذبات جوانی میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور دل میں لذائذ شباب کی امنگیں سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح ٹھاٹھیں مارنے لگتی ہیں۔ علاوہ ازیں جریان، احتلام، آتشک، سوزاک، دمہ، کھانسی، تپ دق، ذیابیطس یعنی پیشاب میں شکر کا آنا، ہسٹیریا (عورتوں میں غشی کے دورے) اور پاگل پن وغیرہ وغیرہ کے دفعیہ کی درجنوں بوٹیاں میرے پاس موجود ہیں اور ہر شخص اپنے مرض کی پوری کیفیت لکھ کر مشورہ اور تین دن کی دوائی مفت حاصل کر سکتا ہے۔ جڑی بوٹی کے علاج میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بالکل بے ضرر ہے اور اسمیں نقصان کا کوئی شائبہ نہیں۔ مشورہ کیلئے ایک ٹکٹ برائے جواب اور دوائی منگانے کی صورت میں ۵ پیسے کے ٹکٹ برائے محصول ڈاک آنا ضروری ہیں امیر لوگ جو اپنے اپنے شہر میں خیراتی ہسپتال کھولکر زندگی بھر مفت دوائی تقسیم کرنے کا عہد کریں۔ ان کو نسخے بتلانے میں بھی مجھے عار نہ ہوگا ۔

پتہ — ایڈیٹر رسالہ ہمت قلندر لاہور

**[illegible]** یا رب یہ کس کا جلوہ ؟ ان انکھڑیوں میں چھپ چھپ کے کون جھانکتا ہے ؟ حسن، خوبصورتی کیسے پیارے لفظ ہیں ؟ اور حسین اور خوبصورت چہرے دیکھ کر دل کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے ؟ اگر آپ کو حسن پرستی کا شوق ہے ؟ اور آپ اپنی فرصت کے اوقات اور رنگین گھنٹوں کو نظارہ بازی میں گذار کر ہستی کی اور روحانی حظ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی طبیعت ہمیشہ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ رہے اور غم بیماری یا موت آپ سے کوسوں دور رہے تو آج ہی خط لکھ کر یکصد حسین ترین عورتوں کا مجلد اور لاجواب البم صرف عہ کے وی۔ پی سے منگائیں۔ اس البم میں دنیا بھر کے مقابلہ حسن میں منتخب شدہ عورتوں کی منہ بولتی تصویریں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی حسین و جمیل فلم ایکٹرسوں کے اصلی اور رنگین فوٹو بھی ہیں جنکو آپ کئی مرتبہ اسٹیج پر دیکھ چکے ہیں مگر حسن و جمال کی ان پیاری پیاری اور سڈول بھولی صورتوں کو عالم تنہائی میں دیکھنے کی حسرت ابھی آپکے دل میں باقی ہے۔ مزید لطف یہ کہ ہر ایک پری جمال فلم ایکٹرس کی تصویر کے ساتھ ساتھ اسکے حالات زندگی خود اسی سے لکھوا کر چھاپ دئے گئے ہیں۔ نیز اس سے ملاقات کرنے اور خط لکھنے کے لئے اسکا مکمل پتہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ فوٹو بلاک کی یہ خوبصورت اور رنگین تصویریں اتنی جاذب نظر اور صاف ہیں کہ آپکو ایک نظر دیکھ کر اصل کا دھوکا ہوگا۔ آپ سمجھیں گے کہ ابھی جان ڈالنے کی کسر رہ گئی ہے یہ ارزانی نہیں سراسر لوٹ ہے کہ صرف عہ میں سو حسین عورتوں کا البم گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ پھر بھی آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ

ان شوخ حسینوں پہ جو مائل نہیں ہوتا ❋ کچھ اور بلا ہوتی ہے وہ دل نہیں ہوتا

[illegible] طوائف کی سرگذشت ۸؍ اسرار لندن عہ ایک حسین [illegible] عورت کی سرگذشت

## فن بوسہ بازی کے اسرار

(اردو میں پہلی مرتبہ) اس کتاب کو ایک امریکن سیاح نے تین صد حسین و جمیل عورتوں سے کورٹ شپ کرنے کے بعد اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر لکھا ہے۔ بوسہ بازی ایک باقاعدہ آرٹ ہے اور ایسے دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپکو معلوم ہوگا کہ جنس لطیف کی تسخیر کے لئے بوسہ ایک بے پناہ ہتھیار ہے۔ تیز تلوار کا اثر خالی جا سکتا ہے ممکن ہے مگر ایک کامل فن استاد کا مہذب بوسہ [illegible] اس کتاب میں بوسہ کے ذریعہ تالیف قلوب اور تسخیر کے سائنٹیفک طریقے لکھے گئے ہیں۔ اور بتلایا گیا ہے کہ شوہر کس طرح اپنی بیوی کو [illegible] ہیں۔ نیز ① بوسہ کی قسمیں ② محبت کی کشیدگی میں کس قسم کا بوسہ پتھر سے زیادہ سخت دل بیوی کو موم کی طرح نرم بنا سکتا ہے ③ بوسہ کس طریق سے لینا چاہئے۔ ④ کیا بوسہ لینے سے [illegible] میں ترقی ہوتی ہے ⑤ کیا نسوانی حسن و خوبصورتی کی افزائش کے لئے بوسہ ایک ضروری چیز ہے ؟ ⑥ کامیاب بوسے کیسے ہوتے ہیں ؟ ⑦ انگلستان، فرانس اور امریکہ میں بوسہ بازی کے کلب اور ان کے دلچسپ حالات وغیرہ قیمت ۸؍

عامل کامل بک ڈپو [illegible] لاہور

مصنف [illegible]

ایک اسی شخص محبت کے امتحان میں کبھی فیل نہ ہوگا

رجسٹری شدہ ہے

# کالا علم

# اور [illegible] معجزے

[illegible] ایک قلمی کتاب کا اردو ترجمہ جس کے تمام منتر اور [illegible] سلطان درویشوں کے سینہ بسینہ [illegible] فن عزائم کا پتہ [illegible] کوئی مبالغہ نہیں [illegible] ایک واقف کار شخص [illegible]

[illegible]

ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں ۱۹۳۵ء اور رسالہ موج زندگی باتصویر اور سچے حالات بتانے والا فالنامہ مفت دیا جائیگا

دیگر
نقلی
کتابوں
سے بچو

وہ لاثانی کتاب جس کے سامنے دنیا بھر کے تنتر منتر جنتر سیاستر کچھ حقیقت نہیں رکھتے

# تسخیر ہمزاد مخفیہ المعروف طلسم خورشید

وہ نادر و نایاب کتاب جس میں امریکہ۔ فرانس۔ یورپ۔ عرب۔ ایران۔ توران۔ یونان اور ہندوستان کے طلسم و شعبدہ یا منتر و جنتروں۔ تعویذوں۔ مسمریزم ہپناٹزم منتر تنتر جنتر۔ ودیا۔ کالا علم۔ علم تسخیر۔ علم قیافہ۔ علم سامدرک یعنی ہاتھ دیکھ کے قسمت بتانا۔ علم سرودھا۔ ناقص گرہ کے آپاسے وغیرہ وغیرہ۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی نہ حاصل ہونے والے۔ زمانہ قدیم سے یوگیوں۔ تیاگی سادھوؤں۔ جٹادھاری سنیاسیوں۔ کراماتی فقیروں اور درویشوں کے سینہ بسینہ چلے آنے والے مخفیہ راز و عملیات کا انمول خزانہ بھرا پڑا ہے۔ جسے پڑھ کر ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی ان عملوں کو سیدھ کر کے دنیا بھر کی دولت کا مالک بن سکتا ہے۔ منہ مانگی مراد دے سکتا ہے۔ جو چاہے بنا سکتا ہے۔ ہزاروں مریضوں کو پل بھر میں تندرست کر سکتا ہے۔ دشمن سے اکیلے مقابلہ کر کے مطیع کرنا۔ تمام خلق کو دیکھنا اور خود نظر نہ آنا۔ کئی آدمیوں کی خوراک ایک ہی برتن میں مہیا کرنا۔ آدمی کا گھوڑا۔ بلی۔ کتا۔ شیر۔ گیدڑ وغیرہ نظر آنا۔ جس عورت کو حمل نہ ٹھہرے اسے حمل کا ٹھہرنا۔ جن یا بھوت دور کرنا وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے مفید راز درج ہیں جو ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتے اور جن سے ہر مذہب کا آدمی پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یقیناً ایسی مفید اور کارآمد کتاب دنیا بھر کے کسی کتب خانہ میں نہیں چھپی۔ ہماری اس کتاب کو حاصل کر کے آپ دوسری اس قسم کی کتابوں کو دھوکہ کی ٹٹی بتا دیں گے۔ اس کتاب کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ چھٹی بار چھاپ کر بیچ رہے ہیں۔ آج ہی منگوا لو ورنہ ساتویں بار کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چھپائی نہایت صاف عمدہ جلد بندھی ہوئی۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ عہ محصولڈاک وغیرہ ۸ر الگ۔

**منگوانے کا پتہ: مینیجر اقبال ہندنگ ڈپو و اقبال عالم جنتری (۳۶ جی) رام گلی - لاہور (پنجاب)**

---

افسوس! کہ میری جوانی تباہ ہو رہی ہے

## سرجیون بوٹی طلسمی رس

پیارے! [illegible] اصلی [illegible] سرجیون بوٹی طلسمی رس [illegible] استعمال کر کے [illegible] اچھے ہو جائیں [illegible]

جسم میں از سر نو روح پھونک کر انسان کو بامراد بنا دیتی ہے اسکے چند دن کے استعمال سے ہی جوانی عود کر آتی ہے۔

اگر قوت باہ کی کمزوری۔ نامردی۔ جریان۔ احتلام کی شکایات ہوں یا خواہش ہو لیکن طاقت نہیں ہے۔ بیوی کے پاس جا کر شرمندگی سے لاجواب ہونا پڑتا ہے اور [illegible] تو آج ہی اصلی سرجیون بوٹی طلسمی رس منگوا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے تمام شکایتیں دور ہو کر دلی مراد پوری ہوگی۔ [illegible] ایک دو بوند روزانہ استعمال [illegible] اس کے استعمال میں کسی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں۔ [illegible] خدا کی قدرت کا تماشہ نظر آتا ہے۔ پوری طاقت والے انسان [illegible] قیمت [illegible] محصولڈاک [illegible]

**منگوانے کا پتہ: مینیجر کارخانہ اصلی سرجیون بوٹی طلسمی رس (۳۶ جی) راما سٹریٹ لاہور**

---

## یہ تینوں گھڑیاں مفت

انڈیپنڈنٹ قلم

تین شیشی عطر گلاب فیس۔ خاتمین [illegible] اصلی داد کی دوائی جو 12 گھنٹے میں داد کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ ایک شیشی روغن طلا جو ہر قسم کی نامردی کو دور کرتا ہے۔ ایک شیشی [illegible] جریان احتلام وغیرہ [illegible] امراض کو ۲۴ دن میں کاٹتی ہے۔ اور ایک عدد اصلی انڈیپنڈنٹ قلم۔ ان تمام اشیاء کی قیمت صرف تین روپے 3/ ہر ایک چیز کا پرچہ ترکیب استعمال ساتھ ملے گا۔ محصولڈاک وغیرہ کچھ نہیں اور ساتھ میں تین عدد سنہری [illegible] خوبصورت رسٹ واچ [illegible] نہیں ٹوٹتے اور خوبصورتی [illegible] ساتھ مفت دی جائینگی۔ ایسا سنہری موقع کہیں نہ ملے گا۔ گودام خالی کرنا مقصود ہے۔

**ملنے کا پتہ: رائل سٹورز [illegible] روڈ - لاہور - پنجاب**

---

## جشن سلور جوبلی ملک معظم شہنشاہ جارج پنجم کی تقریب کی خوشی میں عظیم الشان رعایتی اعلان اور انعام

نصف قیمت

نصف قیمت

اعلیٰ نمونہ کی قابل دید

سنہری گولڈن دستی گھڑی

[illegible] آج ہی کو فوراً منگا لیجئے

یہ گھڑی چھوٹے سائز کی نہایت خوبصورت اور سنٹر سیکنڈ ڈیزائن کی ہے۔ امیر رئیس۔ مرد عورت۔ دولہا دولھن سب کو یکساں پسند ہے۔ دیکھنے میں [illegible] روپے سے کم کی نہیں۔ [illegible] مشین بہت پختہ اور پائیدار۔ ڈائل کبھی خراب ہونے والا نہایت چمکدار [illegible] ۳۰ گھنٹہ کی ہے۔ [illegible] اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ [illegible] ولایت سے تازہ چالان آیا ہے۔ منگا کر ہاتھ میں لگایئے [illegible] دیکھنے والے خوش ہو جائیں گے۔ دوستو! اس جیسی پائیدار اور خوشنما سستی [illegible] نہیں مل سکتی۔ اس کی اصلی قیمت ۱۲ روپے ہے لیکن سلور جوبلی کی خوشی میں [illegible] نصف قیمت صرف [illegible] 6/ [illegible] فونٹین پن اور [illegible] انعام میں مفت ہمراہ دیا جاویگا۔ محصولڈاک بذمہ خریدار [illegible] ایک ساتھ منگانے پر محصولڈاک کی معافی [illegible]

**منگوانے کا پتہ: اقبال سوس واچ کمپنی (۳۶ جی) پارسن روڈ - لاہور (پنجاب)**

[illegible]

ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں سنہ ۱۹۳۶ء معہ رسالہ علم زندگی باتصویر اور سچے حالات بتانے والا فالنامہ مفت دیا جائے گا۔

# جنگ کا فیصلہ اور گھڑیوں کا پھر رعایتی اعلان

دوستو! ہم نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ دو سال کی جنگ کے بعد خاص شرائط پر گھڑیوں کی بھاری تعداد دینے کے لئے قیمتوں میں بھاری کمی کرا لی گئی ہے۔ جو کمی کرائی گئی تھی وہ سب کی سب خریداروں کو گھڑیوں کی قیمتوں پر رعایت کر دی گئی تھی۔ جس سے سنہ ۱۹۳۵ء میں ہمارے بیشمار مہربانوں نے ہم سے گھڑیاں منگوا کر بے حد نفع حاصل کیا تھا۔

چونکہ ولایت والے گھڑیوں کی قیمت سونے کے سکہ میں لیتے ہیں اور آجکل سونے کی قیمت ڈیوڑھی سے بھی زیادہ ہے اس لئے ولایتی کارخانہ داروں نے گھڑیوں کی قیمتیں اور بڑھا دی تھیں۔ اس حالت میں بڑھی ہوئی قیمتوں پر گھڑیاں خریدنا خریداروں کو بہت دشوار تھا۔ اس لئے ہم نے خریداروں کی اس تکلیف کو محسوس کر کے گھڑیوں کے ولایتی کارخانہ داروں سے قیمتوں میں کمی کرانے کے لئے پھر خط و کتابت شروع کر دی تھی۔ پورے ایک سال کے خط و کتابت کا نتیجہ یہ نکلا کہ سونے کا نرخ بڑھ جانے سے قیمتوں کا جو اضافہ ہوا تھا ایک بہت بڑی گھڑیوں کی تعداد منگوانے کی شرط پر وہ سب کا سب چھوڑ دیا گیا ہے۔ گویا کہ اس وقت ہم کو سابقہ قیمتوں پر ہی گھڑیاں پڑ رہی ہیں۔ چونکہ کم منافع پر زیادہ مال بیچ کر اپنی تجارت کو بڑھانا ہمارا اصول اول ہے۔ لہذا پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل سچا وقت دینے والی اعلیٰ درجہ کی مشینری اور جواہرات کی طرح چمکنے والے پرزوں سے آراستہ۔ نہایت ہی عمدہ خوبصورت مضبوط اصلی گھڑیاں جو سوائے ہمارے کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتیں۔ ذیل کے کم کئے ہوئے تقریباً لاگت کے داموں پر دی جا رہی ہیں۔ جن صاحبوں نے تجارت کے لئے یا خود استعمال کے لئے گھڑیاں منگوانی ہوں اپنے آرڈر جلد بھیج دیں۔

کئی صاحب جنہوں نے پچھلے سال ایک بار ہم سے مال منگوایا تھا بوجہ عمدگی مال فوراً فروخت ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کیونکہ سستی اور عمدہ گھڑیاں ہونے کی وجہ سے ہمارے گودام سے ایک دم بک گئی تھیں۔ اور دوبارہ طلب کرنے پر ہم نہیں بھیج سکے تھے۔ اس لئے اب کی بار زیادہ سے زیادہ جس قدر منگوا سکیں منگوا لیویں تاکہ پھر مایوس نہ ہونا پڑے۔

ہر ایک گھڑی پورا پورا امتحان اور اطمینان کر لینے کے بعد معہ مستقل گارنٹی پرچہ کے روانہ کی جاتی ہے۔ ناپسندیدگی کی صورت میں بغیر استعمال کئے واپس کرنے پر نقد قیمت واپس کر دی جاتی ہے۔ (نوٹ) ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اعلیٰ گھڑیاں سوائے ہمارے دوسری جگہ ہرگز ہرگز نہیں مل سکتیں۔ دوسرے اشتہاروں کی چکنی چپڑی عبارت پڑھ کر اپنا روپیہ مفت ضائع نہ کریں ← اور ہمیں بھیجے ہوئے آرڈر کے ذریعہ اصلی مال منگوا کر فائدہ اٹھائیں۔

ہر ایک پاکٹ یا رسٹ واچ کے ساتھ مکمل تصویر اور [illegible] منی آرڈر رسید آنے پر [illegible] خوشنما بکس مفت دیا جائے گا

ایک دم تین گھڑیاں خریدنے سے ایک گھڑی کی نقد قیمت اور [illegible] خریدار کو [illegible] مفت انعام

ہر ایک گھڑی کے ہمراہ فینسی چین وتسمہ اور سرمہ اکسیر چشم بالکل مفت دیا جاوے گا

[illegible] اور کلاک کا مکمل فہرست [illegible] خریدار کو [illegible]



اعلیٰ رسکوپ سسٹم پاکٹ لیور واچ گارنٹی ۱۰ سال [illegible] بازار [illegible] ۳۰ گھنٹے [illegible] سیکنڈ والی [illegible] ریڈیم ڈائل [illegible] چاندی کی [illegible] اول [illegible] دوم [illegible]

نہایت نفیس انگلش فیشن رسٹ واچ۔ ہمارے اکثر معزز خریداروں کو مضبوط فیشن ایبل اور کم قیمت گھڑی کی تلاش رہا کرتی تھی۔ چنانچہ ہم نے لیور چال کی سیکنڈ والی گھڑی نہایت مضبوط [illegible] تیار کرائی ہے۔ [illegible] ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں [illegible] کیس [illegible] قیمت [illegible] گارنٹی ۱۰ سال

نمبر ۲۱۰ گارنٹی ۵ سال

سنہری کیس پائدار مضبوط مشین قیمت صرف ۵/

نمبر ۲۱۱ گارنٹی ۵ سال

معہ سیکنڈ نکل کیس ریڈیم ڈائل بہت پائدار قیمت صرف 5/8

نمبر ۲۱۲ گارنٹی ۵ سال

گول کٹ معہ سیکنڈ مضبوط و قابل دید 5/8/0 قیمت صرف [illegible]

نمبر ۲۱۳ گارنٹی ۶ سال

نیکل کیس پائدار مشین معہ سیکنڈ قیمت صرف [illegible]

نمبر ۲۱۴ گارنٹی ۱۰ سال

قابل دید مضبوطی اور نفاست میں بے مثل سنہری کیس پائدار قیمت 6/8

نمبر ۲۱۵ گارنٹی ۱۰ سال

معہ سیکنڈ ریڈیم ڈائل ہوتے شیشے والی بہت لاجواب قیمت 6/8

اعلیٰ ریلوے لیور واچ انجن مارکہ گارنٹی [illegible] سال [illegible] 2/12 [illegible] 2/8 [illegible] 4/4

گولڈن چاندی نہایت خوشنما گارنٹی ۱۲ سال [illegible] 5/8 [illegible]



نوایجاد چینج پاکٹ لیور واچ گارنٹی [illegible] سال [illegible] درجہ اول [illegible] درجہ دوم [illegible]

آٹھ روزہ چابی کی پاکٹ واچ گارنٹی ۱۵ سال ڈائل خوبصورت [illegible] 9/8 [illegible] 13/8



نمبر ۲۲۵ لیور گول سکوائر مشین [illegible] کیس نہایت [illegible] ریڈیم [illegible] گارنٹی ۱۵ سال

نمبر ۲۵۰ گارنٹی ۱۰ سال سنہری کیس ریڈیم ڈائل [illegible] معہ سیکنڈ [illegible] بلا سیکنڈ [illegible]

نوایجاد چینج رسٹ واچ گارنٹی ۱۵ سال [illegible]



رسٹ واچ سنہری پرانی کلش جڑاؤ اور سونے کے [illegible] جڑاؤ زیور سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط [illegible] 6/8 [illegible] 7/- [illegible] 9/- و 10/- سادی بلا نگ 4/4 و 5/4 گارنٹی ۱۵ سال 6/4

منگوانے کا پتہ:- محمد اسمٰعیل اینڈ سنز ہول سیل ایجنٹس فری کرچینس - ابو محمد بلڈنگس ۶/۳ جی لاہور (پنجاب)

نفیس چین - تسمہ و بکس ہر گھڑی کے ہمراہ مفت

ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں ۱۹۳۶ء اور رسالہ موج زندگی باتصویر اور سچے حالات چھاپنے والا ماہنامہ مفت دیا جائے گا۔

# نیو پیٹنٹ رسٹلٹ واچیں کلائی کی نفیس اور نایاب گھڑی



گنڈے دار رسٹلٹ

گارنٹی ۲۰ سال

اس گھڑی کو نصیب ہوئی ہے اسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ جنٹلمین گھڑیاں لگانے موجود ہوں تو غالباً دو کی جیب میں تو جیبی گھڑیاں ہونگی اور باقی سب کے ہاتھوں میں یہ خوبصورت باریک تسمے والی نیو فیشن رسٹلٹ گھڑیاں ہی زیب دیتی ہونگی۔ کیونکہ اس گھڑی کی خوبصورتی اور دلکش شیپ نے پبلک کے دلوں پر ایسا اثر کیا ہے کہ جنٹلمین تو اس گھڑی کی موجودگی میں دوسرے نمونے کی گھڑی کو پسند نہیں کرتے۔ اور مستورات طلائی زیورات کے مقابلے میں اس گھڑی کو زیب تن کرنا فخر سمجھتی ہیں۔ اسکی مشین بڑھیا اور وقت بھی ہمیشہ صحیح رہتا ہے۔ قیمت عمدہ خوبصورت باریک تسمہ لگا ہوا کیس سفید پختہ ۸/- بڑھیا للعہ ریڈیم ڈائل ۱۰/- بڑھیا للعہ سنہری کیس للعہ بڑھیا [illegible] ریڈیم ڈائل [illegible] چاندی کا کیس [illegible] ریڈیم [illegible] ان داموں مفت ہے منگوا کر شوق پورا کریں۔

## اٹھ وزہ شیپ کی اصلی پائیدار بڑھیا پاکٹ لیور واچ



گارنٹی ۵ سال

یہ نفیس گھڑی مشین کی نفاست اور مضبوطی میں بے مثل ہے۔ ڈائل بہت ہی خوبصورت بیل بوٹے دار نظر فریب ہے۔ ایک بار کی خریدی ہوئی تمام عمر کام دیگی۔ سچا وقت دینے میں اپنی آپ نظیر ہے۔ سیکنڈ کے مقام پر بال کمانی کا پہیہ سامنے رقص کرتا ہوا بہت بھلا معلوم دیتا ہے اور نفیس کیس لیور ہے۔ مضبوطی۔ پائیداری خوشنمائی اور ارزانی کی وجہ سے مقبول عام ہے۔ قیمت مع خوشنما زنجیر صرف چار روپیہ بارہ آنہ للعہ R 4/12/-

چھ خریدنے پر ساتویں مفت ملے گی۔

## نہایت مضبوط شاک پروف پاکٹ لیور واچ



گارنٹی ۱۲ سال

تمام شوقین مزاج دفتروں کے بابو کلرک کالج اور پولیس کے جوان جو بالکل ٹھیک وقت پر اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا چاہتے ہیں اسکو رکھتے ہیں کیونکہ چوٹ لگنے پر بھی نہیں بگڑتی اسکا نام شاک پروف ہے پائیدار سچا وقت دینے والی قیمت بہت ہی کم صرف تین روپیہ بارہ آنہ ۳/۱۲

## سینٹر سیکنڈ پاکٹ لیور واچ



گارنٹی ۱۲ سال

اس گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی بیچ میں ہے اور گھومتی ہوئی ایسی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ ہر وقت دیکھنے کو دل چاہتا ہے ایک ہی بار نظر ڈالنے سے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ تک صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے خاص کر فوجی افسر [illegible] ڈاکٹروں اور سواریوں وغیرہ کے لئے نہایت کارآمد تحفہ ہے۔ قیمت صرف [illegible]

## اصلی سونے کی بڑھیا فینسی لیور نہایت خوشنما پائیدار رسٹ واچ



یہ سونے کی رسٹ واچیں نفیس وضع کی نہایت خوشنما اور مضبوط پائیدار ہیں انکی خوبی دیکھنے ہی پر منحصر ہے۔ خاص کر امیر رئیسوں اور بیگمات کے لئے نایاب تحفہ ہے۔ قیمت ۲۲/- و ۲۰/- و ۱۹/- رولڈ گولڈ کیس کی ۱۴/- و ۱۲/- گارنٹی ۲۰ سال

## حیرت انگیز نوایجاد ریڈیم لیور واچ



اسمیں جس قدر زیادہ اندھیرا ہو اتنی ہی خوبی پیدا ہوتی ہے [illegible] ایسی لیور چال خوشنما شیپ وقت کی پکی ڈائل پر اعلیٰ ریڈیم جس سے اندھیرے میں بجلی کی طرح چمک کر وقت بتاتی ہے شیشہ کی حفاظت کے لئے پردہ [illegible] ہیں۔ قیمت [illegible] بلا ریڈیم [illegible] آپکو اپنی کی رسٹ واچ [illegible]

## تقسیم انعامات

جنتری ۱۹۳۵ء کے اعلان کے مطابق جن اصحاب کو ۲۵۰/- روپیہ کے انعامات تقسیم کئے گئے ہیں۔ انکی فہرست الگ چھاپی گئی ہے جو صاحب فہرست انعام حاصل کنندگان دیکھنا چاہتے ہوں جوابی کارڈ یا ٹکٹ بھیجکر فہرست منگوا لیویں۔ [illegible] بیان [illegible] کی جاتی۔ نیاز مند منیجر

## نمبر ۲۱ خاص آرڈر سے بنوائی ہوئی قابل دید نیو فیشن رسٹ واچ



یہ رسٹ واچ نہایت ہی خوبصورت اور مضبوط ہے برسوں تک کام دینے والی ہر وقت صحیح بتانے والی ہے۔ نیو فیشن فینسی نکل بلیو کیس کی یہ فیشن رسٹ واچ خوبصورت مرد سب کو برابر زیب دیتی ہے [illegible] مفت دیا جاتا ہے سستی اور نفیس گھڑی کی اگر ضرورت ہو تو فوراً منگائیں قیمت معہ [illegible] ریڈیم [illegible] گارنٹی ۱۲ سال

## ایسا پائیدار عجائبات ٹائم پیس کلاک



[illegible]

## بڑھیا مضبوط ٹائم پیس





گارنٹی ۱۵ سال

نہایت مضبوط [illegible] وقت میں ایک منٹ کا فرق نہیں ہوتا [illegible] الارم [illegible] ۲/۱۲ نمبر ۱ بڑھیا [illegible] ریڈیم [illegible] نمبر ۲ [illegible] ۔ امپیریل ٹائم پیس [illegible]

## بیاہ شادی اور تحفہ تحائف میں دینے والی سنہری فینسی رسٹ واچیں معہ تسمہ



قیمت ہر ایک کی [illegible]

نمبر ۱ چابی ۲۴ گھنٹہ نمبر ۲ گارنٹی ۱۰ سال نمبر ۳ [illegible] ۶/۱۲

منگوانے کا پتہ:- چشمہ اسلام برادرز ایجنٹس سول ملٹری واچ مرچنٹس نمبر ۴۳ پی ۲ اوجلہ بلڈنگس لاہور (پنجاب)

مفت۔ ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں ۱۹۳۵ء و مع رسالہ موج زندگی باتصویر اور بچے کے حالات بتانے والا فالنامہ مفت دیا جائے گا۔

# صنعت و حرفت طب قانون انجینئری موٹر ڈرائیوری سکھانے والی اور ولی اللہ بنانے والی مقبول عام کتابیں

جن کی دھوم چار دانگ عالم میں مچ چکی ہے اور جن سے کروڑہا اصحاب فائدہ اٹھا کر مالا مال بن چکے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ان سے محروم ہیں تو آج ہی منگا کر دولت مند۔ سیٹھ ساہوکار بن جائیے۔ یہ کتابیں ہر شخص کے کارآمد اور مفید مطلب ہیں۔ قیمت بھی زیادہ نہیں۔ محصولڈاک ہر کتاب کا ذمہ خریدار ہوگا۔

**بجلی کا کارخانہ** باتصویر مکمل دو حصے

اس کتاب میں ہر قسم کی بجلی کی مشینیں تصویروں کے [illegible] انگریزی [illegible] [illegible] قیمت [illegible]

**ایک ہزار پیشہ اور ہنر** یکجا

اس کتاب کا نام [illegible] ہزار ہنر [illegible] درج ہیں [illegible] قیمت ایک روپیہ چار آنہ

**ہیجان مستی کا پیارہ**

[illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

**خفیہ حکیم** مردوں اور عورتوں کے تمام پوشیدہ امراض

اسباب اور علاج [illegible] بے اولادی [illegible] قیمت [illegible]

**قانون عشرت**

ایک کتاب ہے جس کی تلاش مدت سے ہر ایک [illegible] قیمت ایک روپیہ

**طلسمی عجائب خانہ**

اس میں طلسم درج ہیں [illegible] قیمت [illegible]

**جامع حکمت** مجرب نسخہ جات کا مجموعہ

[illegible] قیمت [illegible]

**جادو کے منتر**

جنتر منتر تعویذ نقش و [illegible] درج ہیں [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

عمل اتارنے کی قیمت [illegible]

بنگال کا جادو [illegible]

بنگال کا اصل جادو ۶

[illegible] روحوں سے ملاقات ۱۲

مکمل صابون سازی [illegible]

**مکمل موٹرکار ڈرائیوری**

موٹر سائیکل باتصویر۔ اس کتاب سے [illegible] موٹر چلانے سیکھنے اور [illegible] مرمت کرنے کی ترکیبیں درج ہیں [illegible] قیمت دو روپیہ [illegible]

**لائق بیرسٹر** قانون کی لاجواب اور قابل قدر کتاب

[illegible] قیمت [illegible]

**چشمہ جوش** حصہ اول

اس میں جوش کے تمام راز [illegible] قیمت [illegible]

**مکمل خزانہ کیمیا** ہر دو حصے مجلد

[illegible] سونا چاندی [illegible]

**انگریزی مٹھائیوں کا کارخانہ**

ہر قسم کی انگریزی مٹھائیاں بنانے والی کتاب ہے قیمت مجلد [illegible]

**روح کرامات** باتصویر مجلد

اس میں تمام کرامات اور [illegible] کے مکمل حالات [illegible] قیمت مجلد [illegible]

**مکمل فن گھڑی سازی** باتصویر

اس میں گھڑیوں کے ہر قسم کے نقص دور کرنا [illegible] قیمت [illegible]

**سائیکل چھتری** [illegible]

ہر قسم کی مرمت [illegible] فی جلد صرف ایک روپیہ [illegible]

ناول [illegible] صرف [illegible]

**مشکل کشا** یعنی جادو پنت کا کام

کرنے والی بے خطا کتاب ہے۔ [illegible] دشمن کو زیر کرنا یا افسر کو مہربان کرنا معمولی بات ہے [illegible] قیمت فی جلد دو روپیہ [illegible]

**عملیات ہمزاد طلسمی** اس میں ہر قسم کے عملیات [illegible] قیمت [illegible]

**اردو لغات** [illegible]

[illegible] اس میں اردو الفاظ [illegible] قیمت [illegible] ایک روپیہ [illegible]

**چھ سو اکاسی بیوپار**

[illegible] قیمت ایک روپیہ [illegible]

**ہر قسم کی بیٹریاں** بنانے کی مکمل اور باتصویر مجلد کتاب

اس میں ہر قسم کی تر اور خشک بیٹریاں بنانے کی ترکیبیں درج ہیں [illegible] قیمت فی جلد دو روپیہ [illegible]

**انجن آف دی بکس** [illegible]

ہر قسم کی [illegible] بنانے کے [illegible] اس کتاب میں [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ [illegible]

**مکمل رنگ سازی**

[illegible] ہندوستان میں [illegible] اس کتاب میں [illegible] کارخانہ [illegible] قیمت مجلد دو روپیہ [illegible]

**سیکرٹ آف انگلش میڈیسن**

مشہور انگریزی پیٹنٹ ادویات [illegible] لاکھوں روپیہ کی فروخت ہوتی ہیں [illegible] قیمت ڈھائی روپیہ [illegible]

**مکمل مجرب طب حکمت** باتصویر

حکمت کی تمام کتابوں کا [illegible] ہر ایک مرض کا علاج [illegible] قیمت [illegible]

**مجموعۃ الطب** مجلد

[illegible] یونانی و ویدک [illegible] ڈاکٹری [illegible] تمام امراض کے علاج بالتشریح [illegible] قیمت دو روپیہ [illegible]

**مکمل گنجینہ حکمت** [illegible]

[illegible] مشہور عام کتاب [illegible] قیمت مجلد دو روپیہ [illegible]

**مکمل آئل انجن بک** باتصویر

ہر قسم کے آئل انجنوں کو [illegible] قیمت مجلد ایک روپیہ [illegible]

**بائلر انجن بک** باتصویر

اس میں ہر قسم کے انجنوں اور پرزوں کی تصویریں [illegible] قیمت [illegible] دو روپیہ [illegible]

**ایگریکلچر سٹیم فائر انجن** باتصویر

اس میں ایگریکلچر و آبپاشی و کھیتی کے کام [illegible] انجنوں کے حالات درج ہیں۔ قیمت صرف [illegible] آنے

**مصر کا جادو** اصلی کتاب

مصر کے مشہور و معروف جادو کی اصلی کتاب [illegible] قیمت [illegible]

**ہندسی کا گول گپا** مکمل

[illegible] قیمت [illegible]

**لوکوموٹو انجن** باتصویر ریلوے لائن پر

[illegible] انجنوں کے تمام حالات بالتشریح اور ڈرائیور [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ

**ہیرن انجن بک** باتصویر

[illegible] انجنوں کی مکمل اور باتصویر قابل دید کتاب ہے قیمت مجلد ایک روپیہ

**لینڈ انجن بک** باتصویر

اس میں تمام قسم کے [illegible] انجنوں کے بالتشریح حالات درج ہیں قیمت فی جلد صرف [illegible]

**ہائی سپیڈ انجن بک** باتصویر

اس میں تمام قسم کے تیز رفتار انجنوں کے مکمل حالات بمع تشریح سوالات و جوابات درج ہیں قیمت صرف چھ آنے

**مکمل انجینئرنگ گائیڈ** یار رہنما

انجن ڈرائیوری حصہ اول باتصویر ہر قسم کے انجنوں کی بناوٹ اور ان کے پرزوں کے مکمل حالات [illegible] تمام [illegible] ہر شخص انجن ڈرائیوری بآسانی سیکھ سکتا ہے [illegible] قیمت تین روپیہ

**مکمل انجینئرنگ گائیڈ** حصہ دوم

اس میں سٹیم تیار کرکے کام لینا اور تمام قسم کے سٹیم انجنوں کو فٹ کرنا۔ پرزوں کی مرمت وغیرہ مفصل حالات درج ہیں قیمت مجلد دو روپیہ چار آنہ [illegible] حصہ اول و دوم ایک ساتھ منگانے سے صرف [illegible]

ملنے کا پتہ منیجر اقبال ہنڈ بک ڈپو و اقبال عالم جنتری (۳۶ بی) اہوجہ بلڈنگ۔ رام گلی۔ لاہور (پنجاب)

[illegible] ان کے علاوہ اور ہر قسم کی درسی و ادبی کتابیں آرڈر آنے پر روانہ ہو سکتی ہیں۔

غلط ثابت کرنے پر ہزار روپیہ انعام 1000/- ساتویں بار چھپ کر بک رہا ہے جلد منگوالیں

دنیا میں سب سے بہتر۔ لاثانی
دلفریب۔ قابل دید اور بہت ہی نایاب 200
ہفت رنگی تصاویر
اور آٹھ ہاف ٹون فوٹوز
رنگین بلاکس اور 354 بڑے صفحات والا
باتصویر
کوک شاستر
مکمل ۳ حصہ
ہمارے کوک شاستر کے بڑے ۳۵۴ صفحے ہیں
قابل دید لائق خرید
سب سے نرالا اصلی پرانا چکرورتی مکمل
کشمیری
بادشاہ اور امیر غریب سب کیلئے قابل
باربار پڑھنے قابل
ہر شخص کیلئے مفید مطلب
ہوشیار نقلی چھوٹی کوک شاستر کی خریداری سے بچیں

ترجمان کوک پنڈت وزیر اعظم ریاست کشمیر کی اصلی بیاض کا مع انکی سوانحعمری کے صحیح عام فہم ترجمہ

اس کوک شاستر کو پڑھنے سے وہ عجیب باتیں معلوم ہونگی جو عورتوں اور مردوں کے متعلق جاننی ضروری اور مفید ہیں۔ نگمی تصویروں اور چند صفحوں کے قصے کہانیوں والے کوک شاستر دیکھکر تو آپ اپنی دولت کھو چکے۔ آئیں اب ہم اپنے خاص ہفت رنگی تصویروں والے اصلی کوک پنڈت کے بنائے ہوئے کوک شاستر کی زیارت کرائیں جس میں دنیا بھر کے باکمال مصوروں کی کاریگری کے منہ بولتے فوٹو۔ عورتوں اور مردوں کی خاص حالتوں کی پوری اور مفصل تصویروں کے نمونے جنکے لئے آپ مدت سے ترس رہے تھے اور ہزاروں روپے خرچ کرنے پر بھی آپ کو نہیں ملیں۔ اور وہ راز جنکے لئے کوک پنڈت نے تمام خلق کو گرویدہ بنا رکھا تھا ہمارے اس کوک شاستر میں درج ہیں۔ ہمارا یہ وہ کوک شاستر ہے جسکی ہر وقت ہر شخص کو ضرورت ہے۔ فہرست مضامین حسب ذیل ہے۔

(۱) کوک شاستر کیوں مشہور ہے کیا ارکس عہد میں بنا۔ اسکا اثر موجد کون تھا اور کیونکر بنایا گیا۔
(۲) برہمچریہ اور اسکے فائدے۔ سنگ کے قواعد بازاری و غیر عورت اور جلق کے نقصانات۔
(۳) بیوہ عورتوں کو ہدایات۔
(۴) پدمنی۔ چترنی۔ سنکھنی عورتوں کے بیانات
(۵) کن کن عورتوں سے ... عورتوں کو خراب کرنیکے علاج
(۶) شوہر پرست عورتوں کی خاصیتیں۔
(۷) حیض کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت۔ ماہواری کے ٹھیک وقت پر نہ آنے کے علاج۔ اچھے اور برے خون کی پہچان۔ ایام ماہواری سے پاک و صاف ہو کر کیا کرنا چاہئے۔ آغاز حیض ایام کا بحوم حمل کے مہینے کا نتیجہ۔
(۸) قدرتی قانون کا وقت۔
(۹) قرار حمل۔ حمل کا دن معلوم کرنا۔
(۱۰) اپنی مرضی سے لڑکا لڑکی پیدا کرنے کے طریقے
(۱۱) حاملہ کی پہچان۔ حاملہ کے خاص نشانات حمل میں لڑکا لڑکی اور جڑواں کی پہچان۔
(۱۲) مطابق کام شاستر شناخت حمل۔
(۱۳) حمل کے بعد عورت کو کیا کرنا چاہئے۔
(۱۴) اولاد کی غلط قدرتی قانون کا وقت۔
(۱۵) انسان کے دل کو کھینچنے والی استوری اور اس کے نشانات۔
(۱۶) چاند کے حساب سے عورتوں کی خواہشات کا پورا حال اور آسنوں کا کلی بیان۔
(۱۷) سولہ برس تک رہنے کے اصول کہ کیسا ہونا چاہئے
(۱۸) اگر کھا دان کا طریقہ۔ فلسفہ نیند۔ باسی پانی پینے کے فوائد۔
(۱۹) ہمیشہ عورتوں کے اوصاف۔ عورتوں کی چال ڈھال دیکھکر سب حال دریافت کرنا۔
(۲۰) بہ لحاظ کام شاستر عورتوں کے اوصاف۔ پریم بیماری۔ عورت کا وبہ۔ موہنی منتر۔ خوشی بڑھانے کے طریقے۔ بیان شادی۔
(۲۱) عورت کا خاندان کیسا ہونا چاہئے
(۲۲) نزدیک اور دور شادی کرنے کے فوائد
(۲۳) شادی کس عمر میں کرنی چاہئے۔ عورت کی عمر بیاہ کے لائق جوڑہ۔
(۲۴) بیان حمل۔ حمل کی شکل۔
(۲۵) ماہ اول سے لیکر بچہ پیدا ہونے تک کے حمل امراض اور انکا مفصل تیر بہدف علاج
(۲۶) پیدائش کا دن اور وقت معلوم کرنیکا صحیح نقشہ
(۲۷) بچہ پیدا ہونے کے دن اور وقت سے بچہ کی کل زندگی کے کل حالات کا نقشہ جس سے فوراً معلوم ہوگا کہ بچہ کتنی عمر کا ہوگا اور والدین کی کیا خدمت کریگا غریب ہوگا یا امیر [illegible] علاج بذریعہ جوتش
(۲۸) پرورش اطفال مع تشریح امراض و علاج۔
(۲۹) بچہ [illegible] منتر جنتر [illegible] تو کیا کرنا چاہئے۔
(۳۰) پردہ کی ہدایات۔ سوکن [illegible]
(۳۱) سنگار کی ادویات۔ بال صاف کرنے کے [illegible] بال اڑانے کے پوڈر۔ حسن افزا ادویات۔ ابٹن
(۳۲) حاملہ کے بخار۔ استقاط و جریان الرحم سیلان الرحم [illegible] مکمل علاج [illegible]
عفونت [illegible] کا منتر بنانے کی ترکیبیں۔ ہاتھ پاؤں کو ملائم رکھنے کے نسخے۔ دودھ بڑھانے کی ادویات
(۳۳) حمل سے لڑکا ہی ہو۔
(۳۴) ہر قسم کی بانجھ عورت کے علاج۔ حیض کی تکلیف دور کرنے کے طریقے۔
(۳۵) سپاری پاک۔ سفید بال کا علاج۔
(۳۶) چاروں قسم کے مرد ششک۔ مرگ۔ اشو۔ برکھبہ کی شناخت اور چال [illegible] کی پہچان
(۳۷) جریان کی تشریح و علاج۔ علاج نامردی احتلام [illegible] آتشک سوزاک وغیرہ تمام مہلک امراض مرداں کا مکمل علاج۔
(۳۸) ہر قسم کے کشتہ جات کے مکمل طریقے۔
(۳۹) کسی کی شادی مرضی مطابق کروانے کے منتر اور مفصل بیان۔
(۴۰) علاوہ ازیں دلچسپ [illegible] کوک شاستر کئی قسم کے عجیب و غریب حالات جن کا بیان کرنا مناسب نہیں درج ہیں۔

خوب یاد رکھیں کہ وہ یہی اصلی کوک شاستر ہے جسکے لئے مدت سے آپکی آنکھ ترس رہی تھی۔ اگر اصلی کوک شاستر کی خواہش ہے تو پتہ ذیل سے ہی مل سکتا ہے کیونکہ اس میں ضروریات کے مطابق ۲۰۸ ہفت رنگی دلچسپ تصویریں موجود ہیں جن کے آپ خواہشمند ہیں۔ اس لئے اسکے منگوا لینے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ کریں (۱) **قیمت** ۳ رنگے فوٹو ٹائٹل بلاک والی جلد صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ علاوہ محصول (۲) **قیمت** ۳ رنگے فوٹو ٹائٹل بلاک والی بڑھیا فینسی پختہ سنہری جلد سے سجا ہوا اور بڑھیا کاغذ دو روپیہ عہ (۳) پختہ ریشمی جلد دو روپیہ آٹھ آنہ علاوہ ہندی اور گورمکھی الگ الگ چھپی ہوئی قیمت دو روپیہ عہ پختہ ریشمی جلد ڈھائی روپیہ علاوہ محصولڈاک ہر کتاب کا ۸ر بذمہ خریدار۔

**منگوانے کا پتہ مینیجر اقبال ہند بک ڈپو واقبال عالم [illegible] لاہور (پنجاب)**

اصلی چکرورتی کوک شاستر کی دوسرے کو چھاپنے کا اختیار نہیں جو کوئی چکرورتی کے نام سے دوسرا چھوٹا مضمون کا کوک شاستر دینے کا دھوکہ دے منگوانے سے پہلے اس سے پوچھو کہ تمہاری کتاب میں کتنی فوٹو اور تصویریں ہیں [illegible]

نقالوں نے ہماری طاقت کی طلسماتی سنہری گولیوں پر سنیاسی دنیوی کی شہرت دیکھ کر نقالوں نے جو نہ حکیم نہ وید نہ دوا فروش ہیں۔ نقلیں شروع کر دی ہیں ان سے بچو۔ نیم حکیم خطرہ جان والی مثال کے مصداق نہ بنو

[illegible]

نشست نامرد کو جوانمرد اور مرد کو قوی ہیکل بنانیوالی

# طاقت کی طلسماتی سنہری گولیاں

مجرب تیر بہدف — زود اثر — بلا ضرر

ان طلسماتی سنہری گولیوں کے استعمال سے مردہ قوت لوٹ آتی ہے۔ کمزور اور گیا گذرا انسان لوہے کی لاٹھ کی مانند طاقتور ہو جاتا ہے اور ہوش مردمی ہمیشہ کے لئے عود کر آتی ہے اور تمام قوائے روحانی۔ جسمانی اور اعصابی میں غیر معمولی تحریک پیدا ہوتی ہے سستی۔ کاہلی۔ گھبراہٹ۔ سر درد۔ اور منی کی تمام بیماریاں۔ جریان۔ احتلام۔ رقت منی۔ خواب میں ناپاکی وغیرہ ایک ہی شیشی کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو خود ہی تباہ کر بیٹھے ہوں اور درد سر۔ درد کمر۔ دل کی دھڑکن۔ دھات کے گرنے اور دیگر تمام ایسی تکلیفوں سے نجات چاہتے ہوں تو ان طلسماتی سنہری گولیوں کو ضرور استعمال کریں۔ کیونکہ یہ گولیاں ایسے تمام مریضوں کے لئے اکسیر اعظم ثابت ہوتی ہیں اور منی کو بھاری تعداد میں پیدا کرتی ہیں۔ غرضیکہ جن باتوں کے لکھنے اور بتانے میں آپ جھجکتے ہیں یہ گولیاں ان کا نسخہ تیر بہدف علاج ہیں اور تمام جلدی امراض کو دور کر کے طبیعت کو بشاش اور چست بناتی ہیں۔ گویا خشک درخت میں آبحیات کا پانی پہنچا دیگا۔ قیمت فی شیشی ۲۵ گولیاں صرف ایک روپیہ محصولڈاک پیکنگ وغیرہ فیس منی آرڈر کل عہ تین شیشی مع محصولڈاک وغیرہ سے [illegible] چھ شیشی مع محصولڈاک وغیرہ صرف [illegible]

# سرمہ سنیاسی کو

ہمیشہ آنکھوں میں لگائیے

یہ سرمہ ایک سنیاسی صاحب سے بصرف زر کثیر حاصل کیا ہے جسکی ہزاروں پڑیاں مفت بانٹنے سے مفید اور بیش بہا تحفہ ثابت ہوا ہے۔ جو صرف جنگلی جڑی بوٹیوں کی ملاوٹ اور سرمہ کو قاعدہ کے مطابق پاک صاف کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر اسے تندرست آنکھوں والے لگا دیں تو آنکھ کی کوئی بیماری نہ ہو۔ جو لوگ دماغی محنت اور پڑھنے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے سے عینک لگاتے ہیں ان کے لئے یہ سرمہ اکسیر ثابت ہوا ہے۔ اور خاصکر تمام امراض چشم ضعف بصارت۔ دھند۔ جالا۔ غبار۔ پڑوال۔ نا خونہ۔ خارش۔ پھولا۔ سرخی چشم آنکھوں سے پانی بہتے رہنا۔ تاریکی چشم وغیرہ۔ آنکھوں کے امراض دور کر کے دن کو تارے دکھاتا ہے۔ طلباء اور دماغی کام کرنے والے لگا دیں تو عینک کی عادت چھوٹ جائے۔ جو عینک لگانے کے عادی نہیں انکو عینک کی ضرورت نہ پڑیگی۔ یہ سرمہ ہر فرد بشر کی پاکٹ میں ہر وقت رہنا چاہئیے۔ قیمت دو ماشہ والی شیشی صرف دو آنہ ۱۲ ماشہ [illegible] محصولڈاک وغیرہ فیس منی آرڈر کل [illegible] ماشہ کی شیشی [illegible] محصولڈاک وغیرہ۔ کل [illegible] ڈھائی تولہ یا زیادہ سے خریدار کو محصول ڈاک معاف

# کیا اب موت کی عام الٹی پڑیگی!

نہیں۔ ہرگز نہیں

خدا کے فضل سے مایوس مت ہو اور زور من اوشدھالیہ سے طلسمی روح حیات امرتی خرید کر استعمال کرو۔ اور قدرت خدا کا تماشہ دیکھو۔ تمام اندرونی و بیرونی بیماریاں۔ مثلاً سر۔ آنکھ۔ پیٹ اور کان کا درد۔ بہرہ پن۔ زکام۔ کھانسی۔ درد دانت۔ ہیضہ۔ بدہضمی۔ پیچش۔ درد گردہ۔ بواسیر۔ آتشک۔ سوزاک جریان۔ نامردی۔ حیض کی خرابی۔ بخار۔ پلیگ۔ نمونیا۔ تپ دق دق۔ پھوڑے پھنسیاں۔ بچھو۔ سانپ وغیرہ کا ڈنک وغیرہ وغیرہ تمام امراض پر صرف یہ ایک ہی دوائی آبحیات کا کام دیتی ہے۔ عقلمند وہ ہے جو ہر وقت اسکو پاس رکھتا ہے۔ رعایتی قیمت بڑی شیشی ایک روپیہ نمونہ کی شیشی ۸ مع محصولڈاک وغیرہ ۸

# سانڈے کا تیل

سانڈے کی اگر کمر بھی توڑ دی جائے پھر بھی وہ ویسے کا ویسا ہی اکڑا رہتا ہے۔ ناکارہ عضو مخصوص پر اگر اس تیل کی مالش کر دی جاوے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ فی شیشی عہ محصولڈاک [illegible]

# آتشک کی گولیاں

آتشک وہ خبیث مرض ہے

کہ بیماری پشت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس لئے اس مرض کو چھپانا نہ چاہئیے۔ بیماری یہ دوا آتشک کے مادہ کو نکال کر مرض کو جڑ سے دور کرتی ہے۔ [illegible] [illegible] محصول [illegible]

# جریان الرحم

یعنی ان تمام امراض میں مفید ہے جو عورتوں کے رحم سے تعلق رکھتے ہیں۔

رطوبت کا گرنا جسکو پردر وغیرہ کہتے ہیں۔ اسی سے دل کا دھڑکنا۔ سر چکرانا اور درد کرنا۔ درد کمر۔ ہونٹ خشک ہونا۔ بھوک نہ لگنا۔ غشی کا ہونا۔ سستی کا بڑھنا۔ حرارت کا رہنا۔ بلکہ آخر یہ تپ دق ہو جاتا ہے۔ ہماری اس مجرب دوا سے یہ مرض قطعی جاتا رہتا ہے۔ قیمت سات ہفتہ کی دوا ۱۲ محصولڈاک [illegible]

# پساری پاک

مستورات کے پوشیدہ امراض کا خاص علاج ہے

مثلاً حیض کا درد سے آنا۔ سفید رطوبت کا جاری رہنا۔ درد کمر۔ درد سر۔ درد اعضاء۔ بھوک نہ لگنا۔ حدت زیادہ کمزوری۔ حمل نہ ٹھہرنا۔ اولاد سے مایوسی۔ کل شکایات کو دور کر کے تندرست بنا دیگا۔ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ نہایت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہے۔ ۲۰ دن کی خوراک عہ محصول ۸ دو ڈبی پانچ محصولڈاک ۱۲

# [illegible] کی دوا

[illegible] بیماری کو دور کر کے ایک ہفتہ میں [illegible] قیمت [illegible] محصول [illegible]

# افیم چھڑانے کی گولیاں

خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی غرض افیم کھانا ہو تو ان گولیوں کو استعمال کرائیے اس سے بلا تکلیف افیم کھانے کی عادت چھوٹ جائیگی قیمت ۵۰ گولیوں کی عہ محصولڈاک [illegible]

# [illegible] گولیاں

یہ گولیاں امیروں کو لطف زندگی اٹھانے اور ناکارہ لوگوں کے لئے تیار کی ہیں جو کہ دنیاوی خواہشات کو ترستے ہوں۔ یہ جسم میں بجلی کی مانند طاقت پیدا کر دیتی ہیں ۲۵ گولیاں عہ محصولڈاک عہ

# سر گنج کی دوا

یہ دوا گنج کو دور کر کے بال پیدا کرتی ہے قیمت ۱۲ محصولڈاک [illegible]

منگوانے کا پتہ — پرو پرائیٹر ورمن اوشدھالیہ۔ پارسن روڈ (۳۶ جی) لاہور (پنجاب)

دھوکہ نہ کھائیں۔ دیگر اشتہار دہندگان کیمرہ کے ہمراہ سات یا آٹھ میوٹ گھڑیاں مفت دے رہے ہیں جو صرف بچوں کی ہوتی ہیں۔ اور بازار میں ایک آنہ درجن بکتی ہیں۔ خبردار دھوکہ نہ کھائیں



## اعلیٰ کوالٹی کی سینما بائیسکوپ اصلی مشین

یہ وہی بڑھیا مشین ہے جسکا تماشہ رات کو دکھا کر لوگ مالامال ہو جاتے ہیں۔ فلم چڑھا کر مشین چلاؤ تو چلتی پھرتی ہوئی تصویریں یعنی ہر قسم کے ڈرامے۔ دریا پہاڑ۔ جانور۔ حسین لیڈیوں کی تصویریں یا مشہور نظارے ہیں اور فوجی نظارے بائیسکوپ کمپنی کی طرح تماشہ کرتی ہوئی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ معاش اور تفریح اسمیں دونوں موجود ہیں جس سے بے روزگار لوگ تھوڑے سرمایہ سے بہت کما سکتے ہیں۔ قیمت چھوٹی مشین معہ ایک فلم صرف 5/- بڑھیا معہ ایک رنگدار فلم و تین عدد سلائیڈ 7/- مجھولی معہ ایک رنگدار فلم و سات تصاویر 11/- بڑھیا معہ ایک بڑی رنگدار فلم اور نو عدد بڑی بڑی تصاویر 15/- بڑی مشین معہ دو عدد فلم اور ۳۰ عدد تصویر دل سے بھرے ہوئے سلائیڈ قیمت 21/- ایسی ہی اور بڑی 25/- و 28/- درجہ اعلیٰ 30/-

## چلتی پھرتی تصویروں والا پاکٹ بائیسکوپ

جب دل چاہے پاکٹ سے نکال کر خود بھی تماشہ دیکھئے اور دوستوں کو بھی دکھائیے۔ لیمپ اور پردہ کی ضرورت نہیں۔ رعایتی قیمت ۱۲ ؍

## مانند سونے کے چمکیل سنہرے کڑے

پھولدار کڑے مانند سونے کے

ہیرے دار کڑے مانند سونے کے

بہو بیٹیوں کی کلائی میں بڑا لطف دیتے ہیں

## سنہرا انوکھا ہار

[illegible] سونا معلوم ہوتا ہے [illegible]

## یارنگ

نرالی ڈیزائن کی جال

یارنگ کے اصل کو شرمانے والے چمکدار نگینوں سے آراستہ اعلیٰ سپیشل گولڈ کے خوبصورت پائدار چھینی یا نگینہ (جوڑا) پہنا کر حسن کی بہار لوٹیے فی جوڑہ [illegible]

## بٹن دباؤ اور تصویر لو

ایک کیمرہ آپ [illegible]

### نہایت صاف اور چمکدار فوٹو کھینچنے والا بڑھیا کیمرہ

ہم نے یہ فوٹو کیمرہ سپیشل آرڈر دے کر اعلیٰ درجہ کا تیار کروایا ہے جو صاحب کیمرہ کا بٹن دبانا بھی نہیں جانتے وہ بھی بے حد دلچسپ تصاویر اتار کے اپنی شہرت اور قسمت چمکا سکتے ہیں۔ اس سے چلتے پھرتے مرد عورت بچے۔ دوڑتی ریل۔ اڑتے جانور۔ گھوڑ دوڑ۔ باغ باغیچے۔ ہر قسم کے سین سینریاں۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندری نظارے۔ بڑی بڑی عمارات وغیرہ کی عمدہ اور صاف تصویریں نہایت آسانی سے ایک آن واحد میں اتر آتی ہیں۔ ہمارے اس کیمرہ نے بازار کے تمام کیمرے مات کر دئے ہیں۔ ہر ایک کیمرہ کے ساتھ چار عدد فلمیں۔ ایک درجن چھاپنے کے اعلیٰ درجہ کے کاغذ۔ بڑھیا لینز دھونے کے مصالحہ جات اور ترکیب کی آسان کتاب اردو میں چھپی ہوئی مفت دی جاتی ہے۔ قیمت [illegible] دو روپیہ آٹھ آنہ بڑھیا قسم تین روپیہ چار آنہ ہے۔ محصولڈاک معاف۔ [illegible] پیکنگ و فیس منی آرڈر خریدار کے ذمہ۔ جلد منگا لیجئے۔

## کھیڑ سوانگ تماشے اور بہروپیوں کیلئے بڑھیا بال

ہم سے اچھے بال اور کہیں نہ ملیں گے آزمائش شرط ہے محصولڈاک الگ

### زنانہ بال

یہ بال مانند اصلی کے کھیڑ میں لڑکی بنا کر پہنو تو عورت معلوم ہونے لگتے ہیں سیاہ بال [illegible] سفید بال [illegible] لال بال [illegible]

### لانبی داڑھی

ایسے لگانے سے شکل بالکل اصل کی نقل [illegible] بڑھیا سیاہ داڑھی [illegible] لال یا سفید ۱۲ ؍ داڑھی مع مونچھ [illegible] سیاہ قیمت ۱۲ ؍

### شہزادی کے بال

یہ گھونگر والے بال بہت لانبے اور خوبصورت ہیں جو شہزادی کے روپ میں کام آتے ہیں [illegible] بڑھیا [illegible]

### چوٹی

یہ زنانہ چوٹی سوانگوں میں بہت کام آتی ہے سیاہ گندھی ہوئی [illegible] کھلی ہوئی [illegible] سرخ رنگ کی ۱۲ ؍

### داڑھی گول

مانند اصلی کے خوبصورت سیاہ قیمت ۱۰ ؍ سرخ یا سفید ۱۲ ؍ پنجابی سکھی داڑھی [illegible] کانوں پر چڑھی [illegible] سیاہ عمدہ ۱۴ ؍

### فقیرانہ جٹا

مانند اصلی کے [illegible] سیاہ [illegible] لال یا سفید [illegible] شیو جی کی طرح جٹا [illegible] لال یا سفید [illegible]

### ہر قسم کے

یہ بچے خوشرو جوان کے پارٹ میں کام آتے ہیں قیمت سیاہ [illegible] پاری کی خوشنما جو شہزادے کے پارٹ میں بڑا لطف دیتی ہے۔ قیمت [illegible]

### مونچھیں رنگدار

یہ مانند اصلی کے ہیں جو سوانگ تماشے میں بہت کام آتی ہیں نمبر ۱ [illegible] نمبر ۲ [illegible] نمبر ۳ [illegible] ہر ایک سیٹ رنگدار قیمت ۹ ؍

### چھپکلی

[illegible] آنکھیں اور [illegible] نگینوں سے آراستہ ہیں [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ بارہ آنہ

### زنجیر

[illegible] گلے میں پہننے کے لئے بہت [illegible] قیمت [illegible]

### جڑاؤ رانی ہار

پہنتے ہی حسن ناچنے لگتا ہے۔ نفاست قابل دید [illegible] سونے کا ملمع کیا ہوا رنگ برنگے آبدار نگینوں سے آراستہ۔ [illegible] قیمت صرف [illegible]

### سنہرے جڑاؤ کرنپھول جھمکے

یہ سنہرے کرنپھول جھمکے مانند سونے کے ہیں انکو بیبیاں بڑے شوق سے اپنے کان میں پہنتی ہیں فی جوڑہ [illegible]

### اعلیٰ درجہ کا سنہرا جڑاؤ گلوبند

یہ سنہرا جڑاؤ گلوبند عورتوں کے گورے گورے گلے میں بڑا لطف دیتا ہے [illegible] مانند سونے کے [illegible] بڑھیا [illegible]

### کشیدہ کشی کی اصلی مشین

شریف بیگمات اور عزیز لڑکیوں کو کشیدہ کا کام سکھانے اور سلیقہ مند بنانے کا عجیب تحفہ ہے۔ اسکے ذریعہ ہر قسم کے خوبصورت بیل بوٹے دار کشیدہ کاری سے سوتی اونی ریشمی تکیے غلاف رومال میز پوش۔ ٹوپیاں۔ [illegible] جھالر وغیرہ پر گلکاری کا کام صرف ترکیب کی کتاب پڑھنے سے سیکھا جاتا ہے۔ کتاب ترکیب ہندی اردو انگلش جو درکار ہو مشین کے ساتھ ملے گی۔ قیمت اعلیٰ [illegible] محصولڈاک معاف

### ویل بیسٹر ڈاکٹر وغیرہ کے

استعمال کے قابل مضبوط اور دیرپا خود بخود سیاہی بھرنے والے [illegible] فاؤنٹین پن [illegible] دوسرے اعلیٰ درجہ [illegible]

### پاکٹ غلیل

[illegible] محصولڈاک [illegible]

### اعلیٰ درجہ کی اصلی دوربین

بڑھیا لینز والی [illegible] سینما ہوائی جہاز اور قدرتی نظارے دیکھنے کے لئے بہت کارآمد ہے قیمت [illegible]

### ربڑ کی [illegible]

[illegible] کی تندرستی کی [illegible] محافظ اور [illegible] زندگی کے حاصل کرنے کا ذریعہ [illegible] بیماری سے بچاتی ہے قیمت [illegible]

### نر ہے یا مادہ

[illegible] معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ قیمت [illegible] محصولڈاک [illegible]

ملنے کا پتہ۔ منیجر دی امپیریل جنرل سپلائی سٹور۔ پارسن روڈ (۳۶) رام گلی) لاہور (پنجاب)

ہر ایک خریدار جنتری کلاں سنہ ۱۹۳۶ء معہ رسالہ موج زندگی باتصویر اور سچے حالات بتانے والا نالہ مفت دیا جائے گا۔

# 5000 پانچ ہزار اصلی گھڑیاں ولایت کے نرخ مُفت برابر

جو صاحب ان گھڑیوں کو برت چکے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے کبھی دوسری گھڑی کا نام نہیں لیتے اور اپنے دوستوں کو بھی ہم سے یہی گھڑیاں منگوا کر دیتے ہیں۔ اور دیکھنے و آزمائش کرنے کے بعد مفت برابر قیمت دیکھ کر نہایت تعجب کرتے ہیں۔ ہم پہلے یہ گھڑیاں صرف سینکڑوں کی تعداد میں منگوایا کرتے تھے مگر ان کی زیادہ بڑھی ہوئی مانگ نے مجبور کر دیا ہے کہ بھاری تعداد میں منگوا کر لاگت کے داموں فروخت کی جاویں تاکہ خریدار صاحبان کو سستی پڑیں اور ان کی بکری بھی زیادہ ہو اس لئے ہم نے اس بار یہ گھڑیاں پہلے سے بہت بڑھیا میٹریل لگوا کر اپنے سپیشل آرڈر سے پانچ ہزار کی تعداد میں منگوائی ہیں

اتنی تعداد منگوانے سے کارخانہ کے مالک نے ہم کو خاص کمیشن دیا ہے اور اس کمیشن کو ہم نے اپنا منافع سمجھ کر زیادہ بکری اور کم منافع کے اصول کو مدنظر رکھ کر صرف لاگت ہی کے داموں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گویا اس وقت یہ قیمتی گھڑیاں آپ کو ولایت کے نرخ پر مفت برابر مل رہی ہیں۔ اس لئے آپ بلا کسی سوچ بچار کے ان گھڑیوں کو منگوا لیں۔ کیونکہ آپ کے لئے یہ سنہری موقع ہے۔ ان گھڑیوں کی چند خوبیاں درج ذیل ہیں ملاحظہ فرماویں۔ اس مشہور اور شہرۂ آفاق گھڑی کی مشین لیور ہے۔ جو تمام دیگر گھڑیوں کی مشینوں سے عمدہ ہے۔ اور دیکھنے میں پچیس روپیہ کی گھڑی کا مقابلہ کرتی ہے۔ مضبوط ایسی کہ دادا خریدے اور پوتا برتے۔ اسکے نمبروں اور سوئیوں پر اعلیٰ درجہ کا ریڈیم لگا ہوا ہے جس سے گھپ اندھیری رات میں بھی بجلی کی طرح چمک کر دن کی طرح وقت بتاتی ہے۔ اسکا کیس پختہ نکل سلور کا ہے جو نہایت مضبوط اور کبھی نہ گھسنے اور نہ ٹوٹنے والا۔ وقت کی بالکل پکی ہے اسکا جنٹلمین سائز بھی عام پسند ہے۔ خاص کر فوجی افسر۔ محکمہ تار اور ڈاک اور دیگر دفتروں کے بابو۔ سکول ماسٹر و دیگر سب چھوٹے بڑے عہدہ داروں کے لئے ہی ایک دلفریب گھڑی تحفہ ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسکی اتنی کم قیمت ہوتے ہوئے بھی اسمیں سیکنڈ کی سوئی موجود ہے۔ پائدار ایسی کہ اچھا نامہ کرنے پر کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی قیمت سفید ڈائل والی کی صرف چار روپے آٹھ آنے -/8/4 Rs. اور سیاہ ڈائل والی کی صرف چار روپیہ بارہ آنہ -/12/4 Rs. رکھی گئی ہے۔ جو کہ اتنی خوبیوں والی گھڑی کے لئے کچھ بھی نہیں۔ دونوں میں سے جو درکار ہو منگا لیں۔ نوٹ (۱) ہر ایک گھڑی کے ہمراہ ۵ سال کی گارنٹی کا پرچہ اور فینسی چین مفت روانہ ہوگا (۲) محصول ڈاک وغیرہ ذمہ خریدار

## دیکھئے ہماری پائداری کی نسبت خریدار کیا لکھتے ہیں۔

(۱) جناب بسم اللہ صاحب ضلع امرتسر سے تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے نمبری ۱۹۸ کے مطابق چیزیں دیکھ کر دل کو خوشی حاصل ہوئی۔ آپ کے محض ایماندار ہونے کی وجہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے پھر ایک ویسٹ اینڈ کمپنی کی قیمتی گھڑی منگاؤں۔ (۲) جناب خدا بخش صاحب کشمیر سے تحریر کرتے ہیں کہ آپ کے کارخانہ کو خداوند کریم ہمیشہ آباد رکھے۔ کیونکہ جو چیزیں منگائی تھیں سب درست ہیں۔ (۳) انہیں صاحب کا دوسرا خط۔ آپ کی دیانتداری کے باعث میں سات سال سے آپ کا گاہک ہوں۔ خداوند کریم آپ کے کارخانہ کو دن بدن ترقی دے۔ (۴) جناب عثمان خان صاحب ضلع مردان سے تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے رسٹ واچ منگائی تھی۔ عمدگی کے لئے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک اور گھڑی کی مرحمت فرمائیے۔ (۵) مسٹر منوہر لعل جی نے اپنی چٹھی میں انگریزی میں تحریر کیا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی لیور رسٹ واچ بہت عمدہ نکلی جسکا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ التجا ہے کہ ایک اور روانہ کیجئے۔ یہی نہیں بلکہ بے شمار سرٹیفکیٹ موجود ہیں جو بوجہ عدم گنجائش درج نہیں ہو سکے۔ سچائی کے لئے اتنے ہی کافی ہیں۔

منگوانے کا پتہ:- مینیجر ٹی۔ این۔ انڈیا اینڈ کمپنی ہول سیل واچ ڈیلرز (۳۶ جی) پارسن روڈ۔ لاہور (پنجاب)

# لوہے کی لاٹھ یا سنیاسی کرامات عرف ورسلین

یہ سنیاسی کرامات یا سنیاسی کا نچوڑ جادو اثر دوائی حلق سے اترتے ہی طاقت مردی کا زبردست طوفان پیدا کر دیتی ہے۔ مردہ جسم میں نئی روح ڈال کر شیر مرد قوی ہیکل اور لوہے کی لاٹھ بنا دیتی ہے۔ بچپن کی بد اور ناتجربہ کاری سے جو لوگ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر چکے ہوں انکے لئے یہ دوائی آبحیات اکسیر اعظم کا حکم رکھتی ہے۔ اسکے استعمال سے پیدائشی نامردی کو چھوڑ کر ہر قسم کی نامردی سستی۔ جریان۔ احتلام وغیرہ تمام بیماریاں دور ہو کر وہ سب خواہشات پوری ہوتی ہیں جو ایک جوان مرد میں ہونی لازمی ہیں۔ اور ان بیماریوں سے پیدا شدہ تکلیفات مثلاً نقصان اور طبیعت پژمردہ رہنا۔ بیماری سے جو حد بار بیٹھنا اور اداسی اور مایوسی نے ڈیرہ ڈالے رکھنا۔ چہرہ زرد و بے رونق ہو جانا اور سر درد۔ گرد و ہوش رہنا۔ دل کی دھڑکن کمزوری دماغ۔ آنکھوں کا اندر دھنس جانا۔ اور بینائی کم ہو جانا۔ جگر کی خرابی سے غذا کا ہضم نہ ہونا۔ پیشاب درد اور پیشاب کم زیادہ یا قطرہ قطرہ آنا۔ گردوں میں تکلیف محسوس ہونا۔ بدن پتھر کی طرح بھاری رہنا۔ یا تمام بدن پیلا ہو کر سوکھنے لگنا اور ...... بڑھاپا ہو کر تمام رگیں سبز رنگ کی نمودار ہونے لگنا۔ اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جانا۔ تھوڑا چلنے سے تھک جانا اور چلنے پھرنے یا کسی سے بات کرنے سے جی چرانا۔ بدن ہر وقت ڈھیلے رہنا وغیرہ سینکڑوں امراض دور ہو کر خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ چہرہ مانند پھول گلاب اور کندن کی طرح چمک کر پر رونق ہو جاتا ہے۔ دل میں سرور آنکھوں میں نور برستا ہے۔ بدن چست و چالاک ہو کر تیلا ہو جاتا ہے۔ ثقیل اور سخت سے سخت اشیاء فوراً ہضم ہو کر طاقت بخشتی ہیں۔ جو لوگ شرم کے مارے اپنی حالت کسی پر ظاہر نہ کرتے ہوں اور عورت کو منہ دکھانے کے بالکل ناقابل ہوں وہ ضرور ہی اس دوائی کو منگوا کر استعمال کریں۔ کیونکہ اسکے استعمال سے ایسا ہر ایک مریض شریفانہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو کر اولاد نرینہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہر عمر اور مذہب کے لئے یہ دوائی مفید ہے۔ اسمیں خلاف مذہب اور ایمان کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی اور نہ کسی کشتہ کی آمیزش ہے بلکہ جنگل کی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے۔ سردی گرمی اور برسات ہر موسم میں استعمال ہو سکتی ہے اور کسی قسم کے خاص پرہیز کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے ان امراض کی ادویات استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہیں تو ہماری یہ آخری دوائی بھی استعمال کریں۔ خدا کے حکم سے ضرور فائدہ ہوگا۔ قیمت اس دوائی کی برائے نام صرف دو روپیہ چار آنہ -/4/2 Rs. مع محصول ڈاک ہے۔ اگر عورتوں کو بھی ایسی بیماریوں کی شکایت ہو تو ان کو بھی یہ دوائی ضرور استعمال کراویں۔ انکی تمام تکالیف دور ہو کر طاقتور اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔

منگوانے کا پتہ ☞ ورسلین ڈپو۔ برانڈرتھ روڈ۔ لاہور (پنجاب)

علاوہ قیمت عہ نمونہ ۳؍ کے ٹکٹ بھیجکر منگاؤ

# اگر آپکو اپنی پیاری بیوی سے محبت ہے تو زیادہ اولاد کے بوجھ سے اسکی صحت برباد نہ کریں

## اس کساد بازاری کے زمانہ میں زیادہ اولاد ناقابل برداشت بوجھ ہے

## برتھ کنٹرول یعنی اختیاری اولاد

ایک دو یا تین سال یا ہمیشہ کیلئے اولاد پیدا نہ کرنیکی خواہش ہو تو مشہور دوائی

## نومور

کا استعمال کریں۔ اس دوائی نے اٹھانوے فیصدی کامیابی حاصل کی ہے اسی لئے ناکامیابی کی صورت میں قیمت واپس کرنے کی گارنٹی ہے۔ ایک سال کی رکاوٹ کے لئے صرف تین دن دوائی کھلانی پڑتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں یا بیمار عورتیں بھی اس دوائی کو استعمال کرسکتی ہیں سسٹم میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی نقصان ہوتا ہے۔ قیمت ایک سال کے لئے ایک روپیہ پانچ سال کے لئے تین روپیہ اور ہمیشہ کے لئے پانچ روپیہ علاوہ محصولڈاک

اس دوائی کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ہر بڑے شہر میں ایجنسیاں قائم ہو چکی ہیں۔

### اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو

یا ہو کر مر جاتی ہو۔ تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا اکبر اور اکبر کا نام لیکر آج ہی ہماری دوائی کا استعمال شروع کردیں۔ آپ کی مراد بر آئیگی۔ ہزاروں ویران گھر اس دوائی کے استعمال سے آباد ہو گئے۔ قیمت مکمل کورس تین روپیہ آٹھ آنہ (۳؍۸) محصولڈاک علاوہ۔

### لڑکا ضرور پیدا ہوگا

جن کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ اولاد نرینہ کو ترستے ہیں۔ ان کو فوراً ہی ہماری مندرجہ بالا دوائی منگوا کر استعمال کرنی چاہئے۔ یہ دوائی حمل کے دوسرے یا تیسرے مہینے عورت کو کھلائی جاتی ہے۔ یقیناً لڑکا پیدا ہوگا۔ قیمت فی پیکٹ صرف دو روپے (عما) علاوہ محصولڈاک۔

## جریان الرحم یعنی لیکوریا کا قطعیہ علاج

اس نامراد مرض سے عورت زندہ درگور ہو جاتی ہے اس کے علاج میں دیری ہرگز نہ کرنی چاہئے سفید پانی کے ہیا ہی کیوں نہ بہتے ہوں اس دوائی کے استعمال سے رک جاتے ہیں اور تندرست و توانا ہو جاتی ہے قیمت فی پیکٹ دو روپے چار آنے علاوہ محصولڈاک

## سدا جوانی فارمیسی (سدا جوانی بلڈنگ سدا جوانی سٹریٹ) راوی روڈ لاہور

# ان نئی نئی ایجادوں نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے!

(اگر فائدہ مند ثابت نہ ہوں۔ تو دام واپس کر دینے کی گارنٹی)



SOLD
EVERYWHERE

برف جیسے سفید بالوں کو سیاہ کرنے والا

## بال کالا کرنیکا تیل

برسوں کی محنت اور تجربہ کے بعد بالوں کو سیاہ کرنیوالا تیل بنانے میں صرف ہم ہی کامیاب ہوئے ہیں اور ہماری کامیابی کو دیکھکر کئی نقال پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل بے ضرر اور زمانہ حاضرہ کی بالکل نئی ایجاد ہے اس کے استعمال سے بال جڑھ سے سیاہ پیدا ہوں گے جس جگہ کے بال سفید ہوں ان کو معمولی تیل کی طرح ملکر بالوں پر لگا دیں۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے بال سیاہ مانند بھنور کے ہو جائیں گے قیمت باوجود ان خوبیوں کے صرف دو روپے علاوہ محصولڈاک۔

نقالوں سے بچیں

## طلائے سیماب یعنی پارہ کا تیل!

مادرزاد نامرد کو بھی مرد کامل بنانے کی طاقت رکھتا ہے

یہ طلا معمولی طریقہ پر طیار نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اسکی تیاری میں مہینے نہیں بلکہ سال لگ جاتے ہیں۔ پارہ کو پہلے جڑی بوٹیوں کی امداد سے کشتہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کشتہ سے کیمیاوی طریقہ پر جوہر اڑایا جاتا ہے اور پھر اس جوہر سے تیل نکالا جاتا ہے اس تیل کی مالش سے مادرزاد نامرد بھی مرد کامل بن جاتا ہے۔ یہ تیل آبلہ یا زخم ہرگز نہیں ڈالتا۔ تیل کی پرکھ یعنی پہچان اس کی چند بوندیں کسی مردہ گوشت کے ٹکڑے پر ڈالدیں۔ وہ ٹکڑا اس کی تاثیر سے حرکت کرنے لگ جائیگا۔ بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس قدر طاقت رکھتا ہے۔ زیادہ تعریف بالغ اخلاق ہے

نوٹ: باوجود انتہائی کوشش کے اس قدر بھی بہت کم شیشیاں طیار ہوتی ہیں اس لئے ضرورت مند اصحاب جلد منگوالیں ورنہ کافی عرصہ انتظار کرنا پڑیگا۔ گرمی سردی ہر موسم میں قابل استعمال ہے قیمت فی شیشی دو روپے علاوہ محصول

**دمہ کی مجرب دوائی** اس نامراد مرض سے متنفر دل ناامید مریض صحتیاب ہو کر کارخانہ کو دعائیں دیتے ہیں۔ دمہ خواہ کیسا ہی پرانا ہو تین چار روز کے استعمال سے ہی کافور ہو جاتا ہے اور پھر ہمیشہ کیلئے نزدیک نہیں آتا قیمت مکمل خوراک ۵؍ علاوہ محصول

**چھلہ بواسیر** یہ چھلہ بواسیر اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ اس کی تعریف ہی فضول ہے بغیر دوائی کھلائے ہی بواسیر کو آرام آ جاتا ہے بس اس چھلہ کو پہن لیں اور اس گندی مرض سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارا حاصل کریں۔ قیمت فی چھلہ صرف ایک روپیہ علاوہ محصولڈاک۔

**پارہ کی گولی** یوں تو آپنے پارہ کی گولی کے بیشمار اشتہار دیکھے ہوں گے لیکن ہماری پارہ کی گولی نرالی خاصیت رکھتی ہے اس گولی کو پہلے دودھ میں ابالا جاتا ہے اور پھر اس [illegible] دودھ کو پیا جاتا ہے۔ ہر روز لگاتار ایسا دودھ پینے سے جسم میں حیرت انگیز توانائی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے اور جریان و احتلام کو ہمیشہ کیلئے فائدہ ہو جاتا ہے اور طبیعت میں غضب کا جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ گولی ہے جس کو وقت ضرورت منہ میں رکھا جاتا ہے اس گولی میں [illegible] مفصل ترکیب استعمال کا پرچہ ہمراہ گولی روانہ ہوگا باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت صرف ایک روپیہ علاوہ محصولڈاک اور ایک ہی گولی ہمیشہ کیلئے کام دیتی ہے یہ گولی گھستی یا ختم نہیں ہے۔

## کارخانہ دیو آشرم سنیاسی جڑی بوٹی پوسٹ بکس ۱۸۲ لاہور

قسمت کا چارٹ نامی کتاب ۲ کے ٹکٹ بھیجکر منگواؤ

# 1000! 1000! 1000

## ایک ہزار روپیہ کے ۳۹۲ انعامات کون کون خوش قسمت اصحاب لینگے

| | |
|---|---|
| ایک انعام ایک سو روپیہ کا | 100 |
| دو انعامات پچاس پچاس روپیہ کے | 100 |
| چار ״ پچیس پچیس روپیہ کے | 100 |
| پانچ ״ بیس بیس ״ | 100 |
| دس انعامات دس دس روپیہ کے | 100 |
| بیس ״ پانچ پانچ ״ | 100 |
| پچاس ״ دو دو ״ | 100 |
| تین سو ״ ایک ایک ״ | 300 |
| کل رقم ایک ہزار روپیہ | 1000 |

# آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟

لیڈیز اینڈ جنٹلمین! سال بھر کا برش پھل اور آنیوالے حالات جن میں بارہ ماہ کا نفع و نقصان۔ کس تجارت میں فایدہ رہیگا کس ذریعہ سے روپیہ ملیگا۔ روزگار کب ملیگا۔ ملازمت۔ ترقی۔ تبادلہ۔ تنزل۔ عورت و اولاد کا سکھ و دکھ۔ لڑکا یا لڑکی کی پیدائش۔ تندرستی۔ بیماری۔ دور دراز کا سفر۔ مقدمات و امتحانات میں کامیابی یا ناکامیابی۔ سگائی۔ شادی۔ زمین۔ جائداد۔ کاشتکاری کسی سے نیا میل یا دشمنی۔ سٹہ۔ لاٹری یا کسی نامعلوم ذریعہ سے دولت کا ملنا۔ معشوق کی خوشخبری۔ غرضیکہ ہر قسم کے دنیاوی حالات۔ ماہواری برش پھل کے حساب سے بالکل **مفت** بھیجے جاتے ہیں۔ آپ کسی پھول یا پھل کا نام جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے لکھکر بھیجدیں۔ سال بھر کا برش پھل آپ کو مفت نذر ہوگا۔ مگر **یاد رہے** کہ اسی لفافہ میں **چار آنہ** (۴) کے ٹکٹ برائے اخراجات اشتہارات اور ڈاک ضروری آنے چاہئیں ورنہ کوئی جواب نہیں دیا جائیگا۔

ہر ایک خریدار کو ایک **انعامی کوپن** ہر ایک برش پھل کے ساتھ مفت بھیجا جائیگا جس کی رو سے وہ مندرجہ بالا انعامات میں حصہ لے سکیں گے۔ انعامات کا نتیجہ اگلے سال کی جنتری میں شائع کیا جائیگا۔ یا اگر آپ پیشتر منگوانا چاہیں۔ تو ایک آنہ کا ٹکٹ بھیجکر منگوا لیں انعامات کی رقم خوش قسمت اصحاب کو ۳۱۔ اگست سنہ ۱۹۳۶ء کو تقسیم کی جائے گی۔

**تعویذ سکندری** اگر آپ ہر کام میں فتحیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو۔ تو ہمارا تعویذ سکندری منگوائیں آپ اس کی تاثیر سے حیران ہو جائیں گے۔ قیمت فی تعویذ دو روپیہ آٹھ آنہ (۲/۸)

# مُردہ روحوں سے ملاقات

اپنے عزیزوں سے بات چیت کرو جو آپ سے اس دنیا میں بچھڑ چکے ہیں۔ امریکن طرز کا آلہ روح جس کے ذریعے گمشدہ کا پتہ لگانا سربمہر لفافوں کی عبارت کو جان لینا۔ لاعلاج امراض کے نسخہ جات معلوم کر لینا۔ لاٹری یا سٹہ کا نمبر دریافت کر لینا۔ دفینہ کا حال معلوم کر لینا۔ حاکم یا معشوق کو زیر کر لینا اس آلہ میڈیا ڈی اسپرٹش MEDIA DE SPIRITSE کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ قیمت رعایتی دو روپے (۲) محصولڈاک ۷۔ دوسرے جہان کی سیر نامی کتاب آلہ کے ہمراہ مفت بھیجی جائیگی۔

**انگشتری سلیمانی** اس مسمریزم کی انگوٹھی کے ذریعہ مخفیہ رازوں کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور نہایت عجیب و غریب روحانی کرشمہ جات نظر آتے ہیں۔ قیمت فی انگوٹھی صرف ایک روپیہ محصولڈاک ۶۔

المشتہر

**آئی جی پرنس اینڈ کو پوسٹ بکس نمبر ۱۸۲ لاہور**

فرنچ لیدر مردانہ قیمت ۳ر فی عدد

# آلہ مردمی

## جرمنی کی حیرت انگیز ایجاد

اب کوئی شخص نامرد نہیں رہ سکتا خواہ ساٹھ ستر سالہ بڈھا ہی کیوں نہ ہو۔ بغیر کسی قسم کی دوائی لگانے کے چند ہی دنوں میں مرد بلکہ جوانمرد بن جاتا ہے۔ اس آلہ کا موجد ایک جرمن سائنسدان ہے جس کا دعوے ہے کہ کیسا ہی گیا گذرا نامرد کیوں نہ ہو۔ پہلے ہی روز یعنی

# JUVINATOR

استعمال کے چند سکنڈ بعد ہی اپنے اندر طاقت مردمی کا احساس کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ طاقت لحظہ بہ لحظہ بڑھتی جاتی ہے حتی کہ چند دنوں میں مریض اپنے آپ کو ایک قابل فخر مرد کامل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں یہ عجوبہ روزگار آلہ لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکا ہے۔ اور نی زنانہ نامردی کا بہترین علاج تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اگر اب بھی آپ یا آپکا کوئی دوست رشتہ دار نامرد رہے۔ تو اس کی بدقسمتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت صرف

پندرہ روپے (۱۵؎)



### مگر آپ اس آلہ کو نصف قیمت پر بھی حاصل کر سکتے ہیں

زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کے استعمال کے بعد مریض کو اس آلہ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس کے استعمال سے طاقت کا بے انتہا اور نہ ختم ہونے والا خزانہ ہاتھ آجاتا ہے اس لئے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد (زیادہ سے زیادہ تین ماہ کے اندر) یہ آلہ ہم کو واپس کردیں۔ ہم آپ کو اس کی نصف قیمت یعنی ساڑھے سات روپیہ (۷؍۸) بذریعہ منی آرڈر ارسال کردیں گے۔ گویا ساڑھے سات روپیہ میں آپ نامرد سے مرد کامل بن گئے۔ اس رعایت کا جلد فائدہ اٹھائیں۔

## آلہ مانع احتلام

مرض احتلام نامردی کا پیش خیمہ ہے۔ اس مرض کا جتنی جلدی قلع قمع کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ورنہ جڑ پکڑنے کے بعد یہ خوفناک مرض نامردی کی خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ دوائی کا استعمال بعض طبیعتوں کو موافق نہیں ہوتا مگر آلہ کا استعمال پہلے ہی روز احتلام کو ناممکن بنا دے گا۔ اور پھر یہ مرض جڑ و بنیاد سے اکھڑ جائیگا۔ اور پھر کبھی پیدا نہ ہوگا۔ یہ بھی جرمنی کی بےنظیر ایجاد ہے۔ قیمت فی آلہ جرمنی دو روپے (۲؎) دیسی ایک روپیہ (۱؎) علاوہ محصولڈاک۔

**جنرل منیجر آئی جی پرنس اینڈ کو پوسٹ بکس ۱۸۲ لاہور**

پنجاب

خوشخبری

حیرت انگیز رعایت

صرف تین روپے میں امریکن بڑھیا فوٹو مینڈ کیمرہ اور ولایتی سات فینسی گھڑیاں

امریکن کوڈک کمپنی کا اصلی کیمرہ

امریکن کوڈک کمپنی کا اصلی کیمرہ

اگر مکمل تصویر نہ اتارے۔ تو دگنی قیمت معہ محصولڈاک واپس لیجئے

اس سنہری موقع کو ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دینا چاہیئے۔ کیونکہ ولایت میں روپیہ کی قلت اور مارکیٹ کے ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے ہم کو سستے داموں پر مال مل گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت مضبوط قیمتی اور اسٹیل کے فیشن کے مطابق ہے۔ اس کے ذریعے مرد عورت۔ جانور۔ ریل۔ فوج جہاز۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندر کے نظارے اور بڑی بڑی عمارتوں کے عمدہ نہایت صاف تصویر ایک آن کی آن میں بڑی صفائی کے ساتھ اُتاری جا سکتی ہے۔ وغیرہ ہر قسم کے مکمل فوٹو باآسانی اُتر سکتے ہیں۔ اس کے ہمراہ سات عدد فینسی سپوٹ رسٹ واچیں ہونگی۔ یہ گھڑیاں چمکدار مضبوط اور معہ سلک بینڈ فینسی ہیں۔ اگر ہمارے اشتہار کے مطابق امریکن کیمرہ اور فینسی سپوٹ گھڑیاں غلط ثابت ہوں۔ تو دگنی قیمت واپس منگوالیں۔ جلد آرڈر دیکر مشکور فرمائیں۔ کیونکہ یہ قیمت تو صرف کیمرہ ہی کی ہے ؛

**خاص نوٹ** :۔ دیگر کیمروں اور گھڑیوں کے اشتہاروں سے بچو۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ نہ ملیگا۔ منگوا کر آزمائش کیجیئے! اور آئندہ کیلئے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ پیکنگ اور محصولڈاک ایک روپیہ علاوہ ہوگا۔ نیز گھڑیوں کیمروں میں دوسروں سے مقابلتاً رعایت کی جاتی ہے آرڈر دیکر آزمائش کریں ؛

**بجلی کی عینک** (نئی ایجاد) یہ بہترین سائنس کی نئی ایجاد ہے۔ نہ لیمپ کی ضرورت نہ کسی لالٹین کی۔ رات کو ضرورت کے وقت عینک نکالیں اور آنکھوں پر لگا کر جو کام کرنا چاہیں کریں۔ کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ ہر ایک انسان استعمال کر سکتا ہے کمزور نظر کے لئے مفید ہے۔ جھوٹ یا غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ سے نہ ملیگی۔ قیمت رعایتی فی عینک عہ۔ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا ؛ محصولڈاک ۸ر علاوہ ہوگا

ملنے کا پتہ:۔ **مینیجر جنرل کمرشل ایجنسی ۲۰۱ بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

شہریان پنڈت کوکا وزیر اعظم ریاست کشمیر کے خفیہ کوک شاستر کا اردو ترجمہ اصلی

تنہائی میں بیٹھکر پڑھنے کے قابل

**اصلی شہنشاہی کوک شاستر** فوٹو بلاک باتصویر

یہ سب سے نرالا اصلی پورا چھپکر ورقی اور مکمل ہے۔ اس میں عورت مرد کی پُر شباب چوراسی آسن کے تمام حالات ...... فوٹو بلاک و رنگین تصویریں لطف شباب حاصل کرنے کے طریقے۔ پنڈت کوکا کے ایسے خفیہ راز جن کا تحریر کرنا خلاف تہذیب ہے۔ دیگر اور عجیب وغریب باتیں جو عورتوں اور مردوں کو جاننی ضروری ہیں۔ اور وہ راز جن سے پنڈت کوکا نے تمام خلق کو گرویدہ بنا رکھا تھا۔ درج ہیں۔ یہ وہ کوک شاستر ہے جس کو آپ مدت سے ترس رہے تھے۔ سوائے ہمارے یہ اصلی شہنشاہی کوک شاستر دوسری جگہ نہ ملے گا۔ منگوا کر ملاحظہ فرمائیں۔ جھوٹ یا غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس۔ کسی دوسری جگہ سے کم قیمت ابرہ وغیرہ کوک شاستر منگوا کر دھوکا نہ کھائیں۔ صرف شادی شدہ اصحاب منگوائیں۔ قیمت رعایتی دو روپے جیبی رنگین تصویر دار فی جلد بارہ آنہ محصولڈاک ۸ر علاوہ خط وکتابت

ملنے کا پتہ:۔ **تلک راج منتر بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

غلط ثابت کرنیوالے کو یکصد روپیہ انعام

**پارہ کی گولی**

عاشق مزاج اصحاب کے لئے نایاب تحفہ ہے جس سے عورت خواہ وہ کیسی ہی پتھر دل مغرور اور سخت کلام کیوں نہ ہو ہمیشہ کے لئے تابع ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ ہونگے آپ سے ملنے کے لئے تڑپے گی جب بھی آپ اُس کے سامنے جائینگے۔ وہ آپ سے محبت کا اظہار کریگی اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش کریگی۔ ترکیب۔ آپ نے دودھ پینا ہو۔ اتنا خوب گرم دودھ لیں۔ اور حسب منشاء میٹھا ڈالیں۔ پھر اس میں تقریباً پندرہ منٹ تک پارہ کی گولی رکھ چھوڑیں۔ بعد میں گولی نکالکر ضرورت سے دو گھنٹہ پہلے یہ دودھ پی لیں۔ ........ پھر آپ کافی عرصہ تک لطف اُٹھا سکیں گے۔ ایک گولی چالیس پچاس دفعہ کے استعمال کیلئے کافی ہے۔ ضرورت پر ہم سے پھر منگوا سکتے ہیں۔ نیز یہ گولی جریان۔ احتلام۔ سرعت وغیرہ کیلئے ازحد مفید ہے۔ تمام خط وکتابت پوشیدہ رکھی جاتی ہے قیمت رعایتی صرف دو روپے مکمل بمعہ ترکیب ہمراہ گولی ارسال کیا جاویگا ؛ محصولڈاک علاوہ ہوگا۔

**شیر کی چربی کا طلا** یہ طلا ہر قسم کی نامردی سستی۔ کمزوری کیلئے ازحد مفید ہے۔ یہ امراض خواہ بچپن کی بد عادات یا کثرت مباشرت سے پیدا ہوئی ہوں کیسے ہی لاعلاج ہوں۔ لاغری۔ ٹیڑھا پن وغیرہ کو دور کر کے اپنی اصلی حالت پر لے آتا ہے۔ پرانی شکایتوں کیلئے اس سے بہتر کوئی طلا نہیں [illegible] ہوگا قیمت [illegible]

ملنے کا پتہ:۔ **مینیجر دار الشفاء گولیاں بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

اصلی قیمت [illegible] رعایتی قیمت صرف [illegible]

## جو چاہو گے ہو جائے گا!

عمل محبت کے شائقین جو سب طرف سے مایوس ہو چکے ہوں۔ آخری مرتبہ ہمارا شاہی جنتر کو بمراد منگا کر اپنے دل کی مراد کو حاصل کریں اسکو اپنے پاس رکھکر آپ اپنے دل میں جس کسی کا نام لیں گے۔ خواہ وہ کیسا ہی سنگدل کیوں ہو جہاں کہیں بھی ہوگا۔ آپ سے ملنے کے لئے تڑپنے لگے گا اور جب بھی آپ اسکے سامنے جائینگے وہ آپ سے آپ محبت کا اظہار کریگا اور ہر وقت آپکے ساتھ رہنے کی خواہش کریگا ہر حاکم یا مالک کو اپنا تابع اور دشمن کو زیر کرنا گمشدہ کی تلاش کرنا کسی کے دل کا بھید معلوم کرنا کسی چور کا پتہ لگانا۔ مرد و زن سے بات چیت کرنا غرض کہ آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو کہ باوجود کئی ہزار کوششوں کے بھی پوری نہیں ہوئی تو وہ بھی ہمارے جنتر کے پاس رکھنے سے گنتی کے دنوں میں پوری ہو جائیگی معاوضہ صرف ۵ علاوہ محصول ڈاک نوٹ: غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس۔

ملنے کا پتہ: منیجر جرمن کمرشل ایجنسی (۱۸) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب

---

## اصلی کوک آسن والا ۸۴ شاستر رنگین

(رجسٹرڈ)

عورت مرد کی چوراسی آسن کی تصویر دار پوشیدہ رنگین تصویریں اور چوراسی آسن کا تمام اصلی حالات درج ہے غلط ثابت ہو تو دام واپس ۸۴ تصویر رنگین اصل قیمت ۲ روپیہ رعایتی چودہ آنہ ۱۴/

## شیر کی چربی

اگر کمزور آدمی صرف ایک رات میں طاقتور ہو کر آرام سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے شیر کی چربی استعمال کریں غلط ثابت ہو تو قیمت واپس اصلی قیمت ۲/ رعایتی قیمت صرف ایک روپیہ جلدی منگوالیں۔

ملنے کا پتہ: منیجر جاپان نادر سٹور (۸۸) مقام پٹھان کوٹ گورداسپور پنجاب

---

## مریضانِ سرعتِ انزال و شوقینِ مزاج اصحاب کیواسطے نادر تحفے

جو بوجہ اپنی خوبیوں و عمدگی کے گورنمنٹ آف انڈیا سے بہ مضمون اشتہار رجسٹرڈ ہیں!

## امساک کی گولیاں

یہ گولیاں امساک کیواسطے لاجواب اور بالکل بے ضرر ہونیکے علاوہ مریضان سرعت انزال کو شرمندگی سے بچانے کا عجیب و غریب نسخہ اور قلب محبوب کا لاثانی وسیلہ ہیں یہ گولیاں [illegible] گولیوں کے نام سے صرف ہندوستان [illegible] تمام دنیا میں اسقدر مشہور و مقبول ہو چکی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہیں۔ وقت ضرورت یعنی خلوت سے ایک گھنٹہ پیشتر صرف ایک گولی کھا کر آپ گھنٹوں لطف زندگی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ گولیاں [illegible] امساک پیدا کرتی ہیں کہ جب تک قدرے ترشی یعنی کھٹائی نہ کھائی جاوے۔ امساک برابر قائم رہتا ہے [illegible] فراغت نہیں ہوتی۔ قیمت ۱۲ گولی دو روپیہ (عہ) ۲۵ گولیاں چار روپیہ (للعہ)

## طلائے ملذذ

شیشی خورد [illegible] شیشی کلاں [illegible]

وقت ضرورت سے پہلے اس طلاء کی چند بوند مالش کر لینے سے طرفین کو اس قدر لطف حاصل ہوتا ہے کہ دونوں پر ایک پر لطف بیخودی کا عالم طاری ہو جاتا ہے امساک کی گولیوں کے ساتھ اس طلاء کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے قیمت شیشی خورد ایک روپیہ چار آنہ (عہ) قیمت شیشی کلاں صرف دو روپیہ (عہ)

فہرست ادویات و شفاخانہ بالکل مفت۔

## کماری

کنواری عورتوں کیواسطے لاجواب تحفہ ہے اس دوا کا پہلی ہی مرتبہ کا استعمال بوڑھی سے بوڑھی عورت کی جسمانی حالت کو تبدیل کر کے یعنی کنواری لڑکی کی طرح کر دیتا ہے شائقین کیلئے لاثانی تحفہ ہے قیمت پیکٹ خورد ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ) پیکٹ کلاں تین روپیہ (سہ) محصول ڈاک علاوہ ہر چیز کا بذمہ خریدار ہوگا۔

POST BOX No. 116
DELHI.

منگانے کا پتہ: منیجر شری شنکر آنند اوشدھالیہ (مشہور کارخانہ) پوسٹ بکس ۱۱۶ دہلی

تین بے نظیر تحفے

عورتوں کے ۲-۲ فٹ لمبے بال کرنے والی

زورا بیوٹی رجسٹرڈ

بال گرنے سے روکتی ہے۔ سکری اور گنج کیلئے مفید ہے۔ سخت بالوں کو ملایم اور چمکیلے کرتی ہے۔ خاصکر پنجاب کی عورتوں کیلئے ایک تحفہ ہے۔ نہایت خوشبودار ہونیکے علاوہ بالوں کو ہمیشہ سیاہ رکھتی ہے۔ لگاتار اگر دو دو فٹ لمبے بال نہ ہوں تو دام واپس۔ قیمت فی بوتل عہ علاوہ محصولڈاک

طلسمی الائچی رجسٹرڈ

شوقین مزاج دوستوں کیلئے نہایت عجیب تحفہ ہے۔ وقت ضرورت سے ایک گھنٹہ پیشتر صرف دو الائچی پان میں کھائیں اور جوانی کا لطف اٹھائیں۔ ممسک بے خطا ہے۔

قیمت:- عہ فی پیکٹ علاوہ محصولڈاک ۶/

صرف ایک ہفتہ میں [illegible]
کالے کرنیکا تیل [illegible]

بال کالے کرنیکا تیل

نیور گرے NEVER GRET رجسٹرڈ

کمار صاحب کی نئی ایجاد

یوں تو بھولی بھالی پبلک کو دھوکہ دینے کیلئے کئی بال کالے کرنیکے تیل تیار ہوئے ہیں۔ کوئی چھ شیشیاں استعمال کرنیکو کہتا ہے اور کوئی چار پانچ۔ دوستو مفت میں روپیہ برباد نہ کرو۔ ہندوستانی جڑی بوٹیوں کا کچھ کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو تو کمار صاحب کے نیور گرے کی صرف ایک شیشی استعمال کرو۔ چار پانچ کی چنداں ضرورت نہیں خوبی یہ ہے کہ نہ داغ دیگا نہ جلن پیدا کریگا۔ بیشک خضاب کی شیشیاں توڑ دو۔ جو بھائی آگے نقلی تیل استعمال کر چکے ہیں وہ ضرور اس کی ایک شیشی استعمال کریں۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو دام واپس۔ قیمت دو روپیہ فی بوتل علاوہ محصولڈاک ۸/ نصف شیشی ایک روپیہ محصولڈاک

نوٹ:- قیمت جلد بڑھا دی جائیگی۔ کتاب بہر زندگی مفت منگائیں۔

پتہ:- جنرل مینیجر ست اینڈ کو بازار وچھووالی۔ لاہور

آپ ہر قسم کی کھانسی سے نجات حاصل کیجیے

**گنیش کف بام** } جو گورنمنٹ انڈیا سے رجسٹری ہو چکا ہے۔ آپ کی خدمت کیلئے موجود ہے۔ نئی و پرانی کھانسی خشک بلغمی۔ نزلہ۔ زکام۔ دمہ کے لئے نہایت مجرب دوائی ہے۔ ہر مذہب اور ملت کے آدمی اسے استعمال کرتے ہیں پچاس برس سے پرچلت ہے۔ آج ہی ایک شیشی خرید فرما دیں۔ لیکن بہتر ہوگا۔ کہ محصول ڈاک کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک سے زیادہ شیشی کا آرڈر بھیجیں۔ قریباً ہر ایک دوائی فروش سے مل سکتی ہے آپ براہ راست آرڈر بھیجکر مندرجہ ذیل پتہ سے طلب کریں۔

قیمت فی شیشی دس آنے (۱۰/)

علاوہ ازیں سب بیماریوں کی مجرب دوائیاں ہمارے ہاں مل سکتی ہیں اور ہر طرح کی خط و کتابت پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ یہ ادویات بالکل بے خطا اور بے ضرر ہیں۔ پانچ روپے کا آرڈر بھیجنے والے کو ایک شیشی کریم مفت بھیجی جاتی ہے۔ تین روپے کا آرڈر آنے پر منجن دندان کی ایک شیشی مفت ارسال کی جاتی ہے۔

**گنیش ٹانک** رجسٹرڈ } ایک بوتل بارہ اونس۔ قیمت تین روپے دماغی کام کرنے والوں کیلئے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ طلباء وکیل و استاد صاحبان وغیرہ وغیرہ کیلئے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال کرنیکے بعد جسقدر محنت کی جائے تھکاوٹ معلوم نہیں ہوتی۔

(۲) ڈابیٹیس (ذیابیطس) فی شیشی چار روپیہ۔ فہرست طلب کرنے پر مفت بھیجی جاتی ہے

ملنے کا پتہ:- گنیش داس دوارکا ناتھ مینوفیکچرنگ کیمسٹس دروازہ موچی لاہور

مشہور عالم ستے رجسٹرڈ

چنتا ہرن سدھ جنتر

یہ سدھ جنتر ہر ایک مراد کو پورا کرنے والا ہے پس اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو۔ نوکری نہ ملنا۔ روزگار میں نقصان ہو یا مال نہ بکنے۔ امتحان میں کامیابی ہونے۔ شادی کے نہ ہونے معشوق کے نہ ملنے۔ مقدمہ جیتنے۔ گھوڑ دوڑ لاٹری وسٹہ کے انک جان کر کامیاب ہونے۔ اولاد کے نہ ہونے یا ہو کر مر جانے یا کسی امید کے پورا نہ ہونے وغیرہ کی مصیبت سے دکھی ہیں تو ہمارا سدھ جنتر ایک روپیہ دس آنہ میں منگا کر اپنا منورتھ پورا کریں۔ اگر حسب تحریر ہمارے کامیاب نہ ہوں تو بجرنگ بلی کو شاہد کر کے کہتے ہیں۔ کہ دونے دام واپس کرینگے

ملنے کا پتہ:- پنڈت بچن پرشاد ترپاٹھی تانترک ٹل آچاریہ (م م)
ڈاکخانہ کملاپور ضلع سیتاپور

# صرف دو روپیہ تین آنہ میں سات گھڑیاں

## ایک عدد اصلی جرمن ٹائم پیس دو عدد ٹائے پاکٹ واچ ۔ چار عدد ٹائے رسٹ واچ ۔

یہ گھڑیاں ہم نے خاص طور پر ولایت سے بڑی بھاری تعداد میں منگوائی ہیں ۔ مضبوطی اور پائیداری کے لحاظ سے یہ گھڑیاں اپنی نظیر آپ ہیں ۔ اپنی فرم کی سالگرہ کی خوشی میں ہم نے صرف دس ہزار گھڑیاں اس رعایتی قیمت پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مقررہ مقدار کے ختم ہو جانے پر یہی گھڑیاں اس رعایتی قیمت پر فروخت کی جائیں گی اس لئے جلدی کریں ۔ ورنہ ایسے نادر موقعہ بار بار ہاتھ نہیں آیا کرتے ۔ محصولڈاک وپیکنگ پندرہ ۱۵ آنے الگ ۔ ناپسند ہونے پر قیمت واپس

**ملنے کا پتہ :۔ مینیجر جاپان ناولٹی سٹور (۴) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب**

---

## بال عمر بھر نہ اُگنے کا جوہر

اس کے استعمال سے نرم سے نرم اور نازک سے نازک جگہ کے بال خود بخود جھڑ جاتے ہیں اور پھر کبھی پیدا نہیں ہوتے بلکہ جگہ ریشم کی طرح ملائم نرم اور چمکدار ہو جاتی ہے صرف دو دفعہ کے استعمال کرنے سے بال ہمیشہ کیلئے نیست و نابود ہو جاتے ہیں قیمت صرف ایک روپیہ

## کالا تیل رجسٹرڈ

اس بال کالا تیل کے استعمال سے بال ہمیشہ کے لئے کالے ہو جاتے ہیں اور پھر تمام عمر سفید ہی پیدا ہوتے ہیں ۔ بے نظیر سنیاسی تحفہ ہے ۔ نقالوں کے دھوکے سے بچو قیمت صرف عہ۲ علاوہ محصولڈاک تین شیشی تین روپیہ (۳) محصولڈاک معاف غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس ۔

**ملنے کا پتہ :۔ مینیجر جاپان ناولٹی سٹور (۴) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب**

---

| مہاراج اوگھڑ کی مشہور کتاب | اعجاز الہدیٰ حصہ اول المعروف کلید سٹہ | کلید جفر |
|---|---|---|

## انسان سب کی نظروں سے پوشیدہ وہ سب کو دیکھے اسے کوئی نہ دیکھے

دنیا میں تین چیزیں عنقا تھیں جانی بھی سٹہ کا نمبر کوئی نہیں بتلا سکتا تھا علم جفر کا مستحصلہ کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا عمل انسان نظروں سے پوشیدہ وہ سب کو دیکھے اسے کوئی نہ دیکھے کسی کو نہ ملتا تھا ۔ ان تمام چیزوں کو مہاراج سوامی پرمانند اوگھڑ بیٹھ پارٹ فقیر ساکن [illegible] گھاٹ متصل شہر بنارس سے حاصل کرکے اس کتاب میں رکھ دی ہیں ۔ اس کتاب میں الٹ پلٹ کے ہم آہستہ ہوتے نمبر حل کرکے دکھلاتے ہیں اور معمولی حساب ہے جسے ضرب تقسیم تفریق سے کچھ واسطہ نہیں صرف ہندسوں کا ہیر پھیر اور الٹ پلٹ ہے اور خوبی یہ کہ ہر ایک مہینہ میں ایک دفعہ بھی نہیں چوکتا ۔ کبھی خالی نہیں جاتا ۔ ہم حلفیہ اور ایمانا خدا کو حاضر کرکے لکھتے ہیں ۔ اگر ہمارے لکھے کے موافق ہمارا حساب ٹھیک نہیں ایک دفعہ بھی چوک جاوے یا خالی جاوے تو کتاب کی قیمت واپس اور کتاب مفت دی جاوے گی ۔ [illegible] ہمیشہ [illegible] اسی طرح سے اس کتاب میں جفر کا قاعدہ اور اخباری [illegible] بیان کر دیا گیا ۔ مستحصلہ کی باریکیاں اور پیچیدگیاں ایسے بیان کی گئیں کہ ایک بچہ بھی سمجھ لے اور جفردان بن جاوے ۔ اسی طرح سے عمل انسان نظروں سے پوشیدہ ہونے کا عمل اور ہمزاد کو صرف تین یوم میں [illegible] کرنا ۔ پسانی دیوی کالی دیوی [illegible] رام اوگھڑ کو سدھ کرنا ۔ [illegible] کے صرف دو تین روز کے عملیات ایسے [illegible] وہ نکتہ بھی بتلا دیا جو پہلے عاملوں نے پوشیدہ رکھا تھا ۔ قیمت کتاب سات روپیہ تھی [illegible] نصف قیمت تین روپیہ آٹھ آنہ لیا جاوے گی ۔ اگر کتاب سچی ہو تو نصف قیمت پیشگی [illegible] کتاب کا حصہ دوم جام جمشید کلید سٹہ قیمت [illegible] ۔ رسالہ [illegible] صرف [illegible] قیمت پیشگی آنے پر محصول معاف وی ۔ پی منگانے والے [illegible] ۸ ر کے ٹکٹ پہلے روانہ کریں ورنہ تعمیل نہ ہوگی ۔ [illegible]

| مذاق کا کورس | لکھنوی طلسم حیرت | دُعائے بخشش | فیچر کا روزانہ نمبر | سٹہ لاٹری اور فیچر نمبر |
|---|---|---|---|---|
| ہنسانے کی کل ہنسانے کا [illegible] ۔ قیمت [illegible] ۔ دیوان [illegible] [illegible] ۸ر | شہزادہ [illegible] شنوی [illegible] ناول [illegible] سال [illegible] فہرست [illegible] آنہ کا ٹکٹ آنے پر [illegible] | [illegible] سونی [illegible] یوم [illegible] یوم [illegible] [illegible] تعویذ [illegible] | روزانہ فیچر [illegible] بتایا جاتا ہے ۔ ایک آنہ [illegible] ۔ قیمت [illegible] رسالہ طبیب روحانی کے خریدار کو مفت کوئی قیمت نہیں لی جاتی ہے ۔ | رسالہ طبیب روحانی ماہوار رسالہ ہیں ۔ ماہوار سٹہ کے نمبر نکلتے رہتے ہیں ۔ جو صاحب سٹہ کے شوقین ہیں دو روپیہ سالانہ چندہ بھیجکر خریدار بن جاویں اور فائدہ اٹھاویں ۔ رسالہ کے خریداروں کو [illegible] مفت دئے جاتے ہیں ۔ ہر [illegible] میں [illegible] کی جاتی ہے |

**دفتر طبیب روحانی ماہوار رسالہ ڈاکخانہ نانوتہ ضلع سہارنپور**

ہمارے ہاں ہر قسم کی کتب مل سکتی ہیں فہرست ۱ر کا ٹکٹ بھیجکر مفت منگاویں

(نوٹ) ہرگز ہرگز بلا پیشگی محصولڈاک آئے بغیر وی پی نہ ہوگا ۔ خط لکھ کر ضائع نہ کریں

تحفہ خوبصورتی بنے گورے اور خوبصورت ہونے کی دوا قیمت ۱۲ر

اسم اعظم کی سلیمانی ہمزادی انگشتری صرف اول ہی مرتبہ ہمزاد کی شکل ہاتھ میں پہنکر دیکھو قیمت پانچ روپیہ چاندی کی ہوگی

# لڑکا ہی پیدا ہوگا

(دوائی اولاد نرینہ)

تین ماہ کا حمل مکمل ہونے کے بعد بچے کے الگ الگ اعضاء بننے لگتے ہیں پس حمل کے تین ماہ کے اندر اندر ہماری سُورج گُن والی بہت مشہور و مقبول دوائی پُترشاک حاملہ کو استعمال کرائیں تو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ زیادہ تعریف کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ آپ کو فائدے سے مطلب ہے۔ باتوں سے نہیں۔

قیمت صرف پانچ روپیہ۔ ڈاک خرچ ۵ر

**پتہ۔ کویراج ہرمداس بی۔ اے۔ لوہاری دروازہ لاہور**

---

# پرفیسر کی غلط فہمی!

جب اشتہار پڑھا ایک گدگدی سی ہوئی کہ منگاؤں پھر کہتا شاید کوئی بازاری کوک شاستر ہوگا کبھی کہتا ہے اس کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مگر اس دن ایک دوست سے تعریف سن کر منگا ہی لی کویراج صاحب! اصل دل سے تحریر کرتا ہوں کہ

## ہدایت نامہ خاوند

بلا مبالغہ بہترین کتاب ہے جو میرے مطالعہ میں آئی ہر نوجوان اس سے فائدہ حاصل کریگا۔ محمد اقبال ایم۔ اے۔ تاج محل ہوٹل ممبئی

**مصنفہ۔ کویراج ہرنام داس بی۔ اے۔ لاہور**

قیمت سستا ایڈیشن ۸ر سب کتب فروش بیچتے ہیں

---

# کھوئی ہوئی جوانی دوبارہ جسم میں پیدا ہوسکتی ہے

بشرطیکہ طاقت کی اکسیر اعظم شہنشاہی گولیاں استعمال کریں

یہ گولیاں نامردی کا واحد اور مکمل علاج ہیں جلق لگانیوالوں اور کثرت مباشرت کرنیوالوں کیلئے اکسیر اعظم ہیں اعضا کی کمزوری جریان احتلام اور سرعت انزال کو دور کرنے میں لاثانی ہیں منی کو بکثرت پیدا کر کے شہد کی طرح گاڑھا بناتی ہیں منی اولاد پیدا کرنیکے قابل ہو جاتی ہے قوت باہ بیحد بڑھ جاتی ہے نئی طاقت پیدا ہو کر جسم [illegible] بن جاتا ہے اگر تندرست آدمی بھی ان کا استعمال کریں تو بڑھاپا اور کمزوری نزدیک نہیں آنے پاتا ایک شیشی چالیس گولیاں جو کہ خوبصورت اور مشین سے تیار شدہ ہیں کی قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

**برقی طلاء** برقی طلا ان لوگوں کے لئے جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے ہاتھوں اپنا آپ تباہ کر چکے ہیں اور تمام عمر کو بیٹھے سست اور ناکارہ ہو کر اعضا میں کجی اور لاغری کی شکایت پیدا ہو گئی ہے اکسیر اعظم ہے۔ برقی طلا کو چند روز مالش کرنے سے سست اور ناکارہ رگوں اور پٹھوں کی کمزوری رفع ہو کر پہلے سے بھی زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اگر تندرست اور جوان پٹھے آدمی بھی اسکو استعمال کریں تو بڑھاپا اور کمزوری نزدیک نہیں آئیگا اور طاقت مردی برقرار رہیگی برقی طلا کے استعمال سے کسی قسم کی جلن نہیں ہوتی اور نہ آبلہ پڑتا ہے طاقت کی گولیوں کے ہمراہ برقی طلا کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ (عہ)

نوٹ۔ مندرجہ بالا ادویات سے متعلق کسی قسم کی شکایت ہو تو ہم سے پوچھئے [illegible]

**ملنے کا پتہ۔ مہندرا میڈیکل ہال ۱۲ پی بی ۱۴۸ - لاہور**

---

# خفیہ نیا کوک شاستر مفت

ولائتی اصلی پچاس فوٹو کی تصویروں کا مکمل سٹ (گلزار حسن) عاشقانہ حسن و جمال کے صاف صاف.... پوشیدہ نظارے مرد و عورت کے جوڑ دار فوٹو بلاک کی رنگین تصویریں جنکو دیکھ کر آپ تمام بازاری کوک شاستر اور چوراسی آسن کی بنی ہوئی بھدی لکیر دار واہیات تصویروں کو ایکدم بھول جائیں گے یہی وہ فوٹو کی اصلی جوڑ دار تصویریں ہیں جنکی آپکو مدت سے تلاش تھی۔ رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر دیکھنے والی اصلی پچاس فوٹو کی تصویروں کا مکمل سٹ (گلزار حسن) شوقین مزاج اصحاب کے لئے نایاب تحفہ قیمت مکمل سٹ صرف ۱۲ بارہ آنے محصول ڈاک ۶ر چھ آنے۔ ساتھ میں اصلی خفیہ کوک شاستر اور نئے سال کی جنتری بالکل مفت دی جاتی ہے۔ فوراً طلب فرمائیے۔ ایسی چیز ہے۔ ملنے کا پتہ

**ایم ایچ نیو انڈین پکچر اسٹور چوک لکھنؤ۔**

زمانہ حال کی مجلد طبی کتابوں سے اعلیٰ و ارفع بے نظیر و لاجواب مجربات کی بہترین کتاب۔

[illegible]

[illegible]

# لب المجربات

مصنفہ

عالیجناب شفاء الملک بہادر حکیم دلبر حسن خان صاحب بھٹی صدر آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس و مہتمم بھوپندر اطبیہ کالج پٹیالہ

اس کتاب میں سر سے پاؤں تک کی جملہ امراض کا عام فہم زبان میں مفصل بیان اور علاج تحریر کیا گیا ہے۔ علامات مرض کو ایسے مختصر پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ کہ معمولی اردو خواں بھی ہر ایک مرض کی بخوبی تشخیص کرکے علاج معالجہ کر سکتا ہے۔ پردہ دار عورتوں اور پوشیدہ امراض کے بیماروں کے لئے یہ کتاب نعمت عظمیٰ ہے اس میں ہر ایک نسخہ سو فی صدی مجرب ہونے کے علاوہ سہل الحصول، سہل الترکیب اور کثیر النفعت لکھا گیا ہے۔ عام امراض کے علاوہ نامردی، جریان، احتلام، سوزاک، آتشک، بانجھ پن، سیلان الرطوبت، ورم رحم، استحاضہ، قلت حیض، استقاط، درد گردہ، ضیق، سہال، سنگرہنی، برص، جذام، وجع المفاصل، کھانسی، دمہ، بواسیر، ذیابیطس، سلسل البول، قولنج، تپ دق، سل، چیچک، خسرہ، مرگی، سرسام، نسیان، خوبصورتی اور خضاب وغیرہ کے ایسے ایسے بے نظیر و لاجواب نسخے لکھے گئے ہیں کہ جن کا ہزار ہزار روپیہ میں بھی ملنا دشوار ہے۔ عالیجناب شفاء الملک بہادر نے اس کتاب کی تصنیف سے ملک پر احسان عظیم فرمایا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس نے ہزارہا انسانوں کو تباہی اور موت سے بچایا ہے۔ یہ کتاب پہلے شائع ہوتے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی تھی۔ اب دوسری دفعہ بہترین کاغذ پر نہایت خوشخط اور جلی حروف میں شائع کرائی گئی ہے نسخوں کی آزمائش کرنے والے حضرات کی تصادیق بھی ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ چونکہ یہ کتاب بہترین ہونے کے علاوہ ایک ایسی ذمہ دار اور نامور ہستی کی تصنیف ہے جسے شہرت عامہ اور تجربہ کے طبیب شاہی ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اس لئے اس کتاب کی اشاعت نہایت سرعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جو حکیم، وید، ڈاکٹر بہترین مجربات کے شائق ہوں۔ یا جن حضرات کو اپنے امراض کا خود تسلی بخش اور بے خطر علاج کرنا مقصود ہو۔ یا جو اپنی شہرت، عزت اور نیکنامی کو چار چاند لگانا چاہتے ہوں۔ انہیں یہ کتاب ضرور بالضرور اپنے زیر مطالعہ رکھنی چاہئے۔ یہ کتاب ۲۲ ابواب اور ۱۰۵ فصلوں پر منقسم ہے۔ نسخوں کی تعداد ۵۱۲ اور حجم ۳۲۰ صفحات ہے۔ باوجود اس قدر خوبیوں کے اسکی رعایتی قیمت عـ۲ اور خوبصورت جلد کی قیمت تین روپیہ مع محصولڈاک ہوگی۔ اس پر بھی پسند نہ آنے پر واپسی کی شرط ہے۔

---

## بے نظیر دوائیں

**افیون چھڑانے کی لاجواب گولیاں** ان گولیوں کے چند روزہ استعمال سے پرانے سے پرانا افیون کا بھی بلا دقت و قباحت چھوٹ جاتا ہے لطف یہ ہے کہ طبیعت میں کسی قسم کی سستی و کاہلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہزارہا دفعہ کی آزمودہ و مجرب ہیں۔ ایک تولہ روزانہ افیون کھانے والے کیلئے ایک روپیہ کی ڈیڑھ سو گولیاں کافی ہیں۔ تین سو گولیوں کی قیمت ایک روپیہ چودہ آنہ۔ چھ سو معہ ترکیب دو روپیہ بارہ آنہ۔

**اکسیر جنون** مرگی، جنون اور اختناق الرحم کی بے خطا دوا، جو لوگ ان امراض کا علاج کرتے کرتے مایوس ہو چکے ہوں۔ وہ اکسیر جنون کو ضرور آزمائیں اس بے مثل دوا سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مایوس مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پہلی خوراک ہی اپنا اثر دکھاتی ہے اور چند روز کے استعمال سے مرض کی شفا ہو جاتی ہے۔ قیمت فی شیشی تیس خوراک صرف پانچ روپے (۵؎)۔

**مقوی گولیاں** ان گولیوں کا جزو اعظم کشتہ طلا ہے اور دوسرے اجزاء ایسے شامل کئے گئے ہیں۔ جو اعلیٰ درجہ کے مقوی بھی ہونے کے علاوہ منی کو پختہ طور پر پیدا کرتے ہیں جن سے مردہ جوش میں ایک خاص طرارہ و سرور پیدا ہوتا ہے سوئی ہوئی طاقتیں جگا دینا اور مردہ انسان کو مرد کامل بنا دینا ان گولیوں کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ تندرست انسان بھی انہیں استعمال کر سکتے ہیں گئے گذرے انسان کو دو ہفتہ اور تندرست انسان کو دو دن گولیاں کافی ہیں۔ قیمت فی درجن (عـ۲)۔

**مدتوں کے تپ دق کیلئے اکسیر** تپ دق کا بے قاعدہ نشوونما حاصل کرکے بیٹھ جانا یا مریض کو حرارت غریزی کی بیقاعدگی کے ساتھ بخار کا ہر وقت رہنا اس دوا کے استعمال سے بالکل درست ہو جاتا ہے۔ گو پرانے ہو گئے آتشک اور ناسور کے بیمار بھی اس اکسیر سے شفایاب ہو جاتے ہیں۔ مدتوں کے تپ دق اور بخار کی بیقاعدگی کے لئے بے نظیر ہے۔ قیمت فی شیشی [illegible] تین روپیہ۔ خوراک ایک رتی سے دو رتی تک ہمراہ بالائی یا مکھن [illegible] دودھ سے کھانی چاہئے۔

ہر شخص حالات مرض لکھ کر مفت مشورہ حاصل کر سکتا ہے۔ جواب کیلئے ٹکٹ آنا ضروری ہے۔ فہرست کتب و ادویات مع جنتری [illegible] کا کارڈ آنے پر مفت ارسال کی جاتی ہے۔

خط و کتابت کا پتہ:- **جنرل منیجر شاہی مطب** (رجسٹرڈ) **ریاست پٹیالہ** (پنجاب)

بھوپندر اطبیہ کالج پٹیالہ کے پراسپکٹس درخواست آنے پر مفت بھیجے جاتے ہیں۔ داخلہ جون میں ہوتا ہے

آپ کی دلی

# جو چاہو گے ہو جائیگا!

صرف و عجیبی جنتری

عمل محبت کے شوقین ہمارا جنتر گوہر مراد منگوائیں۔ اسکو اپنے پاس رکھکر اپنے دل میں جس کسی کا نام لینگے۔ خواہ وہ کیسا ہی بے درد دل، مغرور اور سخت کلام کیوں نہ ہو۔ جہاں کہیں بھی ہوگا۔ آپ سے ملنے کیلئے تڑپنے لگیگا۔ اور جب بھی آپ اسکے سامنے جائینگے۔ وہ آپ سے محبت کا اظہار کریگا۔ اور ہر طرح آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش کریگا۔ نیز گمشدہ کی تلاش کرنا، کسی کے دل کا بھید دریافت کرنا، کسی چور کا پتہ لگانا۔ مردہ روح سے بات چیت کرنا غرضیکہ آپکے ہر سوال کا جواب بالکل خواب میں مل جائیگا۔ اور اگر آپکے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے۔ جو باوجود ہزار کوششوں کے بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بھی ہمارے جنتر کے پاس رکھنے کے گھنٹے تک کے وقت میں پوری ہوجائیگی۔ معاوضہ صرف ۱۵ آنے۔ محصولڈاک علیحدہ۔ غلط ثابت کرنے والے کو ۵۰ روپیہ انعام ؟

چوراسی رنگین تصویر والا

## خفیہ کوک شاستر اصلی رجسٹرڈ

عورت مرد کی چوراسی آسن کی جوڑ دار ۔ ۔ ۔ پوشیدہ رنگین تصویریں اور چوراسی آسن کے تمام اصلی حالات درج ہیں۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ سے نہ ملیگا۔ ناپسند ہونے پر واپسی کی شرط۔ حجم ۸۰ صفحات۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ بارہ آنے ۱۲/ محصول معاف۔ کم قیمت والے کوک شاستر منگا کر دھوکا نہ کھائیں صرف رجسٹری شدہ منگوائیں

(رجسٹرڈ)

## بال عمر بھر نہ اگینگے

یہ دوائی بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے۔ صرف ایک دو مرتبہ لگانے سے بال ہمیشہ کے لئے اگنے بند ہو جاتے ہیں۔ جگہ ریشم کی مانند ملائم اور صاف نکل آتی ہے۔ بے ضرر اور پاک ہے۔ غلط ثابت ہو تو دام واپس۔ قیمت عہ محصول علیحدہ

## تحفہ خوبصورتی رجسٹرڈ

اگر آپ اپنے چہرے کا رنگ کالے سے گورا تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یا اپنے مرجھائے ہوئے چہرے پر سے کیل، چھائیاں وغیرہ دور کرنیکی خواہش رکھتے ہیں تو ہمارا سائنس کے اصولوں سے تیار کردہ لنڈن بیوٹی لوشن استعمال کریں۔ آپکے چہرے کا رنگ مستقل طور پر گورا ہو جائیگا۔ قیمت فی شیشی بڑی ایک روپیہ چار آنے۔ محصولڈاک معاف ہوگا۔

ملنے کا پتہ: مینیجر امپیریل ٹریڈنگ ایجنسی۔ کراچی سندھ

---

## سرمہ گل بکاولی (رجسٹرڈ)

آنکھوں کی تمام امراض کے واسطے لاثانی ثابت ہو چکا ہے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ۔ علاوہ محصول ڈاک۔

## موہنی پارس (رجسٹرڈ)

احتلام۔ جریان، سستی، نامردی، کی مشہور دوا ہے۔ اس کی پہلی خوراک اگر اپنا اثر نہ دکھائے تو دام واپس۔ ۱۱ دن کے کھانے سے کیسا ہی کمزور آدمی کیوں نہ ہو پھر جوانی حاصل کرتا ہے۔ پوری خوراک کی قیمت پانچ روپے۔ نمونہ ۸ علاوہ محصولڈاک

**شاہی طبیب ڈاکٹر جینیلی صاحب گولڈ میڈلسٹ چھچھی محلہ لاہور**

سے طلب کریں

---

## بھرگو سنگھتا

جگت سار پرکاش کنڈلی معہ ترجمہ

سمبت ۱۹۲۰ سے ۲۰۰۰ تک کے دنیا بھر کے آدمیوں کے زائچہ کا گذشتہ موجودہ و آئندہ زندگی کا حال معلوم ہوگا۔ چار ماہ کے واسطے رعایتی قیمت ۱۰ روپیہ۔ ڈاک خرچ ۸ آنہ بعد کو سو روپیہ کو بھی نہ ملیگی۔

### بھرگو سنگھتا کنڈلی کھنڈ

معہ ترجمہ وحساب کے سمبت ۱۹۲۰ سے ۲۰۰۰ تک کے دنیا بھر کے آدمیوں کا زائچہ ان سے بنیگا۔ قیمت ۲ روپیہ۔ ڈاک خرچ آٹھ آنہ

[illegible] ۲۵

---

# یکتا مفت

یہ ہر دلعزیز کتاب یکتا مفت کویراج سراری لال وید آج تک ہزار اردو ہندی اور گورمکھی چھپکر مفت تقسیم ہو چکی ہے۔ روزانہ پڑھنے والے صرف تین پیسہ کا ٹکٹ براے خرچ ڈاک بھیجکر مفت منگالیں۔ اس لاثانی تحفہ سے کسی پبلک کو بھی محروم نہیں رہنا چاہئیے۔ دیگر اس کے علاوہ ہم نے جسم کو تندرست و توانا بنانے کیلئے گولیاں فولاد تیار کی ہیں۔ جو طاقت توانائی کیلئے بے مثال ہیں۔ اور بدن میں خوشگوار حرارت پیدا کرتے ہیں۔ اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ چند روز کے استعمال سے ہی جسمانی کمزوری، کمی خون، دل کی دھڑکن، ضعف بصارت، ذہنی، نزلہ، زکام، پریج کا پتلا پن، بدہضمی، احتلام، کمزوری گردہ، مثانہ، کثرت پیشاب، جسمانی ناطاقتی، تھوڑی سی محنت سے سانس پھول جانا۔ اٹھتے بیٹھتے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا۔ غرضیکہ ہر ایک مرض کو دور کرکے جسم کو تندرست توانا بنا دیتی ہیں۔ خون بڑھانے اور صحت کو قائم رکھنے کیلئے اس کا سال میں ایک دفعہ استعمال ہر صاحب کو کرنا چاہئیے۔ قیمت فی شیشی ۴۸ گولیاں ایک روپیہ آٹھ آنے۔

— چار شیشی منگانے پر محصولڈاک معاف —

ملنے کا پتہ:

**کویراج سراری لال ویدیا امرت فارمیسی ڈسکہ ضلع سیالکوٹ**

برانچ: ناتھو داس بیرون بھاٹی گیٹ لاہور

شاہی حکیم محمد علی صاحب مرحوم، معالج خاندان شاہی ریاست جموں وکشمیر
کا ایجاد کردہ اور ۵۷ سال کا آزمودہ

# روح جیون بوٹی

ایک مشہور عالم دوا ہے۔ ایک شیشی کے استعمال سے ایک مہینہ میں تین سیر صالح خون بدن انسان میں پیدا ہو جاتا ہے دودھ گھی جس قدر کھاؤ۔ ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ بچپن کی غلط کاریوں۔ جوانی کی بے اعتدالیوں اور کثرت عیاشی کی وجہ سے ضائع شدہ طاقت کو واپس لا کر بڑھاپے میں جوانی کے منظر دکھا دیتا ہے۔ خاص کر بوڑھوں اور ان نوجوانوں کے لئے جو چھوٹی عمر میں شادی ہونے کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصہ میں حظوظ نفسانیہ سے جواب دے بیٹھے ہوں تیر بہدف ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جس کے استعمال سے لاکھوں کے گھر اولادیں اور نامردوں کی مرادیں حاصل ہوگئیں۔ چہرہ کی زردی۔ بے رونقی اور تمام بدن کے رگوں پٹھوں کی کمزوری دفع کر کے انسان کو طاقتور جوان بنا دیتا ہے۔ چانڈو۔ شراب۔ افیون وغیرہ منشیات کی عادات چھوٹ جاتی ہیں۔ خون کو صاف کر کے بدن کو چست و چالاک بنا دینا اس کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ تمام معجونوں۔ ماء اللحموں۔ مقوی یاقوتیوں کا [illegible] اور فاسفورس کے مرکبات سے بدرجہا بہتر ثابت ہوا ہے۔ قیمت اصل فی شیشی ۴ روپیہ۔ رعایتی ایک روپیہ

**طلاء استمناء** جن کے رگ و پٹھے سوائے مادرزاد نامردی کے سست اور کمزور پڑ گئے ہوں۔ ان کو روح جیون بوٹی کے ہمراہ اس طلاء کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیگا۔ قیمت اصل فی شیشی ۵ روپیہ۔ رعایتی ایک روپیہ علاوہ

دفتر روح جیون بوٹی نمبر ۲۰ وارث روڈ لاہور

اپنا پتہ صاف اور خوشخط لکھیں۔ جنتری کا حوالہ ضرور دیں۔ جرمن ناولٹی سٹورز کراچی

دوستو!

# سات گھڑیاں بالکل مفت!

ایک عدد اصلی جرمن ٹائم پیس، چار عدد ڈمی رسٹ واچ، دو عدد ڈمی پاکٹ واچ۔ یہ گھڑیاں ہم نے بڑی بھاری تعداد میں منگوائی۔ اپنی فرم کی سالگرہ کی خوشی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص ہم سے طاقت مردمی کا طلسماتی جوہری کیس [illegible] جس سے گئی ہوئی طاقت پھر واپس آ سکتی ہے خرید کریگا ہم اسکو یہ سات عدد گھڑیاں مفت بکس کیساتھ ارسال کرینگے۔ اگر پسند نہ ہو۔ تو واپسی کی شرط ہے۔ ابھی کوئی صاحب فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اسکی قسمت قیمت پورا سیٹ صرف تین روپے آٹھ آنے۔ محصول ڈاک پیکنگ وغیرہ علیحدہ ہوگا۔ اسلئے جلدی کیجئے۔ ورنہ یہ موقع بار بار ہاتھ نہ آئیگا۔ فوراً وی پی طلب کریں۔

## جرمنی طلسمی آلہ

اگر بالکل کمزور آدمی صحت و تندرستی میں طاقتور ہونا چاہتا ہے۔ اور طاقت مردمی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بوقت ضرورت یہ آلہ استعمال کریں۔ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا۔ قیمت رعایتی فی آلہ دو روپے۔ غلط ثابت ہو تو دام واپس۔ محصولڈاک معاف

## بجلی کی عینک

جرمن سائنس کی نئی ایجاد۔ نہ لیمپ کی ضرورت نہ کسی لالٹین کی ضرورت۔ رات کو [illegible] آنکھوں پر عینک لگا کر جو کام کرنا چاہیں شروع کریں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہر ایک انسان اسکو استعمال کر سکتا ہے۔ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا۔ غلط ثابت ہو۔ تو دام واپس۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ نہ ملیگی۔ قیمت دو روپے۔

## کالا تیل رجسٹرڈ

اسی کالا تیل سے بال ہمیشہ کیلئے کالے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تمام عمر سیاہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بے نظیر سنیاسی نسخہ ہے سفید بالوں کے دھوکے سے بچو۔ غلط ثابت ہو۔ تو دام واپس۔ قیمت ایک روپیہ۔ محصول ڈاک علاوہ ہوگا۔ وی پی طلب کریں۔

ملنے کا پتہ: منیجر دی احمدیہ ناولٹی سٹورز کراچی

# تندرستی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں

ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں۔ کہ مندرجہ ذیل ادویات ویدک و یونانی گرنتھوں کے اسرار نہایت محنت و کوشش سے خالص اور تازہ جنگلی جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ہیں۔ اور ہزاروں مریضوں پر استعمال ہو کر مجرب ثابت ہو چکی ہیں۔ جو لوگ سب طرف سے مایوس ہو چکے ہوں۔ وہ ایک دفعہ ہماری ادویات منگوا کر ضرور استعمال کریں۔ ایک دفعہ کا معاملہ آپ کو ہمارا مستقل گاہک بنا دیگا۔ مفصل فہرست جس میں تمام امراض کی ادویات درج ہیں۔ مفت منگوا کر ملاحظہ کریں

**مقوی باہ گولیاں** } انکے استعمال سے مردانہ قوت لوٹ آتی ہے۔ تمام قوائے جسمانی اور اعضائے رئیسہ کو از حد طاقت پہنچتی ہے۔ کمزور اور گیا گذرا انسان بھی نوجوان پہلوان ہو جاتا ہے۔ سستی۔ کمزوری۔ کاہلی۔ نفاخت۔ جریان۔ احتلام۔ دل دھڑکنا وغیرہ وغیرہ جملہ امراض اس کے استعمال سے حکمی طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ قیمت (۴۰ گولی) دو روپیہ

**ممسک گولیاں** } نام سے ہی ظاہر ہے تعریف کرنا خلاف تہذیب ہے۔ منگوا کر تجربہ کریں قیمت (۱۲ گولی) صرف ایک روپیہ (عہ)

**سفوف نوجوانی** } جن لوگوں کے وریج میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو گیا ہو۔ دھات پانی کی طرح پتلی ہو کر بہتی ہو۔ ہر وقت تکان سستی اور کمزوری ہو گئی ہو اور دنیاوی لذت سے محروم ہو گئے ہوں۔ وہ ہمارے اس سفوف کا استعمال کریں۔ جملہ قسم کے جریان وغیرہ کو رفع کرنے میں اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ قیمت دو روپیہ

**طلسمی طلا** } جن لوگوں نے بچپن کی غلط کاریوں میں پھنس کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ اور زندہ درگور ہو گئے ہوں۔ ہمارے اس طلسمی طلا کو استعمال کریں۔ اس کی چند روزہ مالش سے مردے میں جان پڑ جاتی ہے تمام کھوئی گئی طاقتیں از سر نو بحال ہو کر بیسہ کی لاٹھ ہو جاتا ہے۔ قیمت فی شیشی عہ

**سوزاک و قرحہ** } اس جادو اثر دوائی سے دس دس بیس بیس برس کا پرانا سوزاک قرحہ جاتا رہتا ہے جلن درد۔ پیپ آنا چند روز میں بند ہو جاتا ہے نہایت مجرب ہے۔ قیمت صرف عہ

**داڑھی مونچھ بڑھانے والا تیل**

بغیر داڑھی اور مونچھ کے بھی آدمی کا چہرہ کیسا بے رونق اور بدنما معلوم ہوتا ہے چہرہ کی خوبصورتی میں حصہ گھٹ جاتی ہے۔ ہمارا تیل داڑھی اور مونچھ کو بڑھا کر خوشنما بنا دیتا ہے۔ جن کو مونچھیں بڑھانے کا شوق ہو یا کسی کے بال نہ اگتے ہوں۔ تو اس تیل کے لگانے سے جگہ کے بال اگ آتے ہیں قیمت فی شیشی بارہ آنے (۱۲ر)

## گل ویپک

یعنی

## گھر کا چراغ

جس گھر میں اولاد نہ ہو وہ گھر خانہ بے چراغ ہوتا ہے اولاد بھی دنیا میں ایک ایسی بے بہا نعمت ہے جس کے لئے ہزاروں لوگ منتیں مانتے ناک مت رگڑتے اور جنگلوں بیابانوں میں سادھو مہاتماؤں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ پس ہم ایسے لوگوں کو جو اس نعمت بے بہا سے محروم ہیں۔ خوشخبری دیتے ہیں۔ کہ اگر وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوں تو ہماری دوائی گھر کا چراغ منگوا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے تمام مانع حمل بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مرض اٹھرا۔ اسقاط حمل۔ بانجھ پن کو شرطیہ دور کرتی ہے۔ جسکے گھر میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں۔ اسکے استعمال سے اسکے گھر میں ایشور کی کرپا سے لڑکے پیدا ہونگے۔ یہ دوائی بے اولادوں کو صاحب اولاد بنانے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ قیمت صرف پانچ روپیہ للعہ

## کالی بلا افیون

ہماری ان گولیوں کے چند روزہ استعمال سے تولہ تولہ روزانہ افیون بھی بلا دقت و قباحت چھوٹ جاتی ہے۔ لطف یہ کہ طبیعت میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہزارہا دفعہ کی آزمودہ مجرب ہیں۔ ایک ماشہ روزانہ افیون کے لئے ڈیڑھ سو گولیاں کافی ہیں۔
قیمت (۱۵۰ گولی) دو روپیہ (عہ)

**روغن الفت** } یہ دوا بطور طلا کے استعمال کی جاتی ہے اس قدر لذت بخش ہے۔ کہ اس کی کیفیت صرف میاں بیوی ہی جان سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جہاں استعمال کیا۔ مرد۔ عورت ایک دوسرے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لذت۔ وہ لطف اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کہ جادو ٹونے منتر وغیرہ سب ہیچ ہو جاتے ہیں قیمت فی شیشی للعہ نصف شیشی عہ

**روغن نوجوانی** } عورتوں کی چھاتیوں کا زیادہ بڑھ جانا بھی اُن کے لئے وبال جان ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ روغن مالش کرنے سے ڈھلکتی چھاتی اصلی حالت پر آ جاتی ہے اور سخت کرتا ہے قیمت فی شیشی ہے

**سفوف شباب** } اس جادو کے سفوف کی ایک چٹکی وقت ضرورت سے چند منٹ پیشتر استعمال کرنے سے پچاس سالہ بڑھیا عورت کو پندرہ سالہ نوجوان بنا دینے کا اثر رکھتی ہے۔ شوقینوں کے لئے نایاب تحفہ نہایت مجرب ہے۔ قیمت دو روپیہ جو مدت کے لئے کافی ہے (عہ)

**خوبصورت چہرہ** } اس دوائی کے چند روز ملکر چہرہ پر مل کرنے سے چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح ہو جاتا ہے اور حسن دلفریب پیدا ہوتا ہے۔ چہرے کے داغ کیل۔ چھائیاں دور ہو کر سوہنی صورت پیدا ہوتی ہے قیمت صرف بارہ آنے ۔۔ ۔۔ (۱۲ر)

**محافظ دندان** } اس منجن کے استعمال سے دانت موتیوں کی لڑی کی طرح سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ منہ کی بدبو دور ہو کر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ دانتوں کی تمام امراض۔ ماسخورہ۔ دانت درد مسوڑھے کا سوجنا درد دانت اور کیڑا لگ جانے کو دور کرتا ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے (۸ر)

**سیلان الرحم** } یہ بڑی نامراد مرض ہے۔ عورتوں کے جسم سے ہر وقت سفید بلبلدار پانی خارج ہوتا رہتا ہے۔ جس سے وہ دن بدن کمزور ہو کر آخر زندگی سے ہاتھ دھو لیتی ہیں۔ اولاد سے محروم رہتی ہیں۔ ہماری یہ دوائی اس مرض کے دفعیہ میں اکسیر سے بڑھ کر ثابت ہوئی ہے۔ قیمت صرف دو روپے عہ

## عمر بھر بال پیدا نہ ہوں

ہماری اس دوائی کو نازک سے نازک جگہ پر چند مرتبہ ملنے سے بال ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتے ہیں کسی طرح کا داغ دھبہ نہ پڑیگا۔ جگہ ریشم کی طرح صاف و ملائم رہیگی۔ نایاب تحفہ ہے۔ جو مصیبت کے لئے مصیبت سے نجات دیگا۔ قیمت دو روپیہ (عہ)

**ملنے کا:- ویدرات پنڈت رگھناتھ داس ۱۲۵ سی ماڈل ٹاؤن۔ لاہور**

[illegible]

# علمی مذاق کی بے نظیر کتابیں

ان کتابوں کے بغیر آپ کا کتب خانہ غیر مکمل ہے۔ ان کو پڑھ کر تمام علوم و فنون میں ماہر ہو جاؤ۔ استاد کامل بنکر ہزاروں روپیہ اور نام پیدا کرو

## جوہر حکمت

ایک کتاب پچاس کتابوں کا کام دیگی۔ ڈاکٹری۔ ویدک یونانی۔ ہومیوپیتھی۔ کروموپیتھی۔ وغیرہ تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اس کو پڑھ کر پھر کسی دوسری کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہ رہیگی۔ اس میں تمام بیماریوں کے نام مع تشخیص ہر ایک زبان میں ادویات کے نام مع تاثیر و شناخت ہر زبان میں جسم انسانی کے تمام رگوں پٹھوں کے نام اور ان کی تشریح ہر زبان میں تمام امراض کا علاج ڈاکٹری ویدک۔ یونانی وغیرہ طریقوں سے حفظ صحت کے اصول۔ کھانے کی چیزوں کے متعلق طبی ہدایات ہر قسم کے کشتہ جات۔ جوہر۔ اسنس۔ تیل بنانے کے طریقے۔ حکمائے قدیم کے معمولہ نسخہ جات۔ امریکہ۔ جرمنی کی نئی تحقیقات انگریزی ادویات اور آلات کا مفصل بیان اس میں درج ہے۔ خوبصورت کپڑے کی جلد بنی ہوئی ہے قیمت فی جلد تین روپے (ستے ۳ر)

## زچہ بچہ

عورتوں کی تمام اندرونی مخصوص بیماریوں کی تشریح اور ان کا علاج بقاعدہ یونانی ویدک صدہا مختلف نسخے دائیوں اور لیڈی ڈاکٹروں کے عملی تجربات حمل کی خرابیوں کا علاج۔ بانجھ پن کا دور کرنا۔ زچہ اور بچہ کی حالتیں۔ ایام حمل کا دستور العمل بچوں کی پرورش کے ہندوستانی و انگریزی اصول۔ بچوں کی بیماریوں کے علاج وغیرہ وغیرہ درج ہیں قیمت فی جلد ڈیڑھ روپیہ (عہ)

## خوبصورتی

بصورت چہرہ دلفریب بنانا۔ کالے رنگ کو گورا کرنا۔ جسم کو سڈول بنانا۔ دانت بال۔ خوشنما رکھنے کے نسخے۔ لباس کی وضع۔ قطع۔ ہر قسم کے ناز و انداز اور حسن پیدا کرنے کے طریقے۔ چہرہ سے ہر قسم کے داغ دھبے مہاسے چھائیاں دور کرنا۔ غرضیکہ ایسے ایسے دلچسپ مضامین اس میں درج ہیں۔ قیمت سوا روپیہ (للعہ)

## علاج مفتی

ہر قسم کی بیماریوں کے لئے ایسی ادویات جن میں ایک کوڑی خرچ نہ ہو ہر مرض کا علاج۔ صرف درختوں کے چھال پتوں اور جنگلی بوٹیوں سے جو ہر جگہ مل جاویں۔ فقیروں اور دیہاتی حکیموں کے بے خطا تیر بہدف نسخے درج کیے ہیں۔ قیمت ۸ر

## سکسوئیل سائنس

یعنی

عورت مرد کے باہمی تعلقات کی نسبت زمانہ حال و قدیم کی تحقیقات کا نچوڑ

## اصلی کوک شاستر

علم النساء۔ کام سوتر کیمیائے عشرت مجربات بوعلی سینا وغیرہ نایاب کتابوں کا مجموعہ۔ اس نام کی کتابیں تو آجکل بہت بک رہی ہیں لیکن ہماری اس کتاب کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری کتاب بالکل نئی ہے۔ اس میں وہ وہ باتیں درج ہیں جن کی آجکل کے نوجوانوں کو تلاش ہے مثلاً خود طاقتور اور نوجوان بنے رہنا۔ عورت کو تمام عمر نوجوان و خوبصورت بنائے رکھنا۔ حسب دلخواہ لڑکا لڑکی پیدا کرنا نامرد اور بانجھ عورت کو صاحب اولاد کرنا۔ برتھ کنٹرول یعنی پیدائش اولاد کو روکنا۔ عورت کو خوش اور قابو میں رکھنے کے عجیب و غریب نسخے اور منتر۔ عورتوں مردوں کے اقسام ان کے جوڑے۔ مقامات شہوت پہچاننے کی تدابیر۔ بچوں کا اثر اپنے جسم کو لمبا۔ موٹا اور مضبوط کرنا ہر قسم کے بلند مسک طلا اور بال سیاہ رکھنے کے نسخے جات۔ ہر قسم کی زنانی و مردانی بیماریوں کا علاج۔ آسنوں کا بیان۔ غرضیکہ صدہا قسم کے مضامین جنکی نوجوانوں کو سخت ضرورت ہے۔ اس میں درج ہیں۔ ایک نفیس ذخیرہ ہے۔ اس کتاب سے کوئی گھر خالی نہ رہنا چاہئے قیمت خوبصورت جلد بندھی ہوئی کا صرف ڈیڑھ روپیہ (عہ)

## ملک عدم

ایک فرانسیسی فلاسفر کی نئی تحقیقات نے ملک عدم کا پتا دیا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں۔ خدا کا گھر کہاں ہے۔ بہشت دوزخ کہاں ہے۔ مرے ہوئے لوگوں سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے۔ مردہ روحوں سے امداد حاصل کرنا۔ قیامت کا حال ایسے ایسے دقیق مسائل کا حل۔ سائنس کے مطابق کر کے دکھلایا گیا ہے۔ تمام فلاسفروں کے خیالات کا نچوڑ۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (للعہ)

## خزانہ کیمیا

کیمیاگروں کے قلمی نسخے۔ گورو گوسائیں کا آزمودہ سچا کیمیا۔ پارہ کے کشتہ کا سونا چاندی و اکسیر بنانے کی ترکیبیں۔ زندہ استادوں کے تجربات۔ اس کتاب میں درج ہیں۔ قیمت دو روپیہ (عـــر)

## عطائی نسخے

دیہاتی حکیموں کے چٹکلے۔ دیہاتی ٹوٹکے۔ فقیری ٹوٹکے و مجرب ادویات جو سینہ بسینہ چلی آتی ہیں بڑی محنت و کوشش سے تلاش کر کے اس میں درج کی گئی ہیں۔ قیمت صرف (عہ)

## ہر فن مولا

تصنیف مولانا [illegible] بے نظیر کتاب قیمت عہ

## علاج نورنگی

ہر مرض کا علاج نو طرح یعنی ویدک۔ ڈاکٹری۔ یونانی ہومیوپیتھی وغیرہ وغیرہ کے ذریعہ نورنگ کا طریقہ۔ ۱۲ر

## طبیب خلوت

نامردی جریان آتشک سوزاک بواسیر وغیرہ ایسے امراض جن میں آجکل کے نوے فیصدی نوجوان مبتلا ہیں۔ اور مارے شرم کے وہ دوسرے سے اس کا علاج نہیں کراتے۔ اور زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ ان تمام امراض کی تشریح علامات اقسام اور اسباب مع علاج و پرہیز یونانی ویدک ڈاکٹری ہومیوپیتھی۔ عطائی و تدبیری طریقوں سے اس کتاب میں درج ہیں۔ تمام اعضاؤں کی بناوٹ ان پر بیماری کا اثر ہر ایک کے متعلق حکماء قدیم اور زمانہ حال کے ڈاکٹروں کی رائیں اور جدید تحقیقاتیں درج ہیں۔ قیمت صرف ڈیڑھ روپیہ (عہ)

## علاج بے دوا

نہ دوائی کھانے سے مطلب نہ لگانے کا کام۔ تمام بیماریوں کا علاج فاقہ سے۔ پرہیز سے۔ پچکاری سے۔ مالش ورزش۔ ذریعہ قوت خیالی۔ جھاڑ پھونک۔ پرانایام کے طریقوں سے۔ پانی اور سورج کی شعاعوں کے ذریعہ بجلی اور رنگ سے کرنا لکھا ہے حکماء مشرق کے مخفی اصول اور زمانہ حال کی نئی تحقیقاتیں اس میں درج ہیں۔ قیمت عہ

## دنیا کی سیر

چین۔ جاپان۔ روم۔ روس۔ مصر۔ ایران۔ سیام۔ برما۔ تبت۔ لنکا۔ امریکہ۔ حبش۔ افغانستان ترکستان وغیرہ وغیرہ تمام ملکوں کے دلچسپ حالات سیاحوں کے سفرناموں کا خلاصہ۔ ہر ملک کے عجیب و غریب رسم و رواج ہر ملک کے آدمیوں کی عادات و نرالے قانون درج ہیں قیمت عہ

## جوہر نباتات

ہر قسم کے چھوٹے بڑے درختوں کا بیان۔ انکی شناخت۔ اقسام۔ بلندی۔ عمر۔ موسم و حفاظت دیسی و انگریزی نام۔ پھلدار۔ پھولدار درختوں کا بیان۔ آرائشی پودے۔ گملے کے پودے۔ بیلدار درخت۔ ادویات میں کام آنے والے درخت ان سب کی تشریح و بیان مفصل درج ہے قیمت عہ

## جوہر زراعت

ہر قسم کے پھل۔ سبزی۔ ترکاری۔ مصالحہ ساگ غلہ وغیرہ کا مفصل بیان۔ کاشت کے طریقے۔ کھاد کا بیان اس کی شناخت۔ اصول کاشتکاری۔ بیجوں وغیرہ کا مفصل بیان درج ہے۔ قیمت ۸ر

پتہ ملنے کا:۔ مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس بکسیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

محصول ڈاک ہر چیز کا ذمہ خریدار ہے

# برف کی مانند سفید بال سیاہ بھنور ہو سکتے ہیں

اگر آپ ہمارا تیار کردہ

# مہا بھرنگراج یعنی خوشبودار خضابی تیل استعمال کریں

## اس تیل کے لاثانی فوائد نے تمام عالم کو حیرانی میں ڈال دیا ہے

کئی مہاتما سنیاسی فقیروں کی خدمت گذاری اور درجنوں قلمی ویدک گرنتھوں کے مطالعہ کے بعد بال سیاہ کرنے کے لاثانی تیل کا یہ نسخہ دستیاب ہوا ہے۔ جو کہ بالکل بے ضرر دیسی ادویات مثلاً بھنگرہ سیاہ۔ فولاد۔ ترپھلا۔ مجیٹھ وغیرہ وغیرہ ڈال کر متواتر چھ ماہ محنت کرنے کے بعد تیار ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑے دنوں تک باقاعدہ استعمال کرنے سے برف کی طرح سفید بال سیاہ بھنور ہو جاتے ہیں۔ اور آئندہ کے لئے بال جڑ سے کالے نکلتے ہیں۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے بال کمزور ہو گئے ہوں۔ تو اس کے استعمال سے بال مضبوط۔ ملائم اور ریشم کی طرح چمکدار ہو جاویں گے۔ جن لوگوں کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے۔ اگر وہ بھی اس کو استعمال کریں۔ تو پھر بڑھاپے تک اُن کے بال سفید نہ ہوں گے ٭

قیمت فی شیشی۔ دو روپیہ۔ ۳ شیشی اکٹھی منگوانے پر پانچ روپیہ (صہ) محصول ڈاک بذمہ خریدار ہے

## کالے گورے ہو گئے

کس طرح؟

### خوبصورتی کا مکمل بکس خرید کر

اگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ ہمارے چہرہ کی رنگت سفید۔ جلد گوری۔ چمکدار نرم صاف اور رنگت گلاب کے پھول کی طرح ہو جاوے اور چہرہ پر کسی طرح کا داغ دھبہ نہ رہے۔ تو اس خوبصورتی کے مکمل بکس کو منگوا لیں۔ جس میں خوبصورتی کا صابن عرق کریم پوڈر وغیرہ وغیرہ مکمل سامان موجود ہے۔ حسب ہدایت تھوڑا عرصہ تک استعمال کرنے سے چہرہ کے تمام نقائص دور ہو کر رنگت گوری اور چہرہ خوشنما ہو جاوے گا۔ آزما کر دیکھو۔ قیمت مکمل بکس کی صرف دو روپیہ آٹھ آنہ (عیہ)

## وینس ہیئر گروور

یعنی

### گنج کو دور کرنے کا تیل

جس جگہ بال پیدا نہ ہوتے ہوں۔ بال جھڑ گیا ہو۔ اس جگہ پر اس تیل کی مالش تھوڑے روز تک کرنے سے بال پیدا ہو جاوینگے۔ اگر بال گرنے شروع ہو گئے ہوں تو اس کے استعمال سے فوراً رک جاوینگے۔ اور گنجاپن بالکل دور ہو جاویگا۔ قیمت فی شیشی عہ

## صابن خارش

اس صابن کے استعمال سے تمام جلدی بیماریاں مثلاً داد چنبل خارش۔ بہت پھوڑے پھنسیاں وغیرہ وغیرہ دور ہو جاتی ہیں۔ تمام جلدی امراض کیلئے اکسیر ہے۔ قیمت ۳ ٹکیہ کا بکس عہ ایک ٹکیہ ۵ر

## حسن افزا تیل

اس تیل کے استعمال سے چہرہ کے بدنما داغ۔ چھائیاں۔ کیل۔ پھنسیاں۔ بلّم وغیرہ وغیرہ بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ نہایت خوشبودار ہے۔ تھوڑا سا روزانہ چہرہ پر ملنے سے چہرہ کو نہایت خوشنما۔ ملائم اور چمکدار بنا دیتا ہے۔ خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ عورتوں کے لئے نایاب تحفہ ہے۔ قیمت فی شیشی عہ

## پوڈر مصفی دنداں

دانتوں کا پیلا اور بدرنگ ہونا بھی چہرہ کی خوبصورتی میں فرق لاتا ہے۔ اگر آپ ہمارا یہ پوڈر روزانہ دانتوں پر ملیں گے تو فوراً آپ کے دانت موتیوں کی طرح سفید چمکدار اور مضبوط ہو جاوینگے اور دانتوں کی کل امراض بیماریاں بھی۔ [illegible] قیمت [illegible]

**ملنے کا پتہ: ایم ایل بھوت اینڈ کو بہار جوانی آفس ۱۲۵ سی ماڈل ٹاؤن (پنجاب)**

[illegible]

مُفت! مُفت!! مُفت!!!

اصلی خُفیہ باتصویر کوک شاستر

ازدواجی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی یہ پہلی ہی کتاب ہے اس میں وہ پوشیدہ راز درج ہیں جن پر عمل کرنے والے بوڑھے سے بوڑھے اور کمزور سے کمزور خاوند پر بھی اس کی نوجوان بیوی پہلے ہی روز دل و جان سے قربان ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ عاشق مزاج احباب کے لیئے خاص تحفہ ہے۔ عورت کے حسن اور مرد کے شباب کو قائم رکھنے حمل ٹھیرانے اور روکنے۔ اولاد نرینہ پیدا کرنے۔ عورت کو فریفتہ کرنے وغیرہ وغیرہ کے تمام پوشیدہ راز اسقدر واضح کر کے لکھے گئے ہیں کہ ایک دفعہ تو اس کتاب کو پڑھ کر آپکو یقین ہو جاویگا کہ اسکے جوڑ کی کتاب ہندوستان بھر میں ملنا ناممکن ہے۔ بازاری اور اشتہاری کوک شاستر اسکے سامنے ہیچ ہیں۔ علاوہ ازیں مردانہ و زنانہ پوشیدہ امراض کے وہ لاجواب مجربات اس میں درج ہیں جنکے اثر کو دیکھ کر بڑے سے بڑے حکیم اور ڈاکٹر بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایسی بیش قیمت کتاب صرف ان احباب کو مفت دی جاویگی جو اس جنتری کا حوالہ دیکر ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں لاگت اشتہار۔ پیکنگ و ڈاک خرچ کے لیئے صرف چار آنہ ۴ر کے ٹکٹ بھیجکر طلب فرماوینگے۔ آگے پیچھے طلب کرنے والے احباب سے پوری قیمت یعنی ایک روپیہ (عہ) وصول کی جاوے گی۔

ملنے کا پتہ:- یوجینکس پبلشنگ کمپنی ۱ وچھووالی۔ لاہور

بیروزگاروں کے سچے دوست

گھر بیٹھے مالامال بنا دینے والے صنعتی راز

یہ وہ قیمتی راز ہیں جنکو سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے اور سالہا سال خدمت کرنے پر بھی ماہران فن سکھانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم نے یہ راز نہایت جانفشانی اور زر کثیر صرف کر کے حاصل کئے ہیں۔ اگرچہ ایک ایک راز لاکھ لاکھ روپئے کا ہے تو بھی غریبوں اور بیروزگاروں کی امداد کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب راز اس شخص کو قبول کر کے لکھ دئے جاوینگے جو ہمیں صرف آٹھ آنہ کے ٹکٹ پیشگی بھیجدیوےگا۔ یاد رکھیں یہ راز آپکو قیمتی بازاری کتابوں میں نہیں ملینگے۔ اگر آپ گھر بیٹھے ہی پانچ سات روپیہ روزانہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو آج ہی آٹھ آنے کے ٹکٹ ارسال فرماویں۔ (مختصر فہرست مضامین) دودھ کے مرکب سے۔ آلوؤں سے اور مکی کے سوکھے تودوں سے مختلف قسم کی کاپیاں تیار کرنے کے طریقے۔ صابن سازی۔ بلیو بلیک سیاہی۔ اصلی ولایتی خضاب۔ سنو کریم۔ ٹوتھ پاؤڈر۔ بال اڑانیکا تیل و پوڈر۔ چہرے کو گورا بنانے والی ولایتی کریم۔ خوشبودار تیل۔ بوٹوں اور کالا بوٹ پالش وغیرہ وغیرہ بیسیوں قیمتی نسخے ہیں۔

ملنے کا پتہ:- یوجینکس پبلشنگ کمپنی ۱ وچھووالی۔ لاہور

EUGENICS PUBLISHING CO., WACHHOWALI LAHORE

خالص ست شلاجیت

کون ہے جو خالص ست شلاجیت کے فوائد سے واقف نہیں۔ یہ وہ اکسیر ہے جو باطریقہ استعمال کرنے سے ایک بار تو تمام جسمانی۔ دماغی۔ اعصابی اور تناسلی کمزوریوں کو رفع کر کے لاغر سے لاغر انسان کو بھی فولاد کی مانند مضبوط بنا دیتی ہے لیکن بڑے بڑے تعریفی اشتہاروں کے ذریعہ بکنے والی شلاجیت سے یہ فائدے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ عموماً یہ اشتہار علم طب اور آیوروید سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے ست شلاجیت کو ٹھیک طور پر تیار ہی نہیں کر سکتے ہم چرک و سشرت میں بیان کردہ طریقوں کے مطابق سورج کی دھوپ میں بڑی محنت سے اس کا ست تیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پہلی ہی خوراک یہ یقین دلا دیتی ہے کہ واقعی ہمارا ست شلاجیت تمام قسم کی شلاجیتوں کا سرتاج ہے۔ قیمت ۵ تولہ صرف دو روپیہ۔ ۱۰ تولہ ساڑھے تین روپیہ۔ ۲۰ تولہ چھ روپیہ۔

ملنے کا پتہ:- ست شلاجیت ۱ شیشہ موتی بازار۔ لاہور



**فتق کی پیٹی**
جن لوگوں کی آنت اتر جاتی ہے ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس بیماری کے [illegible] نہیں ہو سکتا۔ اسکے استعمال سے بیماری [illegible] نہیں [illegible] قیمت للعہ [illegible] آرڈر کے ہمراہ کمر کا ناپ آنا چاہیئے

**ربڑ کا جھاما**
اس میں نہایت خوبصورت ربڑ کی ملائم کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس سے ہاتھ منہ دھوتے وقت جسم خوب صاف ہو جاتا ہے۔ نہایت مضبوط مدتوں کام دیگا۔ قیمت [illegible]

**قینچی مشین!**
حجامت بنانے کی مشین
نہایت مضبوط اور اعلیٰ لوہے کی یہ اصلی مشین ہے۔ سر کے بال یہ مشین بڑی آسانی اور نہایت عمدگی سے کاٹ دیتی ہے۔ قیمت [illegible]

**ربڑ کی بوتل**
گرم پانی ڈالنے کے کام آنے والی ربڑ کی بوتل شفاخانوں اور گھروں [illegible] قیمت [illegible]

**ٹھنڈے چشمے**
ٹھنڈا چشمہ آپ کی آنکھوں کو دھوپ سے بچائے گا۔ قیمت مع بکس بارہ آنے ۱۲/

**ٹونو فینسی ڈائل رسٹ واچ**
اس کی شکل نہایت خوبصورت اور پیاری ہے مشینری مضبوط اور پائیدار ہے کم خرچ بالا نشین ہے عورتوں کے لئے بڑی موزوں ہے۔ قیمت للعہ چار روپے گارنٹی پانچ سال

**سنہری کیس رسٹ واچ**
یہ شادی بیاہ میں بطور تحفہ دینے کے لئے نہایت شاندار اور موزوں گھڑی ہے۔ اس کی مشین نہایت خوبصورت و مضبوط ہے قیمت صرف چھ روپے ۶ گارنٹی نو سال

**ملٹری رسٹ واچ**
یہ رسٹ واچ نہایت مضبوط اور پائیدار ہے۔ خاص طور پر تیار کروائی گئی ہے۔ [illegible] قیمت [illegible] چاندی کیس [illegible] روپے۔ گارنٹی دس سال۔

**کرومیم رسٹ واچ**
یہ گھڑی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے پسینہ سے اسکی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا۔ بڑی مضبوط اور شاندار ہے قیمت صرف آٹھ روپے ۸۔ گارنٹی دس سال۔

**فرنچ لیدر برتھ کنٹرول**
اگر آپ اولاد کی پرورش اپنے دل کی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے اور آپکی شریک حیات کی جان خطرہ میں ہے تو آپ برتھ کنٹرول کا استعمال کریں عورت کی تندرستی بھی قائم رہے گی اور حمل بھی قرار نہ پائے گا۔ قیمت مردانہ [illegible] زنانہ [illegible]

**نیو امریکن فیشن لیور رسٹ واچ**
چار جیول والی رولڈ گولڈ قیمت [illegible] کرومیم [illegible] نہایت خوبصورت ہے مرد عورت کے پہننے کے لائق ہے [illegible] وقت نہایت صحیح بتاتی ہے۔ قیمت صرف دس روپے گارنٹی [illegible] سال

**انگلش فیشن لیور رسٹ واچ**
جیول والی۔ کرومیم۔ رولڈ گولڈ۔ اس گھڑی کی مشین لیور ہے عمر بھر کام دینے والی ہے۔ رولڈ گولڈ کیس ہمیشہ مثل سونے کے رہتی ہے۔ [illegible] جیول بھی لگے ہوئے ہیں۔ قیمت [illegible] بارہ روپے۔ گارنٹی دس سال۔

**جنٹلمین پاکٹ واچ**
[illegible] قیمتی گھڑیوں کی بادشاہ ہے اسکی مشین نہایت مضبوط اور [illegible] ہے اس کی شکل بڑی پیاری ہے [illegible] وقت نہایت صحیح بتاتی ہے قیمت صرف دس روپے گارنٹی [illegible] سال

**الارم ٹائم پیس**
سونے والوں کو جگانے کے لئے الارم اعلیٰ ٹائم پیس ہے اگر آپ [illegible] وقت پر اٹھنا چاہیں تو [illegible] وقت پر آپ کو جگا دیگا۔ ماہ رمضان میں [illegible] قیمت صرف [illegible] روپے گارنٹی [illegible] سال

**حجامت بنانے کا دستی آئینہ**
حجامت بنا کر [illegible] دیکھنے کا نہایت اعلیٰ آئینہ ہے جرمنی کی بالکل نئی ایجاد ہے قیمت [illegible]

**ورزش کے [illegible] فولادی [illegible]**
اگر آپ روزانہ اس سے ورزش کریں تو تمام [illegible] بیماریاں [illegible]

**سیفٹی استرا**
[illegible]

**کپڑا سینے کی مشین!**
[illegible] مشین نہیں [illegible] قیمت [illegible]

**ربڑ کا پنکھا!**
شوقین مزاج لوگوں کی دلچسپی کا سامان۔ ایک دفعہ استعمال کیجئے فرسٹ کلاس زندگی کا لطف آئے گا نہایت کارآمد چیز ہے۔ کرسی پر رکھ کر بیٹھنے کے علاوہ [illegible] میں بھی کام آسکتا ہے قیمت صرف دو روپے

**مینیجر جنرل سپلائی سٹور لاہور**



### دودھ میں سے پانی ناپنے کا آلہ

اگر آپ خالص دودھ پینا دودکانداروں کے فریب سے بچنا چاہتے ہیں تو دودھ ناپنے کا یہ آلہ ضرور منگوائیں یہ دودھ میں پانی کی مقدار بتا دیگا قیمت ۱۲

### لوہو

زکام کا واحد علاج

اس نلکی کو ہمیشہ جیب میں رکھیے جب زکام کا حملہ ہو اسکو سونگھ لیجیے فوراً آرام آجائیگا جرمن اچھا ہے قیمت ۱۲

سیفٹی استرے کیلئے جرمن کے اعلیٰ بلیڈ فولادی قیمت فی درجن [illegible] ان بلیڈوں کو تیز کرنے کی مشین قیمت چار روپے

### آٹو میٹک پستول

دیکھنے میں بالکل اصلی پستول معلوم ہوتا ہے یہ پستول آپکی جان کا محافظ ہے بنگال و برما کے سوائے تمام ہندوستان میں بلا لائسنس استعمال کیا جا سکتا ہے قیمت مع پچاس کارتوس [illegible]

### فوٹو کیمرہ

اس کیمرہ کی مدد سے آپ ہر چیز کی تصویر اتار سکتے ہیں قیمت [illegible] فوٹو کے متعلق ضروری سامان بھی مفت طلب فرمائیں

### فٹ بال

بچوں، نوجوانوں کی ورزش کے لئے سب سے اچھی کھیل ہے سکولوں میں بچوں کو کھلائی جاتی ہے آپ بھی اپنے بچوں کیلئے ایک فٹ بال منگائیں قیمت پانچ روپے درجہ دوم چار روپے فٹ بال میں ہوا بھرنے کی پچکاری

### ٹارچ لائٹ

پاکٹ لیمپ ٹارچ بیٹری نہایت خوبصورت سو فٹ تک روشنی دیتی ہے قیمت نمبر اول [illegible] نمبر دوم [illegible]

### پیمائش کا فیتہ

یہ فیتہ عمارت وغیرہ کی پیمائش کے کام آتا ہے ۵۰ فٹ لمبا پاکٹ میں آجاتا ہے نہایت خوبصورت ہے قیمت دو روپے

### مکھن نکالنے کی آہنی مشین

اس مشین کے ذریعہ دودھ میں سے مکھن بڑی جلدی نکل آتا ہے نیز انڈے پھینٹنے کے کام بھی آتی ہے ہر گھر کیلئے مفید ہے قیمت ۱۲

### مسہری

نہایت مضبوط خوبصورت پلنگ پر کام دیتی ہے مچھر اندر نہیں آسکتے نہایت آرام دہ ہے قیمت صرف چھ روپے

### فونٹین پن سلف فلنگ

قلم جیب میں ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے جاپانی قلم جو عام بازاروں میں بکتی ہے نکمی ہوتی ہے ہمیشہ سونے کی نب والی قلم استعمال کریں جو برسوں کام دیگی نفیس مضبوط پائیدار قیمت چار روپے

### حجامت بنانے کا برش

نہایت مضبوط پائیدار خوبصورت قسم اول ۱۲ دوم ۸ اسکے علاوہ صابن شیشہ بلیڈ بھی مل سکتے ہیں

### دوربین

دوربین بھی نہایت عمدہ اور مضبوط دوربین دور کی چیز نزدیک اور نزدیک کی چیز دور دکھائی دیتی ہے جنگل گھوڑ دوڑ وغیرہ دیکھنے کیلئے بے حد مفید ہے قیمت پانچ روپے

### تعویذی قرآن مجید

اس چھوٹے سے قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو دنیا کے ہر کام میں برکت ہوگی ایک انچ لمبا ایک انچ چوڑا قیمت اعلیٰ کلاس دو روپے

### ریشمی رومال

ریشمی رومال نہایت خوبصورت اعلیٰ ڈیزائن والے پھولدار اور ایک رنگ والے قیمت [illegible]

### کشیدہ کاری کی مشین

کپڑوں پر نہایت ہی خوبصورت بیل بوٹے بنانے والی نہایت سادہ مشین قیمت تین روپے مشین کے علاوہ بیل بوٹے بنانے کی کتاب یعنی کشیدہ کاری کی اصلی کتاب جسمیں سینکڑوں قسم کے پھول جانور اور بیلوں کے ولایتی نمونے دیئے گئے ہیں اس مشین سے ریشمی اونی سوتی کشیدہ نکالا جا سکتا ہے قیمت [illegible]

### ڈیٹ بلاک کیلنڈر

دائمی کیلنڈر صدیوں تک کام دیگا مہینہ دن تاریخ سب بتاتا ہے قیمت تین روپے

### پریمس چولہا

سفری چولہا مٹی کے تیل سے جلتا ہے دھواں نام کو نہیں دیتا آنچ خوب تیز ہے ہر چیز آسانی سے تیار ہو جاتی ہے قیمت قسم اول [illegible] دوم [illegible]

### سینما مشین

گھر بیٹھے رات کو سینما دیکھنے کی مشین نہایت مضبوط و کارآمد قیمت دس روپے

**منیجر جنرل سپلائی سٹورز لاہور**

پوڈر۔ غازہ۔ گلگونہ

عورتوں کی دوائی

بندے [illegible] آویزے

بال صفا پوڈر

مردوں کی گولیاں

جھولا

آرائش جمال یا سنگار دان

برقی لاکٹ

سنگار دان

نمک مرچ پیسنے کی مشین

منیجر جنرل سپلائی سٹور لاہور

# فرانسیسی کوک شاستر

منہ بولتی تصویروں کے ذریعے اس کوک شاستر میں پیرس کی پریوں کی لطف اندوز زندگی کی داستان بیان کی گئی ہے [illegible]
کوک شاستر کی ضرورت [illegible] عورتوں کی مختلف حالتوں کا نقشہ آپ کے ذہن نشین کرنے کیلئے اس میں چالیس مختلف تصاویر بھی دی گئی ہیں [illegible]
فرانسیسی کوک شاستر [illegible] یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہو چکی [illegible]
[illegible] عورتوں کو چاہئے کہ اپنے حسن و جمال کے خزانہ کو محفوظ رکھنے کے لئے [illegible]
[illegible] شادی اور شادی کے بعد [illegible]
اس کتاب میں نوجوانوں کو بد اخلاقی سے بچانے کیلئے پوری کوشش کی گئی ہے [illegible] قیمت [illegible] علاوہ محصول ڈاک

## کاشف رموز کیمیا یا کیمیا گروں کا استاد

[illegible] کیمیا کی تاریخ کیمیاوی بوٹیوں کے افعال و خواص [illegible] کا انکشاف [illegible] جواہرات سازی کا بیان بھی دیا گیا ہے [illegible] ایشیا و یورپ کی کیمیا گری کا نچوڑ ہے [illegible] قیمت چار روپے [illegible]

## طب یونانی [illegible]

[illegible]

## اولاد نرینہ یا میٹھا پھل

[illegible] نعمت سے خالی ہیں [illegible] سب عورتوں اور اولاد کے طالب مردوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب منگا کر پڑھیں قیمت ۱۲ ا ر علاوہ [illegible]

## جادو کی پہلی دوسری [illegible]

[illegible] قیمت ۱۲ ا ر [illegible]

## معلومات بوسہ بازی

بوسہ کیا ہے بوسہ کس طرح لینا چاہئے
بوسہ عزت اور بوسہ محبت کا فرق۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بوسہ بازی کے حالات۔ بوسہ بازی کے متعلق شعر بھی لکھے گئے ہیں قیمت [illegible] علاوہ [illegible]

## فن ہپناٹزم

[illegible]

## علم ریکھا یا خط تقدیر

[illegible] تقدیر [illegible] تمہاری قسمت بیماری، شادی، اولاد [illegible] کتاب خط تقدیر علم ریکھا کی سب کتابوں کا نچوڑ ہے قیمت [illegible]

## آئینہ مسمریزم

[illegible]

## حسن و صحت بڑھانے کے نسخے

[illegible] کتاب حسن و صحت بڑھانے کے نسخے منگا کر دیکھیں اس میں [illegible] حسن کے قائم رکھنے کے درج ہیں ان کو استعمال کریں قیمت [illegible] علاوہ [illegible]

[illegible]

بازاری ادویات
بیماریٔ فن عطاری
ذخیرۃ الاطبا
قوت سماعت یا کان
نکہت اور اس کا علاج
طب کیمیائی
فادزہر سانپ کاٹے کا علاج
صحت انسان

مولود [illegible]
خوبصورتی [illegible]
دنیا کی [illegible]
[illegible]
بچوں کی پرورش
علاج [illegible]
رسالہ چشم
علاج السحر

[illegible]

محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا

## اس دنیا میں ہر شخص کیلئے زمین میں خزانہ موجود ہے



## فن زراعت و باغبانی کی بہترین کتابیں

### آپ بھی ان کتابوں کے ذریعہ زمین سے دولت جمع کر سکتے ہیں!

**کتاب الاثمار فی العلم بستان بہا**ر نواب [illegible] صاحب مرحوم کی مشہور کتاب جس میں تمام میوہ دار درختوں کی کاشت اور نگہداشت کی تدبیریں بتائی گئی ہیں کتاب باتصویر ہے اور اب بھی نہیں طبع کی گئی ہے قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

**سبزی ترکاری** اس کتاب میں ہندوستان اور ممالک غیر کی تمام ترکاریوں کی پیداوار کاشت اور کھادوں کا مفصل ذکر ہے قیمت [illegible] رعایتی ۱۲

**کاشت آلو** آلو کی کاشت و پیداوار سے دولت پیدا کرنیکے حالات [illegible] رعایتی [illegible]

**میوہ جات** میوہ دار درختوں کی پرورش کے حالات پیوند قلم کاشت کھاد [illegible] میوے لذیذ کرنیکا طریقہ میووں کی بیماریاں اور ان کے علاج قیمت [illegible] رعایتی ۱۲

**کیمیائے زراعت** اس کتاب میں تمام قابل کاشت غلوں ترکاریوں اور فصلوں کے اگنے کے حالات [illegible] قیمت [illegible] رعایتی ۱۲

**پھلواڑی** ہر قسم کے پھولوں کی پیداوار و کاشت کے مفصل حالات [illegible] رعایتی ۱۲

**صنعت تر** [illegible] فصل کی پیداوار کے مفصل حالات قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

**علاج المویشی** گائے بھینس بکری وغیرہ پالتو جانوروں کی [illegible] علاج [illegible] قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

**علاج اسپان** گھوڑوں کی [illegible] تمام امراض کا علاج قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

**معالجات انکلاب** کتوں کی پرورش اور بیماریوں کے علاج قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

**محب المویشی** [illegible] علاج قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

**بھیڑ بکری کی پرورش** بھیڑ بکری کے [illegible] پالنے اور ان سے تجارتی نفع حاصل [illegible] مفصل حالات درج ہیں قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

**شہد کی مکھی** شہد کی مکھی سے شہد حاصل کرنے اور شہد کی تجارت کے فوائد [illegible] رعایتی [illegible]

**خرگوش کی پرورش** [illegible] رعایتی [illegible]

**ریشم کا کیڑا** ریشم کے کیڑوں سے [illegible] حالات [illegible] رعایتی [illegible]

**مرغے** [illegible] ہر قسم کے مرغے [illegible] رعایتی [illegible]

**خوان نعمت** [illegible] رعایتی [illegible]

**بھوجن پرکاش** ہندوؤں کی بھاجی پوری کچوری اور [illegible] مٹھائیاں وغیرہ بنانے کی مفصل ترکیب درج ہیں [illegible] رعایتی [illegible]

## ناول۔ ڈرامے افسانے تاریخی جاسوسی اور عشقیہ

ناول مصنفہ مولانا حسین صاحب
آستانہ کی حور
ارمینیا کا چاند
بہادر دلہن
فتح یرموک
حور عرب
جنگ ایران
آفتاب عالم دو حصہ
ایران کی حسینہ
جنگ صلیب و ہلال
عرب کا چاند
مشرقی حور
کابل کی شہزادی
فتح ایران
اخت عباسہ
شیر اندلس
رومی شہزادی
فلورا فلورنڈا
منصور موہنا
حسن انجلینا
فردوس بریں
حسن بن صباح
شہید وفا
بدر النساء کی مصیبت
انگریزی بول چال
فارسی بول چال
ترکی بول چال
عربی بول چال
افغان بادشاہ

بچوں کے گیت
اسلامی کہانیاں
چٹ پٹی کہانیاں
اسیر قفس
ناول مصنفہ رینالڈس
سرگزشت جاسوس
قدیم لندن کے اسرار دو حصہ
افسانہ لندن
وطن پرست
عربی ترکی ناولوں کے ترجمہ
معرکہ تیمور
عروس فرغانہ
محبوبہ قریش
لیلائے کربلا
جنگ طرابلس
جنگ سمرنا
عربی دلہن
پرستان بغداد
محبوب وطن
امین مامون
شارل عبد الرحمن
جاسوسی ناول
فطرتی قاتل
نقاب پوش ڈاکو
ہوائی بندوق
خونی طاغ
خونی چورہ
خونی آقا
خونی بہن
خونی ایمانی
خونی منظر
خونی بھید
خونی تصویر
خونی شہزادہ
قاتل کا قاتل
طلسمی انگوٹھی
پاپوری آنکھیں
ولایتی بھوت
زندہ لاش
عشقیہ ناول

دل فگار
زن مرید
چلتا پرزہ
موتیوں کا جزیرہ
دس پونڈ کا نوٹ
عبارہ میں ہفتے
امریکہ کی نازنین
بخیل کی دولت
پرکالہ آتش
چھلاوہ
ماں کا قاتل
عاشق شیطان
سیتا
پیرس کا غنڈا
تماشہ گاہ عالم
قعر دریا
فریبی عورت
بد انجام
شمع شبستان
سیر بنگالی
طوفان بدتمیزی
خوبصورت ناگن
شگوفہ محبت
پریتم کی تلاش
خضر شباب
سلیمان عذرا
ذبیح فاطمہ
فیروز محمودہ
حمیدہ بانو
حسن پرست
قدسیہ پاکدامن
بوالہوس نواب
عصمت کا البم
بڈھے میاں
جانفروش
دلیر عاشق
رومال کا عاشق
قانون عشق
ظالم مشتاق
معشوقہ فرانس

شہنشاہ عیاران
طویلہ کی بلا
سیدر کے سر
طائر شب
پراسرار شادی
پیر فرطوت
روحوں کا اخراج
وفادار بیوی
حکیم گلباز
طلسم بنگال
جاسوسی عشقیہ ناول
شہباز ڈاکو
شہباز کی فراری
شہباز کی بیٹی
جوش انتقام
فیروز ڈاکو
عیاریاں
خونی فیروز
حسرت دیدار
نقلی تاجدار
پرفریب جسینم دو حصہ
فرعون کی بیٹی
آفتاب ایران دو حصہ
طلسمی قلعہ
خونخوار گروہ
طلسمی انگوٹھی
حسن افروز
سنگدل شہزادی
کانٹوں کی سیج
بہرام کی عیاریاں
حسین فیروزہ
داستان محبت
ترکی شہزادہ
چوری اور سینہ زوری
باغی سردار
مکار شہزادی
حسین ڈاکو
بیوی کا قاتل
بیلی جھلک
جاسوسی کرشمہ
پیا کی یاد
مصری جادوگر

منیجر جنرل اسلامی سٹور لاہور

# ہائے بیروزگاری تیرا ستیاناس! دنیا بیروزگاری سے تنگ آ گئی اسکا واحد علاج یہ ہے کہ آپ ہماری دولت پیدا کرنیوالی کتابیں منگا کر پڑھیں۔ ملک میں صنعتی تحریک اور انقلاب پیدا کرنے کیلئے ہم نے یہ کتابیں طبع کی ہیں اور ملک نے انکا شاندار خیر مقدم کیا ہے!

**بیروزگاری** کا علاج۔ جوان لوگ بیٹھکر مفلسی کا رونا روتے ہیں انکو یہ کتاب منگا کر پڑھنی چاہیئے عه رعایتی ۸ر

**شاہراہ دولت** امریکہ کے مشہور کروڑپتی مسٹر بارنم کا تجربہ دولت پیدا کرنیکے اصول عه رعایتی ۱۲ر

**مستند ذرائع معاش** کامیاب تاجروں کے حالات و تجربات معاش پیدا کرنے اور دنیا میں ترقی کرنیکے دو سو مختلف طریقے قیمت عه رعایتی ۱۲ر

**کم سرمایہ سے تجارتیں** قلیل سرمایہ سے معقول منفعت پیدا کرنے کی راہیں۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں سے ہزاروں روپیہ کمانیکے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

**سبیل دولت** دولت پیدا کرنے کے طریقے۔ مفلسی اور بیکاری کس طرح دور ہو سکتی ہے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

## حرفت و صنعت کا مکمل کورس آٹھ حصوں میں

بیروزگاری کا واحد علاج ہے۔ بیروزگاری نے ملک میں لاکھوں نوجوانوں کو تباہ حال کر دیا ہے۔ ہم نے یورپ، امریکہ اور جاپان کی تمام صنعتی کتابوں کا اس میں عرق کھینچ لیا ہے۔ اگر آپ بھی بیکار ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ قیمت حصہ اول عه رعایتی ۱۲ر، دوم عه رعایتی ۱۲ر، سوم عه رعایتی ۱۵ر، چہارم عه رعایتی ۱۵ر، پنجم عه رعایتی ۱۵ر، ششم عه رعایتی ۱۵ر، ہفتم ۴ر رعایتی ۳ر، ہشتم ۸ر رعایتی ۶ر۔ مکمل سیٹ رعایتی

## مکمل مرغی خانہ

**مرغبانی کا علاج** مصنفہ نواب حاجی محمد اسمٰعیل صاحب آگرہ

ہر مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو ہماری کتاب مکمل مرغی خانہ منگا کر پڑھیں۔ یہ کتاب پندرہ دفعہ چھپ چکی ہے۔ ملک نے اس کو بے حد پسند کیا ہے۔ قیمت اصلی عه رعایتی ۱۲ر

مرغیوں کی پرورش، تجارت، علاج کے مکمل حالات عه رعایتی ۱۲ر

## دندان سازی

آپ اگر گھر بیٹھے دندان ساز بننا چاہتے ہیں تو ہماری دندان سازی منگا کر پڑھیں اسمیں مصنوعی دانت بنانے، دانتوں پر سونا چڑھانے، پالش چڑھانے، جبڑا تیار کرنیکے مفصل حالات۔ عه رعایتی ۱۲ر

## مکمل صابون سازی

ہر قسم کے دیسی انگریزی صابن بنانے کی مفصل ترکیبیں، صابن کا کارخانہ چلانے اور اس کو تجارتی طور پر کامیاب کرنیکے حالات قیمت عه رعایتی ۱۲ر

## انیملنگ یا تام چینی

لوہے کے برتنوں اور سائن بورڈوں پر تام چینی چڑھانے کے طریقے۔ انیمل کا رنگ بنانے، بھٹی کے ذریعہ رنگ چڑھانے کے مفصل حالات قیمت عه رعایتی ۱۲ر

## کارخانہ دھلائی یا لانڈری

سرد و گرم اور ہر قسم کے ریشمی پارچات دھونے، ڈرائی کلین کرنے کی ترکیبیں، دھوبی خانہ سے دولت کمانے کے حالات قیمت عه رعایتی ۱۲ر

## گھڑی سازی

گھڑیاں، ٹائم پیس، کلاک وغیرہ درست کرنے کا مکمل کورس۔ اس کتاب کی مدد سے آپ بلا کسی استاد کے گھڑی ساز بن سکتے ہیں۔ یہ کتاب باتصویر ہے قیمت عه رعایتی ۱۲ر

## داغ دھبے دور کرنا

کپڑے، لکڑی، کاغذ، دھات وغیرہ سے داغ دھبے دور کرنے کے کیمیائی طریقے۔ ۲۵۰ مجرب نسخے انگریزی سے ترجمہ کر کے لکھے گئے ہیں۔ ہر گھر کیلئے یہ کتاب مفید ہے قیمت اصلی دس آنہ رعایتی ۸ر

## گلٹ سازی

بجلی کے ذریعہ مختلف دھاتوں پر گلٹ کرنیکے کیمیائی طریقے ۸ر رعایتی ۶ر

## آتشبازی

یورپین اور ہندوستانی آتشبازی بنانیکے ۵۰ مجرب طریقے جن سے آتشباز آتشبازی بناتے ہیں یا رود، فلیتہ وغیرہ تیار کرنیکی ترکیبیں ۱۲ر رعایتی

## تیل عطر بنانا

ہر قسم کے خوشبودار تیل بنانیکے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

## شربت سازی

ہر قسم کے پھل، پھول، جڑی بوٹیوں سے شربت بنانیکے طریقے ۸ر رعایتی ۶ر

## دیاسلائی بنانا

ہندوستان میں کروڑوں روپیہ کی دیاسلائی ہر سال باہر سے آتی ہے۔ اس کتاب میں دیاسلائی کا کارخانہ بنانے، مشین لگانے اور مختلف کارخانوں کے حالات درج ہیں قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

## بسکٹ فیکٹری

ہندوستان میں ہر سال لاکھوں روپیہ کے بسکٹ غیر ممالک سے آتے ہیں۔ ہندوستان میں بسکٹ بنانا کیمیاگری سے کم نہیں۔ اس کتاب میں ہر قسم کے بسکٹ، کیک، ڈبل روٹی بنانیکے مفصل حالات درج ہیں قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

## وارنش پالش

ہر قسم کے روغن وارنش ہر قسم کے روغن وارنش بنانے اور جاپانی رنگ، بلیک جاپان وغیرہ تیار کرنیکے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر۔ لکڑی، لوہا، پتھر، پیتل اور تانبہ وغیرہ پر پالش کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں قیمت ۴ر رعایتی ۳ر

| | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکمل ریونیم گائیڈ | عه | ۱۲ر | گھر کا درزی | ۸ر | ۶ر | موم بتی بنانا | ۴ر | ۳ر | [illegible] یا پالش | ۸ر | ۶ر | [illegible] | ۸ر | ۶ر | استاد فوٹوگرافی | ۸ر | ۶ر |
| دباغت چمڑا رنگنا | ۴ر | ۳ر | لوہا ڈھالنا | ۴ر | ۳ر | سلائی کی مشین | ۸ر | ۶ر | ریشم زین کی ایجاد دوسری | ۸ر | ۶ر | جلد سازی | ۸ر | ۶ر | چھتریاں چاقو بنانا | ۴ر | ۳ر |
| روشنائیاں بنانا | ۸ر | ۶ر | رنگائی چھپائی | ۸ر | ۶ر | چینی مٹی اور اسکے مصنوعات | ۸ر | ۶ر | چینی کے برتنوں پر کلائی چڑھانا | ۸ر | ۶ر | نقلی جواہرات | ۴ر | ۳ر | آبپاشی | ۴ر | ۳ر |
| مصنوعی دھاتیں یا ملمع لگانا | ۸ر | ۶ر | کشیدہ کاری | عه | ۱۵ر | | | | | | | ڈیکوریشن | ۸ر | ۶ر | فائر برک | ۴ر | ۳ر |
| | | | استاد اشتہار نویسی | عه | ۱۲ر | آئینہ جواہرات | عه | ۱۲ر | فروٹ کیننگ | عه | ۱۲ر | رسالہ خوشبویات بنانا | ۸ر | ۶ر | سیمنٹ بنانا | ۸ر | ۶ر |

کلیشہ ایم محمد حسین قریشی لاہور

**منیجر جنرل سپلائی سٹور لاہور**

محصولڈاک بذمہ خریدار

8

## خزائن الادویہ



خزائن الادویہ
آٹھ جلدوں میں

[illegible]

## مجربات حفظ صحت

[illegible]

## لطائف آصفیہ

[illegible]



[illegible]

[illegible]

دیوان داغ
دیوان ذوق
دیوان ناسخ

[illegible]

# طلسمات مسمریزم عُرف کراماتی علم باتصویر

## فن مسمریزم ہپناٹزم۔ روشن ضمیری علم الغیب و تھاٹ ریڈنگ پر ایسی نایاب و لاثانی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی

معزز شائقین! علم مسمریزم و ہپناٹزم کے سیکھنے سے بڑے بڑے عجیب و غریب و حیرت انگیز کام کئے جا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ہر اول ہوتے ہیں۔ نئی نئی باتیں اور عجوبے دیکھنے میں آتے ہیں۔ انسان اس علم کے ذریعے ساحر اور داخل کشف و کرامات و باکمال جادوگر بن سکتا ہے اور بڑی بڑی پوشیدہ باتیں جان کر ساری دنیا کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ اس علم پر آپ نے بیسیوں بازاری و اشتہاری کتابیں دیکھی ہونگی۔ مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ فن مسمریزم و ہپناٹزم پر ایسی نادر اور مکمل و آسان عملی کتاب آج تک آپ کی نظروں سے کبھی نہ گذری ہوگی۔ کیونکہ اس میں ہندوستانی جوگیوں، تارک الدنیا مہاتماؤں، سنیاسیوں، کراماتی فقیروں و امریکہ کے باکمال جادوگروں و مسمرائزروں کے سینوں کے راز جو کہ آج تک تحریر میں نہ آسکے۔ نیز مسمریزم و جادو کے وہ راز جن کو اکثر ہندو مشاق فقیر اپنے سینوں میں لیکر گوشہ قبر میں چلے گئے۔ مصنف نے ان رازوں کو بڑی محنت و جانفشانی سے حاصل کر کے اپنے ذاتی تجربات میں لا کر کتابی شکل میں ایسے عمل پیرایہ سے درج کیا ہے۔ کہ جن کو کند سے کند ذہن شخص بھی معمولی سمجھ و [illegible] علم مسمریزم و باکمال جادوگر بن سکتا ہے۔ کتاب کیا ہے۔ اسرار مسمریزم کا عملی و علمی خزانہ ہے۔ اس میں مسمریزم، ہپناٹزم، روشن ضمیری، ٹیلی پیتھی، علم غیب دانی وغیرہ وغیرہ کے سینکڑوں عملیات و عملی اسباق معہ مکمل ہدایات نقشے ملیں گے۔ مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو۔ آغاز مسمریزم، مسمریزم کی تاریخ، ماہیت مسمریزم کی [illegible]۔ یکسوئی قلب۔ یکسوئی دماغ۔ تصور۔ مسمریزم اور قوت۔ پھونک کا جادو۔ خیالات کا جادو و ماسرا کے پردے۔ مشکلات سے چھٹکارا۔ پاگلوں کی نجات کیسی مجمع کو ہپناٹائز کرنا۔ ٹیلی پیتھی۔ مسمریزم کے ذریعے روپیہ کمانے کا طریقہ۔ بغیر ہوا تین دن تک زمین میں بند رہنا۔ انسان کو ہوا میں لٹکانا۔ انسان کو ہوا میں اڑانا۔ اڑتے ہوئے پرندہ کو مسمرائز کر دینا۔ دوسرے کے دل کی بات آناً فاناً جان لینا۔ مدفون خزانوں کا پتہ دینا۔ مردہ روحوں سے ملاقات کے طریقے۔ انسان کو دوسرے قالب میں تبدیل کر کے دکھانا۔ دنیا کے [illegible] وقت کے لئے بند کر دینا۔ کسی کو ڈاک و تار کے ذریعہ مسمرائز کرنا۔ مسمریزم کے ذریعے چوری کا سراغ لگانا۔ جادوؤں کو تسخیر کرنے کا طریقہ۔ گیان اندری کے درشن کرنا۔ بغیر غذا ایک سال تک زندہ رہ سکنا۔ مسمریزم کے ذریعہ سر سے لیکر پاؤں تک کی ہر ایک بیماری کا علاج بلا دوا کرنا۔ اور گھر بیٹھے بے شمار دولت عزت و شہرت حاصل کرنا۔ ایک مقام پر بیٹھ کر دوسرے مقام کے آدمی کو ہپناٹائز کر کے تیسرے مقام کے آدمی سے عملی گفتگو کرنا۔ حب کے عملی سبق۔ تسخیر محبوب۔ ماہی بے آب کی طرح تڑپا دینے والا عمل۔ تسخیر قلب۔ [illegible] حسن۔ سنگدل کو موم بنانا۔ مقدمہ بازی و حاکم سے حسب منشاء کام نکلوانا۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل کا حال بتانے کا طریقہ۔ حلقہ بگوشی۔ ایک کو دوسرے پر فریفتہ کرنا۔ تسخیر [illegible] دور دراز کے علاقہ پر رہتا ہو۔ گذشتہ حالات جنگ کا نظارہ دکھلانا۔ مسمریزم کے ذریعہ کھائی ہوئی چیز بنا دینا۔ جن و آسیب کے اثر کو دور کرنا۔ [illegible] دکھلانا۔ دماغی اجزا اور ان پر علم مسمریزم کے عمل کا نقشہ۔ ڈاکٹر [illegible] صاحب کے فلک شگاف تجربات طلسم اولاد یعنی جن کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوتی ہو یا پیدا ہو کر مر جاتی ہو علم مسمریزم کے ذریعے حسب منشاء اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ عجیب ذاتی کے مظہر سے دکھلانا۔ معمول کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسٹیج پر [illegible] دینا۔ پھر وہ روشن ضمیر ہو کر حاضرین کے ہر سوال کا جواب و ہر ایک کے ہاتھ کی چیز کا جواب جتلا دیگا۔ محض اسی کھیل کے ذریعے آپ کافی روپیہ کما سکتے ہیں۔ نظر بندی کے مختلف طریقے۔ دوسری دنیا کی سیر کرنا۔ وہ مقام پاک جہاں جاتے ظاہری ہوش و حواس کا پتہ نہیں رہتا۔ وہاں کے حالات قلمبند کرنا۔ ذاتی روشن ضمیری سے اپنے آپ کو طلسمی نیند میں سلا کر زمانہ گذشتہ و آئندہ کے حالات معلوم کرنا۔ [illegible] تک تندرست و جوان رہنے کا راز۔ بد چلن کو نیک چلن بنانا۔ مرنے کا حال چھ ماہ پہلے معلوم کر لینا۔ مسمریزم کے ذریعے ہر قسم کی پیشگوئی یعنی آئندہ ہر قسم کے واقعات کو پہلے خواب میں معلوم کرنا۔ گمشدہ کا پتہ لگانا۔ بند صندوق کے اندر کی اشیاء بتلا دینا۔ کسی کے بالوں کو چھو کر اس کی بیتی ہوئی زندگی کے حالات بتلا دینا۔ چھڑی کو سانپ بنانا۔ مسمریزم کے ذریعے کاروبار کو ترقی دینا۔ فاصلے پر کھڑے ہو کر چراغ گل کر دینا۔ اندھیرے میں کتاب پڑھ لینا۔ مسمریزم کے آلے بنا کر سینکڑوں روپے کمانا۔ مسمریزم کا ایک کراماتی آلہ بنانا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے آپ روشن ضمیر ہو کر آپ اپنے آپ کو ایک فرحت افزا اور خوشبودار باغ میں پاؤ گے۔ اس کے درمیان سنگ مرمر کا ایک عالیشان محل واقع ہوگا۔ اس محل کے عین سامنے ایک بارہ دری واقع ہوگی۔ بارہ دری میں روحوں کا بادشاہ معہ اراکین کے جلوہ فگن ہوگا۔ اس سے ہر ایک سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک ملیگا۔ خواہ تحریری خواہ زبانی۔ اس آلہ کو فروخت کر کے آپ سینکڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے ساری دنیا کی سیر۔ مسمریزم کا ایک ایسا عمل جس کے ذریعے آپ رات کو سوتے وقت تمام ملکوں کی سیر۔ انگلینڈ۔ یورپ۔ افریقہ۔ امریکہ کی سیر بخوبی کر سکو گے۔ جس سے آپ کو ایسی خوشی حاصل ہوگی۔ کہ اپنے آپ کو ہفت اقلیم کا بادشاہ سمجھنے لگو گے۔ مسمریزم کا آلہ پلانچٹ جس کے ذریعہ مردہ روحوں سے بات چیت کی جاتی ہے۔ جس کو [illegible] چار روپوں میں فروخت کر رہے ہیں۔ آپ بھی بنا کر فروخت کر کے روپیہ کما سکتے ہیں۔ مسمریزم کے ذریعہ [illegible] کے درشن۔ دوزخ کا نظارہ۔ اسم اعظم مسمریزم کا وہ راز جس کو پا کر کوئی خواہش باقی نہیں رہتی ہے اس کے ذریعے عامل اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ [illegible] مسمریزم کے اس مشہور راگ کا نام ہے۔ جس پر ساری دنیا فریفتہ ہے۔ جو انتہا درجہ کا مؤثر ہے اور ہمیشہ ہر قائم رہنے والا ہے۔ اس کے سنتے ہی انسان ایسا مست ہوتا جاتا ہے۔ کہ اسے دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ اس راگ کے حاصل کرنے کا مکمل عمل و سبق و ہدایات ہماری کتاب میں ملیں گے وغیرہ وغیرہ اسی قسم کے سینکڑوں **طلسمات** ہماری کتاب میں ملیں گے۔ بوجہ عدم گنجائش چند ایک کا ذکر بیان کر دیا گیا ہے۔ زیادہ خوبیاں دیکھنے پر منکشف ہوں گی۔ سچ پوچھو تو جوتش کی مشہور کتاب بھرگو سنگھتا بھی ہماری کتاب **طلسمات مسمریزم** سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ممالک غیر یعنی افریقہ۔ یورپ و امریکہ میں ۹۵ فیصدی آدمی **اس علم** کے ذریعے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آرڈر کے ہمراہ راز داری کے علاوہ اس قسم کی ایک حلفیہ تحریر آنی چاہئے۔ کہ آپ ہمارے بتلائے ہوئے طلسمات و عملی اسباق سے ناجائز فائدہ ہرگز نہ اٹھائیں گے۔ ورنہ تعمیل نہ ہوگی۔ وجہ یہ کہ **طلسمات مسمریزم** کوئی قصہ یا کہانی یا بازاری کتاب نہیں ہے۔ جو کہ سراسر لغو اور بے بنیاد ہوتی ہیں۔ یہ **طلسمات** مسمریزم کے عملیات بالکل آسان سہل الحصول اور زود الاثر ہیں۔ [illegible] نہ ہی کسی قسم کا نقصان و ڈر کوئی ڈر ہے اور نہ ہی یہ علم قسمت کا یا جنتر منتر وغیرہ سے ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کتاب طلسمات مسمریزم عرف کراماتی علم باتصویر مجلد [illegible] صرف [illegible] کے لئے صرف تین روپے جو کہ مفت کے برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ تقریباً ہر ایک عمل و سبق کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھلائی گئی ہیں تاکہ عامل ہر ایک بات آسانی سے سمجھ سکے۔ کاغذ عمدہ اور خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے۔ کتاب بہت ہی محنت و جانفشانی سے تیار کرائی گئی ہے۔ آج ہی طلب کرو۔ ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔ اسکی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ ناپسند کرنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

**پتہ:- دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس ع ۵ ملتان شہر**

بیسویں صدی کا عجیب و غریب حیرت انگیز سب سے بڑا اندرجال بزبان اردو موسومہ

# ہمالہ تنتر عرف لنکا کا جادو باتصویر

## تنتر ودیا پر مکمل اور لاثانی کتاب اس سے بڑھ کر دنیا بھر میں آپ کو کہیں سے نہ ملیگی

**معزز ناظرین!** اب جنتر منتر تنتروں کا زمانہ گذر چکا ہے۔ ہر طرح سائنس نے ہر قسم کی مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ جو کام جنتروں منتروں کی کئی قسم کی تکلیفوں مصیبتوں اور عرصہ دراز کی محنتوں اور مشقتوں و چلہ کشی وغیرہ سے ہوا کرتے تھے۔ وہ آج تنتر ودیا سے نہایت آسانی سے حل کئے جاتے ہیں۔ اب نئی روشنی کا زمانہ ہے جس میں پرانے توہمات سے خلق عامہ کی توجہ ہٹ کر اب تنتروں کی طرف آ رہی ہے جس کی وجہ ظاہر من الشمس ہے۔ کہ تنتر اپنی طاقت آپ ہی فوراً دکھا دیتے ہیں۔ اور اپنا اثر آپ ہی ہوتے ہیں۔ بس اس عالم کے متعلق دنیا بھر میں ابھی تک صرف یہی ایک ہی مکمل کتاب ہے جو کہ نہایت ہی آسان اور عام فہم اردو میں ایسے پیرایہ میں لکھی گئی ہے جس کو ایک بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور ہر قسم کا تنتر تیار کر کے کامیاب ہو سکتا ہے گویا کہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ایک قیمتی موتیوں سے ترتیب دی ہوئی مالا ہے جس کا ایک ایک تنتر موتیوں سے لدا پڑا ہے۔ بوجہ عدم گنجائش چند تنتروں کی فہرست درج ذیل کی جاتی ہے۔ ۱۔ اے میرے خدا یا پرماتما کے درشن کرنا MY GOD ۔ ۱ استری وشی کرن تنتر محبوب کو پان یا الائچی یا مٹھائی یا لونگ اور چیز کھلا کر مطیع کرنے کے تنتر۔ راہ چلتے محبوب سے آنکھیں لڑا کر مطیع کرنا۔ پھول وغیرہ سونگھا کر محبوب کو مطیع کرنے کے تنتر۔ ایک ایسا زود اثر مجرب تنتر جس کے ذریعہ محبوب خود بخود آپ کے گھر چلا آئیگا۔ سب سے بڑا تنتر ہے جس سے تمام دنیا مسخر ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اولاد پیدا کرنے کا تنتر۔ اولاد نرینہ پیدا ہونے کا تنتر۔ [illegible] کو دیکھنا [illegible] انسان کا حیوان اور حیوان کا انسان بنانا۔ تنتروں کی رات اور رات کا دن بنانا۔ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر [illegible] آسمان سے [illegible] کی حالت میں پریوں کا اتر آنا۔ زمین میں سے [illegible] اور درخت کا نمودار ہونا۔ [illegible] ملاقات اور بات چیت کرنے کا تنتر۔ [illegible] بھوت [illegible] کے حالات معلوم کرنے کا تنتر۔ [illegible] آج کا دن کیسے گذریگا۔ درازی عمر کا مجرب تنتر۔ ۱۰۰ سال تک تندرست جوان بنے رہنے کا تنتر۔ بال ہمیشہ سیاہ رہنے کا [illegible] معلوم کرنے کا تنتر۔ [illegible] بارش کرنا۔ طوفان [illegible] پانی [illegible] آسمان پر [illegible] بجلی چمکنے لگے۔ [illegible] عجیب و غریب حیرت انگیز [illegible] پانی اور آگ [illegible] کی تمام بیماریوں کا علاج [illegible] ستارہ قسمت [illegible] آسان علاج۔ ولادت میں آسانی۔ بغیر دوا [illegible] پیدا کرنا۔ [illegible] کامیابی حاصل کرنے والا تنتر۔ غائب کی باتیں معلوم کرنے کا تنتر۔ [illegible] عورت کا بھید معلوم کرنے کا تنتر۔ [illegible] سگریٹ [illegible] ہزاروں تنتر تیار کرنا۔ [illegible] سینکڑوں قسم کے شعبدات تیار کرنا۔ [illegible] ہدایات وغیرہ جس کے ذریعے آپ معقول روزگار [illegible] تمام اخباروں میں شائع ہوتے رہتے [illegible] عجیب و غریب روحانی کرشمات [illegible] جس کا اشتہار دے کر [illegible] معلوم ہو سکے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی [illegible] عجیب و غریب حیرت انگیز [illegible] کے دل کا بھید بتلا دیگا۔ [illegible] ہماری کتاب میں ملیگا [illegible] پانچ مرد یا عورت کے دل پر [illegible] ہماری کتاب کے آخر میں [illegible] کا نمبر معلوم کرنے کا آسان و مجرب تنتر [illegible] لاثانی تنتر ملیگا۔ جس کو آپ اور کسی سے حاصل نہ کر سکیں گے [illegible] دوسری کتاب میں نہ ملیگا [illegible] بوجہ عدم گنجائش صرف چند تنتروں کا ذکر بیان کیا گیا ہے زیادہ حال دیکھنے پر معلوم [illegible] کتاب کیا ہے۔ کتاب ایک [illegible] تنتروں کا مجموعہ ہے۔ جو کئی سالوں کی لگاتار محنت و مشقت و زر کثیر خرچ کر کے تیار ہوئی ہے [illegible] ہمارے **اندرجال** کا مطالعہ کرے اور [illegible] مجرب المجرب اور لاکھ روپیہ کا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت اس نادر و نایاب بڑا اندرجال موسومہ ہمالہ تنتر عرف لنکا کا جادو باتصویر [illegible] قیمت صرف دس روپیہ مقرر کی ہے۔ مگر اس خیال سے کہ کم استطاعت کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لئے رعایتی قیمت صرف اول ایڈیشن کی [illegible] صرف چار روپے لی جاویگی۔ [illegible] تنتروں کے ساتھ ساتھ آسانی سے سمجھنے کے لئے موقع بموقع تصویریں [illegible] آج ہی طلب کرو [illegible] صرف چند جلدیں باقی رہ گئی ہیں [illegible] اندرجال کے تنتروں سے ناجائز فائدہ ہرگز ہرگز نہ اٹھائیں گے [illegible] ورنہ تعمیل ارشاد نہ ہوگی [illegible] کم قیمت کے لالچ میں آ کر [illegible] اندرجال کتاب [illegible] واپس کی جاتی ہے [illegible] فائدہ اٹھا سکتا ہے

پتہ: دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس نمبر ۵ ملتان شہر

# گھر بیٹھے علم مسمریزم و ہپناٹزم عمل حب تسخیر ہمزاد و تنتر و جادو سیکھنے کی عجیب و غریب کتب جن کی ملک بھر میں دھوم ہے ملاحظہ فرمائیے

## قانون محبت عرف کالا جادو

### (عمل حب کا مکمل کورس)

کہاں ہیں وہ بدنصیب عشاق جو دیدار یار کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو آمادہ ہیں۔ آئیں اور کالا جادو کے ذریعے وصل یار کا لطف حاصل کریں۔ کالا جادو کو عام اشتہاری یا بازاری کتابوں جیسا شمار کرنا سراسر ظلم ہو گا۔ جس میں ناممکن العمل اور لایعنی عملیات ہوتے ہیں۔ بلکہ اس میں حسینوں کو تسخیر کرنے اور ان کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے عجیب و غریب حیرت انگیز مجرب خفیہ کالے جادو آپ کو ملیں گے۔ جن کو عمل کرنے کے لئے کسی جنگل یا پہاڑ پر نہیں جانا پڑتا۔ بلکہ گھر بیٹھے چند گھنٹوں میں ہر ایک عمل کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ کل عمر کے لئے کار آمد ہو جاتا ہے۔ قانون محبت کے مطالعہ سے آپ کا دامن امید گوہر مراد سے بھر جائے گا اور ایسی خوشی حاصل ہو گی کہ لفظوں میں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کالا جادو کے ذریعے پتھر دل معشوق کو اپنا مطیع کرنا۔ حاکم یا افسر کو اپنے اوپر مہربان بنانا۔ دشمن کو زیر کر کے اپنا فرمانبردار بنا لینا۔ نیز انسان کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر کل معشوق کو دیکھنا۔ مگر خود کسی کو نظر نہ آنا۔ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو سکتا۔ مختصر فہرست عملیات کالا جادو ملاحظہ ہو:۔ مردوں کو بذریعہ ناخن مطیع کرنا۔ بذریعہ گفتگو بس میں کرنا۔ قوت ارادی و بذریعہ مسمریزم دوسروں کو بس میں کرنے کے طریقے۔ وہ جادو جو کہ بنگال میں کسی کنواری لڑکی سے حاصل کیا گیا ہو۔ جادوؤں والا مکمل عمل۔ بیبیوں ناخنوں والے جادو۔ بنگالی تیر والا عمل۔ دیوالی کی رات والا عمل۔ سورج گرہن و چاند گرہن پر پڑھنے والے عملیات۔ سیاہ کتے والا عمل۔ بلی کا عجیب عمل۔ پھول و عطر پر پڑھنے و سنگھانے والے عملیات۔ سیاہی والا عمل۔ دھی کرن یوگا۔ بس میں کرنے والے کا عمل۔ وغیرہ وغیرہ بوجہ عدم گنجائش ہم نے صرف چند ہی کا ذکر بیان کر دیا ہے مگر کتاب کالا جادو میں آپ کو عمل حب کے اڑھائی سو (۲۵۰) کالے جادو و پچاس عملی اسباق بمعہ مکمل ہدایات و ترکیب کے ملیں گے۔ جن پر عمل کرنے سے آپ ہر شخص کو مطیع کر کے ہر ایک حسب منشاء کام نکلوا سکتے ہیں۔ ہمارے اسباق و عملیات نہایت ہی آسان اور سیدھے سادھے ہیں۔ دوران عمل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا دقت پیش نہیں آتی۔ نہ ہی کسی قسم کا خوف و ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور نہ ہی یہ عملیات کسی مذہب و ملت کے خلاف ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر مذہب و ملت کا آدمی ہمارے عملیات و اسباق کے ذریعے کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کالا جادو فی جلد رعایتی صرف دو روپیہ [illegible] ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

## اسرار ہمزاد عرف زندہ جادو باتصویر

### تسخیر ہمزاد کا مکمل کورس

ہمارا دعوی ہے کہ تسخیر ہمزاد پر ایسی نایاب کتاب اردو زبان میں کبھی شائع نہیں ہوئی [illegible] میں تسخیر ہمزاد کے بڑے بڑے دعوے کئے جاتے ہیں۔ مگر کتابوں کی مدد سے کتنے آدمیوں نے ہمزاد کو دیکھا۔ ہمارا دعوی ہے کہ ہم ہر شخص کو پہلے روز ہمزاد دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے اسباق نہایت آسان اور سیدھے سادھے ہیں۔ جن کے ذریعے ہمزاد پہلے ہی دن نظر آ جاتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ مشق سے چند روز میں آپ سے ہمکلام ہو گا۔ اور آپ کا ہر مشکل سے مشکل کام سرانجام دے سکے گا۔ تسخیر ہمزاد کے ذریعے ہر شخص گھر بیٹھے الانواع و اقسام کے تحفے بے موسم کے پھل۔ نیز دور دراز کی خبریں پل بھر میں منگوا سکتا ہے۔ نیز پتھر دل معشوق کو فوراً مطیع کرنا۔ گمشدہ کی تلاش کرنا۔ موت کا حال چھ ماہ پہلے معلوم کرنا۔ لاعلاج اور مہلک بیماریوں کا علاج منٹوں میں کرنا۔ دوسرے کے دل کی بات جان لینا۔ نیز زمانہ ماضی۔ حال و مستقبل کے حالات معلوم کرنا۔ عامل کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گا۔ تھوڑے دنوں میں آپ کے اندر ایک نمایاں تبدیلی واقع ہو گی۔ اور ہمزاد آپ کو بے اندازہ دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ہماری کتاب میں تسخیر ہمزاد کے ۱۴ عملیات بمعہ چند عملی اسباق و مکمل ہدایات کے ملیں گے۔ مختصر فہرست ملاحظہ ہو:۔ تسخیر ہمزاد کے لئے ہدایات و [illegible]۔ قوت ارادی و تصور۔ قوت خیالی کے ذریعہ تسخیر ہمزاد و ہدایات عامل۔ تیاری احتیاطیں۔ پرماتما یا پیغمبروں سے ملاقات کا عمل۔ تسخیر ہمزاد بذریعہ [illegible] بذریعہ مسمریزم۔ ہمزاد مسخر ہونے کے بعد کی ضروری باتیں اور ہمزاد سے کام لینا۔ ہمزاد کے ذریعہ پیشگوئی۔ ہمزاد کو [illegible] کا عمل۔ ہمزاد سے تم کیا کام لے سکتے ہیں۔ غیبی خبروں کا پتہ دینا۔ ہمزاد کے ذریعہ سفر کرنا۔ ہمزاد کے ذریعہ سمندر میں تیرنا وغیرہ وغیرہ۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت اسرار ہمزاد باتصویر فی جلد صرف دو روپیہ [illegible] ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔ (نوٹ) ہمزاد کو پہلے روز دیکھنے کی ترکیب ہمراہ مفت ملیگی۔

## تاش کے کھیلوں کا مکمل کورس

### تاش میجک بک باتصویر

۵۰۰ روپیہ نقد انعام اس شخص کو دیا جائیگا جو یہ ثابت کرے کہ اردو زبان میں تاش کے کھیلوں پر ایسی جامع اور مکمل کتاب اس سے پہلے بھی شائع ہو چکی ہے۔ یوں تو آپ نے تاش کے کھیلوں کی عام یا بازاری کتابیں بہت سی دیکھی ہونگی۔ مگر حال ہی میں ایک لائق اور مستند پروفیسر نے نہایت ہی آسان اور بالکل سیدھے سادے تاش کے کھیلوں کی ایک ایسی مکمل اور ضخیم کتاب تیار کی ہے۔ جس کے مطالعہ سے ایک بچہ بھی تاش کے کھیلوں کو سیکھ کر پروفیسر بن جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے استادوں کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ اس لاجواب کتاب میں آپ کو وہ عجیب و غریب حیرت انگیز کھیل ملیں گے۔ جن کو لوگ جادو اور مسمریزم خیال کرتے ہیں۔ اور جس کے ایک ایک کھیل سیکھنے پر لوگ پروفیسروں کو پچاس پچاس روپیہ دیتے [illegible] جاتے ہیں۔ مگر آپ صرف دو روپیہ خرچ کر کے [illegible] کھیل سیکھ کر ہر ایک میں کافی روپیہ کما سکتے ہیں۔ مثلاً بادشاہ کی بیگم اور بیگم کا بادشاہ بنانا۔ ستے کا چھکا بنانا۔ تاش کی [illegible] بنانا۔ کسی آدمی کا دیکھا ہوا پتہ [illegible] بتانا۔ پتوں کو ہاتھ سے چھوتا ہوا غائب ہونا۔ تاش کا پتہ بتانا۔ [illegible] تاش کے پیچھے [illegible] سرخ پھر سیاہ ہو جاویں [illegible] کا ٹکٹ بنا دینا [illegible] بادشاہ تاش میں مختلف جگہ ڈال کر ایک جگہ اوپر سے نکالنا۔ [illegible] خالی پتے اور خالی پتوں کی تصویریں بنانا۔ کسی آدمی کا دیکھا ہوا پتہ [illegible] تصویروں کا غائب ہونا وغیرہ وغیرہ ہر ایک کھیل باتصویر بیان کیا گیا ہے۔ نیز پانچ چھ آدمیوں کے پتے بتانا۔ سولہ پتوں کا کھیل۔ [illegible] عجیب و غریب حیرت انگیز کھیل [illegible] دل پر دل میں سے نکالنا۔ کسی کا دیکھا ہوا پتہ تاش میں ملا کر [illegible] جیب سے نکال دینا۔ دیکھا ہوا پتہ [illegible] اپنی جیب اور کوٹ سے نکالنا۔ [illegible] غرضیکہ اسی قسم کے دوسرے عجیب و غریب تاش کے کھیل بھی اس کتاب میں ملیں گے۔ جو کہ [illegible] اور ساتھ تصویریں بھی دی گئی ہیں۔ لیکن بوجہ عدم گنجائش ہم نے صرف چند ہی کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت تاش میجک بک فی جلد دو روپیہ [illegible]۔ (نوٹ) ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

پتہ:۔ دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس نمبر ۵ ملتان شہر

مارکیٹ میں سب سے پہلے ہم نے اصلی اُلو تنتر کو شائع کیا

# اُلو تنتر عرف خفیہ جادو باتصویر (رجسٹرڈ)

اصلی اُلو تنتر صرف ہمارے کارخانہ کے [illegible]
عام قیمت پر ہرگز نہ مل سکیگا۔

[illegible]

## فنِ جادو و عملیات پر اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی کتاب نہ ملیگی

اسکے سامنے

## دُنیا جہان کے تمام نئے و پرانے جنتر منتر تنتر جادو۔ ٹونے تعویذ گنڈے وغیرہ ہیچ و ناکارہ ہیں۔

**ناظرین!** اُلو جادو و عملیات کی یہ نادر و نایاب کتاب ہے جس کے لئے مدت سے ساری دنیا ترس رہی تھی۔ روئے زمین کا ہر فرد و بشر۔ ہندو۔ مسلمان سکھ عیسائی اس امر کا بخوبی قائل ہے کہ پرندہ اُلو (جس پر تمام دنیا فریفتہ ہے) کے ہر ایک اجزا میں بڑی بھاری عجیب و غریب و غضب کی طاقتیں بھری پڑی ہیں۔ اور اس کے ذریعے ایسے عجیب و غریب و حیرت انگیز کام نکلوائے جا سکتے ہیں۔ اُلو تنتر کو عام اشتہاری یا بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہوگا۔ جن سے شمشانوں اور قبرستانوں کی خاک چھان کر کئی چلے کاٹتے ہوئے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے مگر ہماری کتاب میں آپ کو پرندہ اُلو کے نہایت عجیب و غریب و آسان تین صد تنتر ملیں گے جن کے ذریعے آپ دنیا کا بڑے سے بڑا کام منٹوں میں حل کر کے دنیا میں کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مثلاً عمل حُب یعنی حسینوں کو تسخیر کرنے اور ان کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے بہت سے عجیب و غریب و آسان تنتر آپ کو ملیں گے۔ نیز اُلو کے ذریعے غریب کو امیر اور امیر کو غریب بنانا۔ دشمن کو دوست بنانا۔ بے وقوف بنانے کا تنتر۔ گذشتہ جنم یاد آنا۔ پاتال کے درشن کرنا۔ سینکڑوں میل بلا امکان سفر کرنا۔ چیل کی عجیب و غریب عمل۔ حسینہ تماشا شادی کرانا۔ ایام گردش کو راہ راست پر لانا۔ نیز اُلو کا سُرمہ لگا کر راہ چلتے آدمیوں کو [illegible] میں کرنا۔ آپا تن۔ گھر سے بے گھر کرانا۔ [illegible] میں اول نمبر رہنا۔ زہریلے سانپ کاٹنے کا علاج۔ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر کل مخلوق کو دیکھنا۔ مگر خود کسی کو نظر نہ آنا۔ سلیمانی سُرمہ بنانا۔ مخلوق علوی و سفلی کو دیکھنا۔ اُلو پٹ بجن تیار کرنا۔ عدالت عالیہ یعنی رب حاکم در بار نظر آنا۔ جنوں کی دنیا دیکھنا [illegible] میں پاس ہونا۔ مرض کی تشخیص کے لئے اسپیشل کرامات۔ تو تکرار [illegible] سے محفوظ رہنا۔ دشمن کے گھر کو تباہ و برباد کرنا۔ حاضرین مجلس کو خوش کرنا۔ دن کو تارے دکھلاویں۔ [illegible] نظر آنا۔ [illegible]۔ کرایہ دار سے مکان فارغ کرانا۔ بھوت پریت کو دفع کرنا۔ جنگ و جدل میں کامیابی حاصل کرنا۔ اور تلواروں سے زخم نہ لگے۔ نیز اُلو تنتر کے ذریعہ جادو وغیرہ بیماریوں کا علاج کرنا۔ نیز مہلک سے مہلک بیماریوں کا علاج۔ مثلاً مالیخولیا۔ کھانسی۔ تاپ تلی۔ سیلان الرحم۔ درد گردہ۔ درد پیٹ۔ درد سر۔ جوڑوں کا بخار۔ نامردی۔ سستی۔ قولنج باد۔ سانپ کا ڈسنا۔ مرگی۔ [illegible] وغیرہ کا علاج منٹوں میں کیا جا سکتا ہے۔ نیز اکسیر سوزاک کا آسان عمل۔ [illegible] کے لاجواب تنتر آپ کو ہماری کتاب میں ملیں گے۔ علاوہ ازیں ........ اُلو تنتر کے ذریعے دن کی رات و رات کا دن بنایا جا سکتا ہے۔ نیز شراب کا نشہ۔ شاہی لنگر جاری کرنا۔ جنتر لال [illegible] کی اشیاء خود آ جانا۔ بہشت کا نظارہ۔ تماشہ عجیب علم الغیب۔ [illegible]۔ کل اور آج۔ وغیرہ زن مرید۔ نازبرداریاں۔ [illegible]۔ دولت کا چشمہ۔ خون بند کرنا جاری کرنا۔ عجیب و غریب آوازہ۔ دودھ کا پانی کرنا۔ دودھ کی ندی۔ موت سے مقابلہ۔ بھاری سے بھاری۔ ایک سے دو۔ آگ [illegible]۔ عزت حاصل کرنا۔ اولاد نرینہ پیدا ہو۔ سگائی کرانا۔ روزگار لگنا۔ سرگرداں و پریشان کرنا۔ زن کو قابو کرنا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ آدھے سر کا درد دُور کرنا۔ موتیا بند کا اکسیر تنتر۔ تصویر یار سامنے لا کھینچنا۔ رنگ برنگی دنیا۔ جادو کے پھول۔ جادو کا حلوہ۔ بندر کا ناچ۔ شیطان کی تالی۔ چور پکڑ [illegible] میں۔ دلفریب جال۔ پاتالی آگ۔ جدائی [illegible]۔ تنتر بنائے زبان بندی۔ [illegible] ناگن۔ دیدار پری زاد۔ [illegible] مسافر۔ [illegible]۔ جنت کی راہ۔ شاہزادہ [illegible] سیاحت میں کامیابی حاصل کرنا۔ کالی [illegible]۔ زندہ ناگن۔ خواب خرگوش۔ ببر کی گرج۔ گاگر میں ساگر یعنی ایک لوٹے سے اتنا پانی نکلے۔ کہ کبھی ختم نہ ہو۔ عمل زمین و آسمان بھی میں۔ [illegible]۔ اکسیر اُلو۔ کالی پتلی یعنی [illegible] صورت کی شکل کو سیاہ بنا دینا۔ اور پھر توبہ کرانے پر اصلی شکل میں لانا۔ رستم عالم یعنی ایک ہی نشانے سے بڑے بڑے پہلوان کو چت گرا دینا۔ [illegible]۔ طلسمات عجیب۔ حاکم بس میں۔ افیون کی رخصت۔ عجیب لاٹو۔ دیوتا۔ پریم پجاری۔ جادو کا بدلہ۔ رنگ برنگی فیروزہ۔ خشک پانی۔ طوفان کا پانی۔ دردِ دل۔ جام جہاں نما۔ طلسماتی گھوڑا۔ مُردوں کا انتقال۔ جادوئی قلم۔ یعنی اس قلم سے آپ جو بھی کچھ لکھ کر تحریر یا دُعا یا تعویذ وغیرہ لکھا کریں گے۔ تو یقیناً وہ سائل کامیاب ہوگا۔ تحریر خواہ کسی زبان میں ہو۔ مثلاً اُردو۔ ہندی۔ انگریزی۔ گورمکھی۔ ناگری۔ گجراتی۔ [illegible] وغیرہ موصوف سہل الفاظ میں تحریر ہو۔ جادو کا [illegible] اُلو کا ایک ایسا تنتر کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے آپ دیکھتے دیکھتے ایک جلتا ہوا سانپ بن جاوینگے۔ اس کے بعد ہیبت ناک شکل کا دیو بن جاوینگے۔ بعد ازاں آپ بوڑھے سادھو سنیاسی کی شکل میں بدل جاویں گے۔ اور اس کے بعد فوراً غائب ہو کر اپنے اصلی رُوپ میں آ جاویں گے۔ غرضیکہ اس تنتر کے ذریعے ہر شخص غالب پر غالب (اچھیادھاری) انسان بن کر جیسے آپ کو جی چاہے میں [illegible] بدل سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کتاب اُلو تنتر میں آپ کو اس قسم کے تین صد اُلو تنتر ملیں گے۔ بوجہ عدم گنجائش ہم نے چند تنتروں کا ذکر یہاں کر دیا ہے۔ زیادہ خوبی دیکھنے پر منحصر ہوگی۔ نیز اُلو کو پکڑنے اور اُلو کو سدھارنے کے طریقے بھی ہماری کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ اور ساتھ ہی اُلو کو شراب پلانے کا عمل بھی معہ تصویر کے درج کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے اُلو خود بخود آپ کے سامنے بولنے لگیگا۔ اور اپنی تمام خصوصیات خود بخود آپ کو بڑی سنجیدگی سے سنائیگا۔ جس کے سننے سے آپ کی حیرانی کی کوئی حد باقی نہ رہیگی۔ گویا اُلو اپنے تمام تنتر خود بخود اپنی زبان سے بیان کرتا چلا جاوے گا۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کتاب **اُلو تنتر عرف خفیہ جادو باتصویر** رعایتی فی جلد **تین روپیہ** ہے، جو کہ مفت کے برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ قریباً ہر ایک تنتر کے ساتھ ساتھ آسانی سے سمجھنے کے لئے مختلف نوع بنوع تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ کاغذ ولایتی اور خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے۔ غرضیکہ کتاب نہایت محنت اور جانفشانی اور زر کثیر صرف کر کے تیار کرائی گئی ہے۔ چونکہ آج تک دنیا بھر کی کسی زبان میں کسی کتب خانہ میں شائع نہیں ہوئی۔ آج ہی فوراً طلب کرو۔ ورنہ اگلے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ (نوٹ) ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

## پتہ:۔ دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس عث ۵ ملتان شہر

الو نوٹ: آجکل کے نقالوں [illegible] نے اس قسم کی نقلی و فرضی کتابیں [illegible] فروخت کرنی شروع کر دی ہیں۔ لہٰذا اصلی اُلو تنتر منگوانے کے لئے ہمارا دفتر کا پتہ یاد رکھیں۔

[illegible]

# نازنینوں پر فتح پانے کے نسخہ جات

**فاسفوجین**

اگر آپ گنہگار ان نوجوان بوڑھوں میں سے ہیں جو آغاز شباب میں ہی اپنی جوانی کا اپنے ہاتھوں ستیاناس کر چکے ہوں۔ اگر آپ کی جوان بیوی خون کے آنسو رو رہی اور سر دھن کر رہ جاتی ہو۔ اگر آپ کی جوانی کی امنگوں پر پانی پھر گیا ہو۔ اگر آپ کے اندر جوہر مردمی کمزور اور زائل ہو چکا ہو تو آپ فوراً فاسفوجین PHOSPHOGENE کا استعمال کریں جو کہ چند روز میں ہی آپ کے اندر جوانی کی روح پھونک دیگی اور زندگی کو پُرلطف اور شادکام بنا دیگی۔ جوانی کی غلطیوں اور کثرت مباشرت سے پیدا شدہ جسمانی، دماغی اور اعصابی کمزوریوں کو دور کر کے جسم کے اندر طاقت کا ایک اٹھتا ہوا سمندر موجزن کر دے گی۔ اس کی ہر ایک گولی میں فاسفورس، یوہمبین اور دامیانہ جیسی مقویات کی مقدار خاص طور پر شامل کی گئی ہے۔ قیمت فی شیشی ۲۰ گولی ایک ہفتہ کیلئے [illegible] ہر موسم میں بلا پرہیز۔

**فرنچ آئینٹ طلا**

یعنی فرانسیسی طلا۔ اس طلا کے چند روزہ استعمال سے مردہ رگوں اور پٹھوں میں نئی زندگی عود کر آتی ہے۔ اور ابھری ہوئی نسوں کا گندہ مواد حل کر تمام کجی، کوتاہی اور لاغری دور ہو جاتی ہے۔ آبلہ یا زخم نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی ٹیس پیدا ہوتی ہے۔ قیمت فی شیشی مکمل شفا کیلئے [illegible]



**آلہ نامردی**

ولایت کا انتہائی سائنٹیفک کمال۔ اس آلہ کے ذریعہ نامردی کے دفعیہ کے لئے جسمانی خون کی شفا بخش تاثیر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی شیشہ کی نلکی کو مقامی طور پر لگا کر نلکی کی ہوا خارج کر کے خلا پیدا کیا جاتا ہے جس سے خون صالح کی ایک کثیر مقدار عضو کے اندر کھنچ آتی ہے اور مردہ رگیں اور شریانیں اس خون سے غذا حاصل کر کے از سر نو زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح مقامی نقائص اور نامردی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کسی زہریلی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر قسم کی نامردی کا شرطیہ مکمل اور مستقل علاج۔ ایک ہی آلہ سینکڑوں مریضوں کے کام آ سکتا ہے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف پانچ روپیہ۔ آلہ خاص فربہی اور درازی کے لئے انگریزی پمپ والا۔ جو لوگ بیس روپیہ کو بیچتے ہیں قیمت صرف بارہ روپیہ آٹھ آنہ۔ محصولڈاک دونوں حالتوں میں ایک روپیہ تین آنہ۔ آدھی قیمت پیشگی آنا لازمی ہے۔

**آلہ احتلام**

جن بدقسمت نوجوانوں کا متاع شباب رات کو شیطان کے ہاتھوں لٹ جاتا ہو ان کیلئے یہ آلہ نعمت ہے۔ اس عجیب و غریب آلہ کو رات کو سوتے وقت مقامی طور پر لگا لینے سے احتلام قطعی ناممکن ہو جاتا ہے۔ [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ۔

**برتھ کنٹرول**

یعنی زیادتی اولاد کی روک تھام کیلئے ربڑ کے آلہ جات۔ ان آلہ جات کی مدد سے بغیر نقصان کے اولاد کا پیدا کرنا طرفین کی مرضی پر موقوف ہو جاتا ہے۔ نیز اگر طرفین میں سے کوئی آتشک یا سوزاک جیسی متعدی مرض میں مبتلا ہو تو فریق ثانی خطرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ بیکاری اور غربت کے زمانہ میں ان کا استعمال خداداد نعمت ہے۔ مرد کیلئے فرنچ لیدر درجہ اول ایک پیکٹ [illegible] درجہ دوم ۱۲ درجہ سوم ۸ درجہ چہارم ۴۔ کراکوڈائل خول جو کہ عورت کو مسخر کرنے میں جادو کا اثر رکھتے ہیں فی عدد بارہ آنے ۱۲

**امساک**

لطف کی گھڑیوں کو لمبا کرنے کو کس کا جی نہیں چاہتا۔ انسان کے اندر یہ قدرتی خواہش ہے کہ ہم بستری کے لطف کو جتنی دیر زیادہ ہو سکے قائم رکھے۔ ہماری وائروٹنٹ VIROTENT نامی گولیاں اس مطلب کے حصول کا اثر رکھتی ہیں۔ سرعت کی ندامت سے بچنے اور تسخیر قلب محبوب کا واحد ذریعہ ہیں۔ شوقین مزاجوں کے لئے نایاب تحفہ ہیں۔ قیمت ۲۰ گولی صرف دو روپے [illegible]

**طلسماتی چٹکی**

یعنی کنٹریکٹیور CONTRACTEUR نامی سفوف کے مقامی استعمال سے عورت مثل باکرہ بن جاتی ہے۔ نیز عورتوں کی ہر قسم کی [illegible] سیلان الرحم وغیرہ کو بند کرنے میں یہ سفوف اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ [illegible] قیمت فی شیشی [illegible]

**جوبن کا ابھار**

عورت کی خوبصورتی تا کے ابھرے ہوئے جوبن پر منحصر ہے۔ جن عورتوں کی چھاتیاں بوجہ بے احتیاطی یا کثرت اولاد کے ڈھلک گئی ہوں ان کے دل سے ذرا پوچھئے۔ زیادہ کیا لکھیں۔ بسٹوبریس BUSTO BRACE کے بیرونی استعمال سے ڈھلکی ہوئی چھاتیاں پھر دوبارہ لڑکی کی مانند سخت اور مضبوط ہو کر شباب کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ جسم میں جوانی کی شان پیدا ہو کر خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ قیمت فی شیشی [illegible]

**سرمہ میرہ**

آنکھیں خوبصورتی اور محبت کا سرچشمہ ہیں۔ مرد ہو یا عورت دونوں کے چہرے کی زینت آنکھوں کی صحت پر موقوف ہے۔ اگر آنکھیں سرخی، دھند، غبار، جالا، پھولا، پڑوال، ککرے وغیرہ امراض سے خراب ہوں تو چہرے کی رونق بھی جاتی رہتی ہے اور انسان کا رعب اور کشش بھی کسی پر اپنا جادو نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا سرمہ میرہ جس کو انگریزی میں کاپٹسٹیریم COPTISTYRIUM کہتے ہیں آنکھوں کی بالا تمام شکایات کو رفع کر دیتا ہے۔ [illegible] سفید بال [illegible] قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ [illegible]

**پتہ فرنچ ناولٹی سٹورز [illegible] لاہور**

**نوٹ** ہماری ہر ایک دوائی یا آلہ کے ساتھ پرچہ ترکیب استعمال ضرور ہو گا۔ محصولڈاک اور پیکنگ کا خرچ ہر حالت میں بذمہ خریدار ہو گا۔

چیزیں منگاتے وقت جنتری کا حوالہ ضرور دیں

[illegible]

## مقامات اشاعت مشتہر عالم جنتری ۱۹۳۶ء

[illegible]



PANDIT
GIRDHARI LAL
[illegible]
SIALKOTI-1836-LAHORE

[illegible]

CALL No. { ۵۲۹۶۳ [illegible]

ACC. No. ۲۲۵۵۹

AUTHOR [illegible]

TITLE [illegible]

AZAD LIBRARY A.M.U

Date | No. | Date | No.

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

-:RULES:-

1 The book must be returned on the date stamped above.

2 A fine of Re 1/- per volume per day shall be charged for text-books and 10 P. per vol. per day for general books kept overdue.